



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي
أَنْزَلَ هَذِهِ السُّورَةَ
وَجَعَلَ فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ
لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

قَالَ كَرِيمٌ فِي الْاَبْرَارِ كَرِيمٌ وَاسْتَبْرَأَ وَالْوَالِدَةُ لَا تَعْبُرُونَ

مجموعہ طرف
مع

دلائل الخیرات

ترجمہ و اضافات

فقیر پیر محمد کرم شاہ مین علماء الازہر الشریف
بجاہ نشین آستانہ عالیہ الازہر الشریف حضرت پیر امیر شاہ حسام الدین نظامی بھیرہ، ضلع سرگودھا

ناشر

ضیاء القرآن پبلی کیشنز
ڈاتا گنج بخش روڈ
لاہور پاکستان

◎
مجلہ حقوق محفوظ

نام کتاب	_____	مجموعہ وظائف مع دلائل الخیرات
مؤلف	_____	پیر محمد کرم شاہ صاحب سجادہ نشین بھیرہ
خطاطی	_____	خوشی محمد ناصر قادری
ضخامت	_____	۴۴۴ صفحات
بار	_____	اول
تاریخ اشاعت	_____	رمضان المبارک ۱۴۰۵ھ / جون ۱۹۸۵ء
مطبوعہ	_____	حامد جمیل پرنٹرز ریڈی گن روڈ - لاہور
ہدیہ	_____	
ناشر	_____	ضیاء القرآن پبلی کیشنز، گنج بخش روڈ - لاہور



فہرست

صفحہ	عنوان
۵	مقدمہ
۱۵	ترکیب ادائے وظائف (فارسی)
۱۹	ترکیب ادائے وظائف (اردو)
۲۵	اسمائے حسنیٰ
۲۹	دُعا ربکبیر
۳۲	ابنوع شریف
۵۶	درود مستغاث شریف
۷۴	سلسلہ چشتیہ نظامیہ (عربی)
۸۹	سلسلہ چشتیہ نظامیہ (اردو منظوم)
۹۱	سلسلہ قادریہ (عربی)
۱۰۰	مختصر احوال مشائخ چشت اہل بہشت
۱۱۸	مستعات عشر
۱۲۵	اسما ربیع
۱۳۳	دُعا رُسُوتِ عصر
۱۳۴	درود کبریٰ امیر شریف
۱۵۲	دُعائے ماثورہ از قرآن کریم
۱۵۵	دُعائے ماثورہ از احادیث نبوی

صفحہ

عنوان

۱۶۸	ترکیب نوافل مع اعمیہ
۱۶۸	دُعایہ بدر دلائل الخیرات
۱۸۱	مصنعت دلائل الخیرات شریف کے حالات
۱۸۳	دلائل الخیرات شریف پڑھنے کا طریقہ
۱۸۵	مقدمہ دلائل الخیرات
۱۸۹	فصل در فضائل درود شریف
۲۰۹	اسما النبی صلی اللہ علیہ وسلم
۲۲۰	صفۃ الروضۃ المبارکہ
	فوتو حرمین شریفین (مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ)
۲۲۳	پہلی منزل
۲۳۸	دوسری منزل
۲۶۰	تیسری منزل
۲۹۲	چوتھی منزل
۳۱۹	پانچویں منزل
۳۲۶	چھٹی منزل
۳۶۴	ساتویں منزل
۳۵۸	اٹھویں منزل
۳۱۴	دعا خاتمہ دلائل الخیرات
۲۲۰	درود اکیسیر اعظم
۲۲۰	تاریخ اعراس

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مقدمہ

ذکر الہی، زندگی کی جان ہے۔ وہ زندہ انسان جو ذکر الہی سے غافل اور محروم ہے اگرچہ عام دیکھنے والوں کی نظروں میں تو اسے زندہ شمار کیا جاتا ہے لیکن درحقیقت وہ مردہ ہے۔ بے جان ہے اور زندگی کی برکتوں سے محروم ہے۔ حیاتِ انسانی کی وہی گھڑیاں سردی اور ابدی ہیں جو اپنے خالقِ کریم کی یاد اور محبت میں بسر ہوتی ہیں۔ زندگی کے وہ لمحے جب انسان ذکر الہی سے محروم ہوتا ہے وہ فانی ہیں، لاعاقل ہیں اور ایسی زندگی بسر کرنے والے کو بجز حسرتِ فداقت اور کچھ نہیں ملتا۔

یہ لطیفہ فیسی جس کو قلب کہتے ہیں جو مملکتِ جسم کا سلطان اور فرمانروا ہوتا ہے جب تک اسے لذتِ ذکر الہی نصیب نہیں ہوتی وہ اندر وہ دھڑمردہ رہتا ہے۔ حوادثِ دہر کے طوفانِ بھول کی طرح اسے اڑاتے رہتے ہیں۔ نہ اسے کہیں قرار نصیب ہوتا ہے اور نہ سکون میسر آتا ہے۔ وہ ایک ایسی یتیم ہے جس کی دور کٹ گئی ہے۔ اور جب کشورِ جسم کے سلطان کی پڑمردگی، بے چینی اور اضطراب کا یہ حال ہو تو جسم کی دوسری قوتیں ظاہری اور باطنی، ان میں سکون و اطمینان کیونکر پایا جاسکتا ہے۔ زندگی کے سارے ماہ و سال فکر کی پراندگی اور ذہن کی بے چینی کا مرکز بنے بستے ہیں۔ نہ وہ اپنی منزل کا صحیح تعین کر سکتا ہے اور نہ وہ کیسٹونی اور دل جمعی کے ساتھ اپنی خداداد قوتوں کو بروئے کار لگا کر اپنی منزلِ حیات کی طرف پیش قدمی کر سکتا ہے۔ ساری طرے بھٹکتے بھٹکتے اور ٹھوکریں کھاتے پیت جاتی ہے اور جب اس کی زندگی کا چراغ بجھتا ہے تو ناکامی، نامرادی اور حسرت و یاس کے کائناتوں کے بغیر اس کے دامن میں کچھ بھی تو نہیں ہوتا۔

انسان کی زندگی کی منزل کا تعین اور اس کی طرف کیسٹونی کے ساتھ رواں دواں رہنے کا عزم صرف انہیں نصیب ہوتا ہے جن کے دل میں محبوبِ حقیقی کے عشق کی آگ بھڑک رہی ہوتی ہے۔

اور ذکر الہی کی شمع ہاتھ میں پکڑ کر وہ جادہ عشق و محبت پر گامزن رہتا ہے۔ اسی لئے قرآن کریم میں بار بار مختلف اسلوبوں سے انسان کو ذکر الہی کی ترغیب دی گئی ہے اور غفلت کے سراسر میں ٹھوکریں کھاتے رہنے سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اسی طرح سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ارشاداتِ علیہ السلام سے اپنے غلاموں کو خوابِ غفلت سے بیدار کرنے کی سعی جمیل فرمائی ہے۔ اور بڑے شوق آفرین انداز بیان سے اللہ تعالیٰ کے بندوں کے دلوں میں اپنے رب کریم کی یاد کا ذوق و شوق پیدا فرمایا ہے۔

پہلے آپ بے شمار آیاتِ قرآنی میں سے چند آیاتِ کریمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اس کے بعد حکمتِ نبوت کے سدا بہار گلزار کے رنگین اور میٹھے ٹبوتے چند پھول پیش کرنے کی سعادت حاصل کر لیں گا۔

ارشادِ خداوندی ہے :-

۱۔ فَادْعُنِيْ اَدْعُكُمْ وَاَشْكُرْ لِيْ ذَلِكُمْ مَمْدُونٍ۔ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو۔

کتنی سیاری آیت ہے۔ رب کریم اپنے بندے کو فرما رہے ہے کہ اگر تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور بندے کی اس سے بڑی خوش قسمتی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس کا خدا سے یاد کرے۔

حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :-

مجھے پتہ چل جاتا ہے جب میرا خدا مجھے یاد کرتا ہے۔ لوگ یسٹن کر گھبرا گئے انہوں نے پوچھا آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے۔ آپ نے جواب دیا جب میں اُس کو یاد کرتا ہوں وہ مجھے یاد کرتا ہے۔

اس آیت کے پڑھنے اور اس میں غور کرنے سے ذکر الہی کا شوق خود بخود پیدا ہو جاتا ہے لیکن صرف اسی پر اکتفا نہیں بلکہ ذکر کرنے والے کے ساتھ وعدہ بخود و کرم بھی ہے۔ اَدْعُونِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ، تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا جس سائل کو یقین ہو کہ جس دروازے پر وہ دامن سوال پھیلا رہا ہے وہ کریم ہے اور وہ اپنے سائل کو کبھی حسالی واپس نہیں کرتا خود سوچتے اُس سائل کے ذوق و شوق کا کیا عالم ہو گا۔ صرف ایک آدھ بار

ذکر کرنے کو کافی نہیں سمجھا گیا بلکہ کثرت ذکر کی بار بار تاکید کی گئی ہے تاکہ بندہ کا کوئی سانس اور کوئی لمحہ اپنے خالق کریم کی یاد کے بغیر نہ گزرے۔ کہیں فرمایا۔ اذْکُرُوا اللّٰهَ ذِکْرًا کَثِیْرًا۔ اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ کہیں فرمایا۔ الَّذِیْنَ یَذْکُرُوْنَ اللّٰهَ قِیَامًا وَقُعُوْدًا وَعَلٰی جُنُوْبِهِمْ۔ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو ہر حالت میں یاد کرتے ہیں کھڑے ہو کر بھی، بیٹھے ہوئے بھی اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے بھی۔ پھر فرمایا۔ فَاِذَا اَقَضْتُمْ الصَّلٰوةَ فَاذْکُرُوا اللّٰهَ قِیَامًا وَقُعُوْدًا وَعَلٰی جُنُوْبِكُمْ۔ کجب تم نماز ادا کر چکو تو پھر بھی اللہ کا ذکر کرو کھڑے ہو کر، بیٹھ کر اور لیٹے ہوئے یعنی نماز ادا کرنے کے بعد یہ نہ بھوکو کہ اب مزید ذکر کی ضرورت نہیں اتنا ذکر ہی کافی ہے جو اشارہ نماز کیا گیا ہے۔ فرمایا نماز کے بعد بھی ذکر کی تسبیح کو روشن رکھو اور جس حالت میں ہو ذکر الہی میں مشغول رہو۔

الغرض قرآن کریم میں بکثرت ایسی آیات ہیں جن میں یہ تاکید کی گئی ہے کہ صبح و شام ذکر کرو، رات اوردن میں ذکر کرو۔ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے ذکر کرو، سورج کے غروب ہونے سے پہلے ذکر کرو، سورج ڈھلے تو ذکر کرو جب رات کے وقت ساری دنیا بھی نیند کے مزے لوٹ رہی ہو، تم جاگو اور اپنے محبوب و پروردگار کی یاد میں محو ہو جاؤ کسی عارف ربانی نے خوب کہا ہے۔

اوقات بھلے ہو کر یا یاد بے سر شد باقی ہمہ بے حالی و بے خودی بود
زندگی کے قیمتی لمحے تو وہی تھے جو محبوب حقیقی کی یاد میں بسر ہوئے۔ اس کے علاوہ جو کچھ کیا وہ لامعاصل تھا، بے مقصد تھا، بے نتیجہ تھا اور نادانی تھا۔

ذکر الہی کی انہی قرآنی تعلیمات کو شارح قرآن کریم حضور نبی روف و رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جہاں پر درارشادات سے بھی واضح فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا:-

۱۔ ذَاکِرُ اللّٰهِ فِی النَّفَاطِلِیْنَ کَالشَّجَرَةِ النَّخْرِ اَوْ فِی وَشَطِ النَّہْشِیْمِ۔
اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا نوافل میں اس طرح ہے جس طرح سُکھی گھاس میں ہلچل درخت۔
دوسرا ارشاد گرامی ہے:-

۲۔ فَاکُو اللّٰهَ فِی النَّفَاطِلِیْنَ کَالْمُعَاتِلِ بَیْنَ النَّفَاطِلِیْنَ۔
نوافل میں اللہ کا ذکر کرنے والا ایسا ہے جیسے میدان جہاد سے بھاگنے والوں میں راہِ حق میں جنگ و قتال کرنے والا مجاہد۔

ایک حدیث قدسی سماعت فرمائیں:-

۳۔ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَا مَعَ عَبْدِي مَا ذَكَرَنِي وَتَحَرَكَتْ شَفَاؤِي؟

۴۔ حضور نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔ میں اپنے بندے کے پاس ہوتا ہوں جب تک وہ میرا ذکر کرتا ہے اور میرے ذکر سے اس کے دونوں ہونٹ حرکت کرتے رہتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے کچھ نصیحت فرمائیے حضور نے فرمایا اپنے مقدر و ربِّ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور حجر و شجر کے پاس اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو۔ اگر کوئی بڑا کام کرے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں از سر نو توبہ کرو۔ پوشیدہ گناہ کی پوشیدہ توبہ اور علانیہ گناہ کی علانیہ توبہ۔

۵۔ حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں آخری بار جس پر میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جدا ہوا وہ یہ ہے کہ میں نے آپ سے دریافت کیا کہ کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیارا ہے حضور نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں اس حالت میں موت آئے کہ تمہاری زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر ہو۔ حدیث کے الفاظ ہیں۔

۶۔ أَيْ الْأَخْضَالِ أَضْطَلُّ قَالَ أَنْ تَمُوتَ وَلِسَانُكَ رَطْبٌ بِذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ۔
فَنَيْلَتِ ذِكْرِكَ بَارِعًا فِي آخِرِ حَيَاتِكَ أَوْ سِيَرًا فِي حَيَاتِكَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ۔

۷۔ قَالَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَنْ شَغَلَهُ ذِكْرِي عَنْ مَشْغَلَتِي أَعْطَيْتُهُ أَضْضَلُّ مَا أُعْطِيَ السَّائِلِينَ۔

جس شخص کو کثرتِ ذکر کے باعث سوال کرنے کی ہی فرصت نہ ملے میں اُس کو بن مانگے دُھنسیں عطا فرماتا ہوں جو مانگنے والوں کی مانگی ہوئی نعمتوں سے افضل و اعلیٰ ہوتی ہیں۔ اہل ذکر کی شان اور مقام رفیع کا تو کیا کہنا وہ مجلسِ ذکر میں وہ بیٹھ کر اپنے رب کو یاد کرتے ہیں اُس کی شان ہی ہمارے تصور کی حد سے بالاتر ہے۔

۸۔ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا جَلَسْتُ قَوْمًا مَجْلِسًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا أَحْبَبْتُ إِلَهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَعَشِيَّتُهُمُ الرَّحْمَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ۔

جس مجلس میں بیٹھ کر لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں نورانی فرشتے اُن کو چاروں طرف سے
 ٹھہر لیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ان پر بھجھ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو یاد فرماتا ہے ان اہل مجلس
 کے درمیان جو اُس کے حرمِ قرب میں حاضر ہوتے ہیں۔

۲- وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ قَوْمٍ اجْتَمَعُوا أَيُّذُ كُرُونِ اللَّهِ تَعَالَى
 لِيُرِيدُوا بِذَلِكَ إِلَّا وَجَّهَهُمُ إِلَى مَا هُوَ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ قَوْمُوا مَعْفُورًا لَكُمْ قَدْ
 بَدَلْتُ لَكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ حَسَنَاتٍ۔

نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لئے ایک جگہ
 جمع ہوتے ہیں اور اس سے ان کا مقصد رضائے الہی کے بغیر اور کچھ نہیں ہوتا تو ان
 لوگوں کو آسمان سے ایک ندا کرنے والا ندا کرتا ہے۔ اُٹھو! تمہارے سارے گناہ بخش
 دیئے گئے ہیں اور تمہاری برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔

۳- اہل ذکر کی مجلسوں کی بارگاہِ الہی میں بڑی عزت و شان ہے۔ اس سلسلے کی آخری حدیث
 حضرت ابو ہریرہ اور ابو سعید خدری سے منقول ہے جسے امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی
 اپنی صحیح میں روایت کیا ہے اُس کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔

عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَلَائِكَةً سَيَّاحِلِينَ فِي الْأَرْضِ
 فَضَّلَاعِنَ كِتَابِ النَّاسِ فَإِذَا وَجِدُوا قَوْمًا يُكُونُ كُرُونِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَادْعُوا أَهْلَهُمْ
 إِلَى بُيُوتِكُمْ فَيُحْفَوْنَ بِهِيَ إِلَى السَّمَاءِ وَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى
 أَيُّ شَيْءٍ تَرَكْتُمْ عِبَادَتِي يَتَّسَعُونَ لَهُ يَقُولُونَ تَرَكْنَا هُوَ حَمَلٌ وَنَكَتٌ وَنَكَتٌ
 وَيَسْتَعْمُونَ نَكَتٌ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى وَهَلْ رَأَوْنِي يَقُولُونَ لَا يَقُولُ جَلَّ جَلَالُهُ
 كَيْفَ لَوْ رَأَوْنِي يَقُولُونَ لَوْ رَأَوْا أَنَّ الشَّدَّ تَسْبِيحًا وَتَحْسِينًا وَيُحْمَدُ يَقُولُ لَهُمْ
 مِنْ أَيِّ شَيْءٍ يَتَّعُونَ دُونَ يَقُولُونَ مِنَ الشَّدَّ يَقُولُ تَعَالَى وَهَلْ رَأَوْهَا يَقُولُونَ لَا
 يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَلْبَعٌ لَوْ رَأَوْهَا يَقُولُونَ لَوْ رَأَوْهَا لَكَانُوا الشَّدَّ بِهَا مِنْهَا
 وَاسْتَنْعَزُوا يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَيُّ شَيْءٍ يَطْلُبُونَ يَقُولُونَ الْبَعْنَةُ يَقُولُ تَعَالَى
 وَهَلْ رَأَوْهَا يَقُولُونَ يَقُولُ تَعَالَى كَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا يَقُولُونَ لَوْ رَأَوْهَا لَكَانُوا الشَّدَّ عَلَيْهَا حَرِصًا

فَيَقُولُ جَلَّ إِلَهِي أُنْشِدْ لِي مَا تَمَدَّ عَقْرَتُ لَهُمْ فَيَقُولُونَ كَانَ فِيهِمْ فُلَانٌ لَعَزِيدٌ مِمَّا اسْمَاءُ
جَاءَ لِحَاجَةٍ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هُوَ الْقَوْمُ الَّذِي يَشْقَى جِلْبَابُهُمْ.

ترجمہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے بعض فرشتے ہیں جو زمین میں حسنا
کے لئے مقرر ہیں جب وہ کسی قوم کو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے پاتے ہیں تو ایک دوسرے کو آواز
دیتے ہیں ادھر آویز ہے تمہارا مقصود پس سب آجاتے ہیں اور آسمان تک غلا کو بھر دیتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے میرے بندوں کو کیا کرتے ہوئے تم نے چھوڑا۔ وہ فرشتے عرض کرتے
ہیں ہم نے انہیں چھوڑا اس حال میں کہ وہ تیری حمد کر رہے تھے تیری بڑائی بیان کر رہے تھے اور
تیری یا کی بیان کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سے دریافت کرتا ہے کہ انہوں نے مجھے دیکھا ہے۔
فرشتے جواب دیتے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو ان کی کیا کیفیت ہوتی فرشتے
عرض کرتے ہیں اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو وہ تیری تسبیح، تحمید اور تہجد پر اور زیادہ حریص ہوتے پھر اللہ تعالیٰ
ان سے پوچھتا ہے کیا وہ کسی چیز سے پناہ مانگ رہے تھے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں النی وہ آگ کے
عذاب سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے آتش جہنم کو دیکھا ہے فرشتے
کہتے ہیں نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ اُسے دیکھ لیتے تو ان کی کیا کیفیت ہوتی۔ فرشتے عرض کرتے
ہیں اگر وہ اُسے دیکھ لیتے تو وہ اس سے اور زیادہ دور بھاگتے پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کوئی چہرے
بھی کر رہے تھے فرشتے کہتے ہیں کہ جنت۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے اس کو دیکھا ہے؟
فرشتے کہتے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی کیا کیفیت ہوتی اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے۔ فرشتے
کہتے ہیں اگر وہ اس کو دیکھ لیتے تو اس کے حصول کے لئے اور زیادہ خواہش کا اظہار کرتے اللہ تعالیٰ
فرماتے ہیں اے فرشتو! میں نہیں گواہ بنا تا ہوں کہ میں نے ان کو بخش دیا ہے۔ فرشتے عرض کرتے
ہیں کہ اس محفل میں ایک ایسا آدمی بھی تھا جو اس مقصد کے لئے وہاں نہیں آیا تھا بلکہ اُسے کوئی
اور حاجت تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا ذکر کرنے والے بندے وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس
بیٹھنے والا بد بخت نہیں رہتا۔ یعنی وہ آدمی اگرچہ میرے ذکر کے لئے اس محفل میں شریک نہیں
ہوا تھا لیکن اہل ذکر کی ہم نشینی تو اسے نصیب ہوتی تھی جو ایسے لوگوں کے پاس بیٹھ جاتے اس کی
شعادت سعادت سے بدل جاتی ہے۔

ذکر الہی وہ مستقل ہے جس سے دل کارنگار دُور ہوتا ہے جس سے غفلت کی مدوشی کا فور
 ہوتی ہے اور نفس انسانی اخلاقِ رذیلہ سے نجات حاصل کر کے اخلاقِ حسنہ سے مزین و آراستہ ہوتا
 ہے اور انسانیت کے اعلیٰ و ارفع مقام پر اس کو رسانی نصیب ہوتی ہے اس لئے صوفیاء کرام خود بھی
 اور اپنے متوسلین کو بھی ذکر الہی کی طرف متوجہ کرتے رہتے ہیں اس لئے مختلف قسم کے درلود و وظائف
 انہوں نے طالبانِ حق کے لئے مدون و مرتب کر دیئے ہیں جو قرآن و سنت سے ماخوذ ہیں۔ تاکہ
 آسانی کے ساتھ وہ ان پر عمل یہاں ہو سکیں حضور نبی کریم ﷺ روف و رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی
 ذاتِ اقدس و اطہر پر دُرودِ پاک بھی ذکر الہی کی اعلیٰ ترین قسم ہے۔ کیونکہ ارشادِ باری ہے اِنَّ اللّٰهَ
 وَصَلَّآتُہٗا یُصَلِّوْنَ عَلَی النَّبِیِّ یَا اَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا صَلُّوْا عَلَیْہِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِیْمًا یعنی یہ دُرود ذکر ہے
 جس کو صرف خالقِ انسان ہی انجام نہیں دیتے بلکہ نوری فرشتے بھی اس سے سعادت حاصل کرتے
 ہیں اور خود خداوند کریم بھی اپنے حبیبِ مکرّم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر دُرود و سلام بھیجتا ہے اس لئے
 دیگر اذکار کے علاوہ دُرودِ پاک بھی اولیاءِ کاملین اور ان کے متبعین کا شعار رہا ہے اور دُرود
 پاک کے فضائل و برکات سے احادیث کی کتب بھری پڑھی ہیں جن میں سے چند احادیثِ دلائل الخیرات
 شریفہ کی ابتداء میں حضرت حنفیہ نے ذکر کر دی ہیں۔ دلائل الخیرات دُرودِ پاک کے ان تمام معنیوں
 پر مشتمل ہے جو مختلف اسناد سے مروی ہیں اور اس کو اتنا قبولِ عام نصیب ہوا ہے کہ تمام مسلمان
 تصوف میں اس کی تلاوت کی جاتی ہے اور اس کو باعثِ سعادت و نجات تصور کیا جاتا ہے۔

بعض غیر مند و پاک کے چاروں مشہور سلسلوں چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ اور نقشبندیہ میں اس طریقہ کو پابندی
 سے پڑھا جاتا ہے۔ اور جن اہلِ دل حضرات نے اس کو اپنا معمول بنایا ہے انہیں ان برکات کا ذاتی
 مشاہدہ ہے جو اس کے طفیل بارگاہِ الہی سے انہیں ارزانی ہوتی ہیں حضرت شاہ ولی اللہ
 محدث دہلوی آپ کے مشائخ، آباء و اجداد اور آپ کے متوسلین اس کے عامل تھے۔ آج جب کہ
 مادی لذتوں کی کشش نے اور زر و سیم کی ہوس نے ہر شخص کو اتنا مشغول کر دیا ہے کہ اسے ذکر الہی
 کے لئے نہ وقت ملتا ہے اور نہ اس کا شوق اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے ضروری ہے کہ مشائخِ عظام
 اور اولیاءِ کرام کے وظائف و معمولات کو بڑی اعلیٰ کتابت اور دیکھش طباعت کے ساتھ نیت کے نوجوانوں
 کی خدمت میں پیش کیا جائے تاکہ وہ اپنی زندگی کے اولین مقصد کے حصول کی طرف بھی متوجہ ہوں۔

اس لئے ادارہ ضیاء القرآن سلی کیشنز نے لاکھ نظرات اور جملہ سلاسل تصوف کے دیگر اورداد کو پڑھے مگر
 طریقہ سے طبع کرانے کا اہتمام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارہ کو خدمت دین کی بیش از بیش توفیقات
 سے بہرہ ور فرمائے۔

آج کل بعض اہل ظاہر جو کسی غلط فہمی کے باعث اپنے آپ کو اہل علم و فضل میں شمار کرتے ہیں
 ہر جگہ یہ کہتے ہوئے منشی دیتے ہیں کہ یہ اورداد و طاقت بدعت ستینہ ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت سے
 روکنے کا باعث ہیں مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کو اپنے معمولات میں ہرگز داخل نہ کریں۔

آج کل لوگ ویسے بھی خواہشات نفسانی کے اسیر اور لذات دُنیا کے گرویدہ ہونے کے بلوٹ
 ذکر الہی سے محروم ہیں۔ ان عریان علم و فضل کی ان باتوں نے انہیں ذکر الہی کے شوق سے یکے مخروم
 کر دیا ہے۔ اب انہیں اس محرومی پر احساس زریاں بھی نہیں رہا۔ ان حضرات کے ان ارشادات نے
 انہیں مطمئن کر دیا ہے کہ عظمت کی مٹھی نیند کے جو مزے یہ لوٹ رہے ہیں اسی میں ان کی خیر ہے اسی
 میں ان کی بھلائی ہے۔

حالانکہ اگر صاحبان بزرگان دین کے ان وقافت و اورداد کا بنظر غائر مطالعہ کریں تو انہیں اس
 تیسرے پہنچنے میں ذرا وقت نہ ہو کہ قرآن کریم کی بے شمار آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان گنت
 ارشادات جن میں ذکر الہی کی تلقین کی گئی ہے اور ہر وقت اپنے مجبوسہ و برحق کی تحمید و حمید کی ترغیب
 دی گئی ہے درحقیقت یہ اورداد الہی اور امر کی حسین تمیل ہیں۔ اور یہ رب العالمین کے ان عاشقان
 باصفائی کیفیت انجیز اور شوق آگیں عبارات ہیں جن میں انہوں نے اپنے پاک دلوں میں اندک کرانے
 والی کیفیات محبت کو اپنی پاک زباؤں سے الفاظ کا زینا لباس پہنا یا ہے۔ آپ ان اورداد میں ایک جملہ
 کی بھی نشان دہی نہیں کر سکے جس میں توحید ذاتی اور توحید صفائی کو کمال بلاغت و وضاحت بیان نہ
 کیا گیا ہو۔ یہ دلوں سے نکلے ہوئے ایسے اثر آفرین جملے ہیں کہ غافل سے غافل دل بھی ان کی تلاوت
 کے بعد لذت ذکر سے سرشار ہو جاتا ہے اور اپنے مجبوسہ و برحق کی یاد میں یوں کھو جاتا ہے کہ دُنیا یا فہما
 سے بے نیازی کی کیفیت اس پر طاری ہو جاتی ہے جو اورداد ذکر الہی سے عبارت ہوں اور ذکر الہی وہ جو
 عشق و محبت کے رنگ میں رنگا ہوا ہو۔ اس کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں غلط فہمیاں پیدا کرنا
 اور شک و شبہ کی تخم ریزی کرنا دین کی کوئی خدمت نہیں۔

مجدد حاضر کے مدعیان علم و دانش کو ان کے حال پر رہنے دیجئے۔ ذرا زمرہ علماء کے ان اہل
 تحقیق اسلاف صالحین کی سیرتوں کا مطالعہ کیجئے۔ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ علم بھر اویا کرام
 کے مرتب کردہ اُردو و وظائف کو پابندی سے پڑھتے رہے اور ان کی برکات و فیوضات سے اپنے
 دلوں کو وادی امن بنا تے رہے اور اپنے ہم نشینوں کے سینوں میں عشقِ الہی کی آگ بھڑکاتے رہے۔
 حضرت خواجہ نواجہ شمس العارفین، شمس الحق والدین سیلابی قدس سرہ العزیز کے وجود
 مسعود سے طریقت و معرفت کے گلشن میں بہارا گئی۔ قریہ قریہ، بستی بستی ذکرِ الہی کی محفلیں منعقد
 ہونے لگیں۔ بر شو، بر سمت اللہ بون کی دنوں اور روح پرورد صدائیں بلند ہونے لگیں۔ دلوں کے
 بجھے ہوئے چراغ پھر روشن ہو گئے۔ جھٹھڑے ہوئے احساسات کو فطرتِ سیما ب ارزانی ہوئی جو بھی
 اس بندہ حق کے رُوسے زیبائی زیارت کرتا۔ محبتِ الہی کی دولت سے اس کا دامن معمور ہو جاتا۔ آپ کے
 فرزند ارجمند ثانی لاشانی حضرت خواجہ محمد دین قدس سرہ العزیز جو حضرت شمس العارفین کے وصال کے
 بعد استاد عالیہ سیال شریفین کے پہلے سجادہ نشین مقرر ہوئے۔ آپ نے آنجناب کی اجازت و ایما سے
 ۱۲۹۱ھ میں سالکانِ راہِ حقیقت و طالبانِ گوہر معرفت کی راہِ فانی اور آسانی کے لئے مجموعہ وظائف
 ترتیب دیا۔ جسے حضرت علامہ مولانا احمد دین صاحب (مکوال) جو اعلیٰ حضرت کے خلیفہ مجاز تھے نے
 کمالِ صحت کے ساتھ طبع کر لیا۔ حضرت خواجہ شمس العارفین رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کے شیخِ کامل پیر
 پتھان حضرت خواجہ شاہ محمد سلیمان تونسوی رحمۃ اللہ علیہ نے چاروں سلسلوں کی اجازت دی تھی
 اس لئے حضرت خواجہ شمس العارفین کی اجازت سے جو مجموعہ اُردو و وظائف مرتب ہوا اس میں فقط
 سلسلہ چشتیہ کے معمولات پر ہی اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ اس میں چاروں سلاسل تصوف کے اہم
 معمولات کو یکجا کر دیا گیا ہے۔

یہ مجموعہ وظائف جو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے اس میں حضرت قبلہ ثانی صاحب
 کے شائع کردہ مجموعہ وظائف کی پیروی کی گئی ہے تاکہ بعینہ وہی چیز، اسی ترتیب کے ساتھ شائقین
 تک پہنچے جو حضرت خواجہ شمس العارفین کی اجازت سے آپ کے فرزند ارجمند نے مرتب کی تھی۔
 حضرت مولانا احمد دین صاحب کا مجموعہ وظائف غیر مترجم تھا۔ بعد میں اس کے جو ایڈیشن
 شائع ہوئے وہ اگرچہ مترجم تھے لیکن عربی متن غلطیوں سے بھرا ہوا تھا۔ اور ترجمہ بھی کیف و کسر سے

یکسر خالی تھا۔ یہ مجبوراً ترجمہ ہے اور اس کے ترجمہ میں کوشش کی گئی ہے کہ ترجمہ پڑھتے ہوئے قاری کو وہی کیفیت و سرور مترسے جو اصل متن کی تلاوت سے اہل علم کو نصیب ہوتا ہے۔ نیز ٹوپی کوشش کی گئی ہے کہ عربی متن کتابت کی غلطیوں سے مبرا ہو۔

اللہ تعالیٰ کی بارگاہِ بحیث میں یہ فقیر سراپا تقصیر بعد عجز و نیاز مٹتی ہے کہ وہ رحیم و کریم اپنے اس عاجز بندے کی اس کوشش کو شرف قبول بخشے۔ ان اوراد کے پڑھنے والوں کو انہیں برکتوں اور سعادتوں سے بہرہ ور کرے جو اہل دل کا مقدر ہیں اور ادارہ ضیاء القرآن سٹی کیشنز کو بھی بزرگان دین کی تعلیمات دل آویز، دل افروز اور دلربا نداء میں قارئین کی خدمت میں پیش کرنے کی توفیق آرزو فرمائے۔

اس مجبور و ذلیلت میں ترجمہ کے علاوہ قارئین کے فائدہ کے لئے چند چیزوں کا اضافہ کیا گیا ہے حصہ حصہ سے چند ایسی دعائیں نقل کی گئی ہیں جن کی بہر شخص کو اکثر ضرورت ہوتی ہے۔ یہ وہ دعائیں ہیں جو سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو تعلیم فرمائیں۔ جن کی برکات اور اثرات متحد بیان نہیں۔ نیز مشائخ سلسلہ چشتیہ کے حالات بڑے اختصار کے ساتھ بیان کر دیئے ہیں بعض مقامات پر جہاں جگہ تھی اولیاء کاملین کے دل میں اتر جانے والے ارشادات کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ وَاللّٰهُ الْحَمْدُ وَهُوَ دَلِيّ التَّوْفِیْقِ۔

رب اوزعنی ان اشکو نعمتک التي انعمت علیّ و علی والذاتی وان اعمل صالحا ترضاه
واصلح لی فی ذریعتی انی تبت الیک والی من المسلمین بجاہ حبیبک الکریم شفیع المذنبین
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واولیاء ائمہ و علماء ملتہ اجمعین لی یوم الدین۔

المتوجہ والمرتب

المتمسک بذیل حبیبہ الکریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم

۴۔ رمضان المبارک ۱۴۰۲ھ

محمد کریم شاہ

۴۔ جون ۱۹۸۳ء

سجادہ نشین آستانہ عالیہ امیرِ چشتیہ نظامیہ

بھیرہ۔ ضلع سرگودھا

ترتیبِ ادائے وظایف

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مُحَمَّدٌ لَكَ وَنُصِّئِي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ بِعَيْنِي تَعْرِيفِ
 کرتے ہیں ہم اللہ کی اور دُور و دُرجیتے ہیں اُس کے (رسولِ بزرگ پر)

اصابع تمام الصلحاء و الفقراء اصغر عباد اللہ الصمد بندہ نشی شیخ النبی بخش استاس مے
 نماز کے برائے سہولت و آسانی سالکان و وظیفہ خوانان و طالبانِ خاندانِ حشمتیہ طریقہ خوانان و جملہ وظائف
 بعد و لائل الخیرات کا از زبان فیض ترجمان قدوسہ السالکین زبذہ العارفین شمس الحق و الدین خواجہ خواجگان
 خواجہ شمس الدین قدس سرہ سیلوی منقول است درج ذیل کر وہ شود تا کہ طالبانِ راہ حق برین نوال عمل نمودہ
 فائز تلام شوندا وین اصغر العباد را بدُعاتے خیر یا دفرمائیں: یا لیکر چوں از خواب بیدار شود بطریق سنون و ضو
 ساتھ دو گانہ تہیتہ الوضوء بخزارد و در رکعت اول بعد سورۃ فاتحہ آیت **وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ**

وَأَسْتَغْفِرُوا اللَّهَ فَلَئِن لَّهُمْ لَعَلُّونَ يُؤْتِبُدُّ وَاللَّهُ تَوَّابٌ یعنی اگر وہ لوگ جب ظلم کرتے اپنے
 نفس پر آتے تیرے پاس بخشش مانگتے اللہ سے اور بخشش مانگتا واسطے ان کے رسول البتہ تائے لکہ بخشنے

والامر بان) و در رکعت دوم بعد سورۃ فاتحہ آیت مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظِلُّ نَفْسَهُ تَوَّابٌ أَلَمْ يَجِدِ
اللَّهُ تَعَفُّرًا لِمَنْ يَأْتِيهِ مِنَ الذُّلِّ يَتَّبِعُهُ اللَّهُ تَعَالَى أَمْرًا وَسُلْطٰنًا مَّا يَكْفُلُ الْإِنسَانُ مَا كَفَلَهُ
 بخشنے والا رسم کرنے والا) بعد ازاں دو از دہ رکعت نماز تہجد بخزارد پیش سلام و در رکعت

اول بعد از سورۃ فاتحہ آیت الکرسی تمنا لدن و در ثانی امن الرسول تا آخر سورہ و در ثالث سورۃ اخلاص یک
 بار و در رابع و در ہام علی بذالقیاس سورۃ اخلاص یک یک بار و در ہر رکعت تہ نامہ نمودہ تا در رکعت اخیرہ

وہ بار بخواندہ تمام کند و بعد از سلام اِس دُعا بخواند **اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا وَفِي بَصِيرَتِي نُورًا وَفِي**
سَمْعِي نُورًا وَفِي سَمْعِي نُورًا وَفِي سَمْعِي نُورًا وَفِي سَمْعِي نُورًا وَفِي سَمْعِي نُورًا وَفِي سَمْعِي نُورًا
وَاجْعَلْ فِي نُورًا وَفِي سَمْعِي نُورًا وَفِي سَمْعِي نُورًا وَفِي سَمْعِي نُورًا وَفِي سَمْعِي نُورًا
وَفِي سَمْعِي نُورًا وَاجْعَلْ فِي نَفْسِي نُورًا وَفِي عَظْمِي نُورًا وَفِي عَظْمِي نُورًا وَفِي عَظْمِي نُورًا
 میرے میں نور اور آنکھ میری میں نور اور کان میرے میں نور اور دایں میرے نور اور بائیں میرے نور

اور نوپیر میرے نور اور نیچے میرے نور اور آگے میرے نور اور پیچھے میرے نور اور کر کے تو واسطے میرے
 نور اور زبان میری میں نور اور پٹھے میرے میں نور اور گوشت میرے میں نور اور خون میرے میں نور اور
 میرے بالوں میں نور اور میرے چہرے میں نور اور کر کے بیچ نفس میرے کے نور اور ہر اکروے مجھے نور
 سے آسے بار خدا یادے تو مجھ کو نور بعد ازاں برصغیر نشستہ آسے تَعَفُّرُ لِلَّهِ رَبِّهِمْ كَيْفَ لَمْ يَكُنْ لَهُ الْكُفُوفُ
 إِلَيْهِ يَعْنِي كُفُوشِ مَا كُنَّا بَعْدَ فِيهِ مِنَ اللَّهِ مِنْ بَرَكَاتِهِ وَأَنْتَ بَرَكَاتُ اللَّهِ فِي كُلِّ شَيْءٍ وَكَانَ اللَّهُ
 تَوَّابًا يَهْدِي بَارِئًا بَعْدَ اِزْوَاجِ مَا صَبَّحَ صَادِقٌ وَرَدَّ كَرِيماً أَنْفَاسَ يَدُوقُ قَلْبِي مَشْغُولٌ شُغُولٌ شُغُولٌ قَدْ نَمَدَ
 بِلَاذٍ وَرَأَيْدُ مَا زَجَّجْتُ بَعْدَ رَدِّهِ مِنْ أَمْرِ الْكُرْسِيِّ بِكَيْفِ بَارِئًا لِلَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ
 سُبْحَانَ اللَّهِ الْكَبِيرِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْكَبِيرِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْكَبِيرِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْكَبِيرِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْكَبِيرِ
 وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَنُجُودٌ وَهَشَادٌ بَارِئًا بِرَأْسِهِ يَدُوقُ قَلْبِي مَشْغُولٌ شُغُولٌ شُغُولٌ قَدْ نَمَدَ
 عَافِيَةً دَارِينَ نَجْوَانِدَ بَعْدَ اِزْوَاجِ مَسْبَعَاتِ عَشْرِ قَبْلِ اِزْطَلُوعِ آفَاقِهَا تَمَامٌ كُنْدٌ بَعْدَ اِزْوَاجِ اِسْمَارِ اِحْسَانِي بِرَدِّ قَسَمِ
 مَتَمَلِّ عَرَفِي كَلِمَةَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لِلرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَا خَرَجْتَ مِنْ حَيْثُ يَا اللَّهُ يَا رَبِّ يَا رَحْمَنُ يَا
 آخِرَ كَيْفِ بَارِئًا بَعْدَ اِزْوَاجِ دَعَائِهِ كَيْفِ بَارِئًا بَعْدَ اِزْوَاجِ اِسْمَارِ اِحْسَانِي بِرَدِّ قَسَمِ
 كَيْفِ شَبَّهَ كُنْدَ بَعْدَ اِزْوَاجِ كَيْفِ بَارِئًا بَعْدَ اِزْوَاجِ مَسْبَعَاتِ عَشْرِ قَبْلِ اِزْطَلُوعِ آفَاقِهَا تَمَامٌ كُنْدٌ بَعْدَ اِزْوَاجِ اِسْمَارِ اِحْسَانِي بِرَدِّ قَسَمِ
 اَقْلَ رُوزِيكِ بَارِئًا بَعْدَ اِزْوَاجِ دَوْمِ بَارِئًا بَعْدَ اِزْوَاجِ طَرِيقِ تَارِوِيكِ يَزِدُ دَوْمِ بَارِئًا بَعْدَ اِزْوَاجِ رُوزِ دَوْمِ دَوْمِ بَارِئًا بَعْدَ اِزْوَاجِ
 نَهْ بَارِئًا بَعْدَ اِزْوَاجِ رُوزِ مَيْتِ وَيَكْمُ كَيْفِ بَارِئًا بَعْدَ اِزْوَاجِ قَبْلِ اِزْوَاجِ فَرْجِ بَارِئًا بَعْدَ اِزْوَاجِ وَجْهِ رُوزِ مَعْرَةَ كَيْفِ بَارِئًا بَعْدَ اِزْوَاجِ
 وَبَانَدُ كَرَمَتِ زَكَاةِ صَاعِمٍ يَأْتِيهِ اِزْوَاجِ جَلَالِي اِشْتِاقِ كُوشِ وَبَارِئًا بَعْدَ اِزْوَاجِ اِسْمَارِ اِحْسَانِي بِرَدِّ قَسَمِ
 وَبِقَوْلِ خَوَانِدَنِ نَزْدُ وَخَوْشِي وَدَارِئًا بَعْدَ اِزْوَاجِ وَجْهِ سَفِيدِ پُوشِ وَجْهِ خَوَانِدَنِ مَقَرِّ سَارِئًا بَانَدُ كَرَمَتِ زَكَاةِ دَوْمِ
 بَعْدَ اِزْوَاجِ قَدْرِ سَعَامِ نَيْمَةِ بَارِئًا بَعْدَ اِزْوَاجِ جَنَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَارِئًا بَعْدَ اِزْوَاجِ خَوَانِدَنِ حَشِيَّةِ نَظَامِ
 رَضِيِّ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَخُصُوصًا بَارِئًا بَعْدَ اِزْوَاجِ شَيْخِ خَوْشِي وَجْهِ دَوْمِ بَارِئًا بَعْدَ اِزْوَاجِ رُوزِ دَوْمِ دَوْمِ بَارِئًا بَعْدَ اِزْوَاجِ
 نَجْوَانِدِ اِزْوَاجِ رُوزِ مَيْتِ وَجْهِ دَوْمِ بَارِئًا بَعْدَ اِزْوَاجِ مَسْبَعَاتِ عَشْرِ قَبْلِ اِزْطَلُوعِ آفَاقِهَا تَمَامٌ كُنْدٌ بَعْدَ اِزْوَاجِ اِسْمَارِ اِحْسَانِي بِرَدِّ قَسَمِ
 رِسَالَتِ پَنَاهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْكَلْبِ بَارِئًا بَعْدَ اِزْوَاجِ اِسْمَارِ اِحْسَانِي بِرَدِّ قَسَمِ
 پَاكِ وَصَافِ قَمَادِ وَوَضُوعِ طَرِيقِ مَسْنُونِ سَاخْتِ مَسْلُوكِ كُنْدِ وَدَسَارِ بَقْدَرِ بَيْخِ دَسْتِ بَرِئًا بَعْدَ اِزْوَاجِ دَوْمِ
 يَكِ بَرِي بَرِيدَانِ بَعْدَ اِزْوَاجِ بَقْدَرِ سَدِّ دَسْتِ دَرِئًا بَعْدَ اِزْوَاجِ اِسْمَارِ اِحْسَانِي بِرَدِّ قَسَمِ

خواندن مکان طیبه باشد و باند که بعد از نصف ماه شعبان شروع کرده تا آخر رمضان شریف تمام کند و
روزه در ایام زکوة از شرائط ماکده است باند که قبل از شروع دو گانه تحیت الوضوء بگذارد و در بر رکعت بعد از
فاتحه اخلاص سه بار بخواند و بعد از سلام فاتحه یک بار و اخلاص هفت بار بخواند ثواب او بجناب سالت پناه
صلی الله علیه و سلم و بحضور حضرت غوث الاعظم برساند و بحضور مجلس نبوی صلی الله علیه و سلم و بیت محبت سنی
شروع کند یازده بار و یک روز بخواند و در سه محل سجده کند اول چون بگذرد صلوة استملا
الارض و السماء برسد این دعا سر در سجده نهاده بخواند صلوة تشحیث بها دعاء ناو کزنی بها
نفسنا و نحی بها قلنا ینا محل دوم و تحیل بها العقد و تفریح بها الکرب محل سوم و یخیرنی بها
لطفک فی امری و امور المسلمین چون یازده بار تمام کند بجناب مجیب الدعوات دست دعا
بر داشته بگوید خداوند امر از برکت این درود شریف پیروی رسول مقبول صلی الله علیه و سلم روزی کن
و محبت او نصیب گردان و مشاهده ذات خود مشرف گردان بعد از فراغت دستار و چادر و جائے نماز
در آن سجده با مکانه دیگر محفوظ دارد و از اشیاء جلالی مثل گوشت ماهی و غیره دسیر و پیاز و عس بر میز
کند و بعد از زکوة صلاصه یا شیرینی بر دروشان تقسیم کند و بیس طریق زکوة ثانی نیست و یک بار وظیفه روز
ساخته تمام کند و زکوة ثالث مع شرائط مذکور چهل و یک بار وظیفه هر روز تا چهل و یک روز تمام کند
بعد از آن سلسله چشتیه تطایبه بخواند و چون آفتاب نیزه یابد و نیزه بلند شود نماز اشراق و دوازده رکعت بگذرد
بعد از آن صلوة العاشقین چهار رکعت بخواند در رکعت اول بعد از فاتحه یا الله صد بار و در دوم یا رب
صد بار و در سوم یا رحیم صد بار و در چهارم درود صد بار و بعد از سلام این دعا بخواند اللهم زکوة نورنا
و زکوة سرورنا و زکوة حضورنا و زکوة معرفتنا و زکوة نعمتنا و زکوة محبتنا و زکوة عشقنا و زکوة شوقنا و زکوة
ذوقنا و زکوة جملتنا و زکوة عملنا یا مولانا یا رحمتنا یا ارحم الراحمین و بعد از نوافل و اقل الخیرات
بخواند بیس طریق از اسمائے ثابته و اولها صلی الله علیه و سلم شروع کند و بعد از اسم مبارک درود شریف صلی الله علیه و سلم
و سلم بخواند چنانچه محمد صلی الله علیه و سلم صلی الله علیه و سلم بیس طریق از القیاس اما نکات آیه شریفه زکوة بخواند و بعد از آن حزب
اول و حزب خامس روز جمعه بخواند و باقی احزاب تا آخر کتاب بطریق مرقوم تمام کند یعنی حزب ثانی جزو روز
شنبه و حزب ثالث در روز یکشنبه صلی الله علیه و سلم تا آخر کتاب بخواند و احادیث که قبل از اسماء شریف
مرقوم اند آن را هم گاهی گاهی خوانده باشد تا فضائل درود شریف و از یاد رغبت درود خوانی حلوم

شود و چون حزب شتم روز جمعه آخر کتاب ختم کند پس معا حزب اول و حزب فاس بخواند باز بطریق مذکور
تمام کند. بعد از آن تلاوت قرآن مجید مشغول شود و پنج ربع منزل روزمه مقرر سازد و تا در مسیت چهار
روز ختم شود بعد از آن مطالعه کتب سلوک یا توحید مشغول شود تا یک نیم سپاره بخواند و وقت نصف النهار
حسب الارشاد سید الخمار قهیلوا اِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يُفِيحُ وَقَدْرَسَ قِيلُوا كُنْ بَعْدَ اَزَالِ چُون از خواب بیدار شود
و نمونند و نماز ظهر بجا بعت بگزرانید و ختم خواجگان چشتمیه نظامیه بخواند بای ترتیب اول پانزده بار درود
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ بَعْدَ اَزَالِ سِدْ صِدْ وَشَصْت بَارِ كَا حَوَّلَ وَ كَا حَوَّلَ
اَللّٰهُمَّ الْعَلِيَّ الْعَظِيْمَ لَا مَنَاجَا وَ لَا مَنَاجَا مِنْهُ اَللّٰهُمَّ بَعْدَ اَزَالِ اَلْوَسْطُحْ سِدْ صِدْ وَشَصْت بَارِ بَارِ
كَا حَوَّلَ وَ كَا حَوَّلَ اَلْحَمْدُ وَ شَصْت بَارِ يَزِدْ بَارِ دُرُوْدُ مَذْكُوْرٌ بَخَوَانْدُ وَ ثَوَابِ اَنْ يَجَابِ بَارِي تَعَالٰى
جَلَّ جَلَالُهُ كُنْدَرَانِيْدُ بَارِ و اِحْ جَابِ رَسَالَتِ تَابِ رَسُوْلِ مَقْبُوْلِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بَرَسَانْدُ بَعْدَ اَزَالِ
پِيْرُ خُوْدُ بَارِ و اِحْ رِيْحُ خَانَوَانْدُ چشتمیا و بار و اِحْ جَمِيْعِ اَهْلِ سِلْسَلَةِ خُوْدِ اِسْمِ بِاِسْمِ بَرَسَانْدُ و رَسَالَتِ خَوَانْدِ خَتْمِ شَرِيْفِ
يَكِ صِدْ و مِيْسِتِ بَادِ اِم مَقْرَر سَارِ و بَعْدَ اَزَالِ بِطَالَعِ كَتَبِ اِبْلِ عِرْفَانَ وَ تَرَجْمَهٗ قِرْآنِ مَجِيْدِ مَشْغُوْلُ شُوْدُ و چُونِ قِت
نَمَازِ عَصْرِ و رَآيْدُ چَارِ رَكَعَتِ سَنَتِ عَصْرِ بَزَرِ و دُرُوْدُ و رَكَعَتِ اُولٰى بَعْدَ اَزَالِ فَتْحِ سُورَةِ عَصْرِ چَارِ بَارِ و دَرِ ثَمَانِيْ سَلَامِ
و دَرِ ثَلَاثِ دُوْبَارِ و دَرِ رَايْعِ يَكِ بَارِ بَخَوَانْدُ و بَعْدَ اَزِ سَلَامِ و عَا سَنَتِ عَصْرِ كِرْدِيْنِ كِتَابِ مَرْقُوْمِ اِسْتِ بَخَوَانْدُ بَعْدِ
اَزِ اِحْ چَارِ رَكَعَتِ فَرَضِ كُنْدَرَانِيْدُ مَسْتَبَعَاتِ عَشْرِ قَبْلِ اَزِ غَرْبِ اَقْتَابِ بَخَوَانْدُ بَعْدَ اَزَالِ دُرُوْدِ كِرْ يَاسِ اَلْفَاسِ
و قِوْتِ قَلْبِيْ مَشْغُوْلُ شُوْدُ و چُونِ قِتِ نَمَازِ غَرْبِ بِيَا نَمَازِ بَزَرِ و بَعْدَ اَزَالِ صَلُوٰةِ اَوَّلِ اِحْ شَشِ رَكَعَتِ بِرَسِ
سَلَامِ دَرِ بِرِ رَكَعَتِ بَعْدَ اَزِ فَتْحِ سِدْ بَارِ اَخْلَاصِ بَخَوَانْدُ بَعْدَ اَزَالِ دُوْرَكَعَتِ حِفْظِ الْاِيْمَانِ دَرِ رَكَعَتِ اَوَّلِ بَعْدَ اَزِ فَتْحِ
اَخْلَاصِ هِفْتِ بَارِ و فَلَاحِ يَكِ بَارِ و دُوْمِ اَخْلَاصِ هِفْتِ بَارِ و سُورَةِ نَاسِ يَكِ بَارِ بَخَوَانْدُ و بَعْدَ اَزِ سَلَامِ سُرُوْرِ سَجْدِ
نَهَادِهٖ سِدْ بَارِ يَاسِيْ يَا قِيُوْمُ يَا قِيُوْمُ يَا قِيُوْمُ يَا قِيُوْمُ يَا قِيُوْمُ يَا قِيُوْمُ يَا قِيُوْمُ يَا قِيُوْمُ يَا قِيُوْمُ يَا قِيُوْمُ
اِسْمِ مَجِيْدِ اَمِيْرِ مُسَلِّطِ اَصْلٰى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحُرْمَتِ جَمِيْعِ خَوَاجِگَانَ چِشْتِ اِبْلِ بِشْتِ اَزِ سَلْبِ اِيْمَانِ وَاذْهَرِ طَلْتِ و
قِتِ و دُرُوْتِ دَرِ حِفْظِ خُوْدِ مَرْحَمُوْنِ و اَرِ اَلِيْمِنِ يَارِبِ الْعَالَمِيْنَ.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
رَبِّ شَمْسِ سَيْمَانَ عِيَانَ مُحَمَّدَ الدِّيْنِ

پیر مهر علی شاه صاحب گولوزه شریعت و آله و پیو حیدر شاه صاحب جلا پوری

ترتیب ادائے فطائف (ترجمہ اردو)

خاندانِ طریقہ چشتیہ کے سالکین اور ذہنیہ خوانان کی سہولت اور آسانی کے لئے ادائے فطائف کی وہ ترتیب پیش کی جاتی ہے جو زبانِ فیض ترجمانِ قدوۃ السالکین، زبدۃ العارفين، شمسُ الحق والدين، خواجہ خواجگان، خواجہ شمسُ الدین سیالوی قدس اللہ سرہ سے منقول ہے تاکہ طالبانِ راہِ حق اس طریقہ پر عمل کے منزلِ مقصود تک رسائی حاصل کریں اور اس احقر العباد کو اپنی دُملتے خیر میں یاد فرمائیں۔

حضرت شمسُ العارفين رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جب طالبِ راہِ حق غنیمت سے سیرا ہو تو مسنون طریقہ پر وضو کرے اور دو گانہ نفلِ تحیۃ الوضوء ادا کرے۔ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد یہ آیت پڑھے
 وَآلِهِمْ أَذَلُّوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفِرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوْ جَدَّ ۱۹
 اللہ تبارک و تعالیٰ۔ (النساء۔ آیت ۶۴)

(ترجمہ) اگر وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا وہ آپ کی خدمتِ عالی میں حاضر ہوں اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں اور رسولِ اکرم بھی ان کی مغفرت کے لئے التجا کرے وہ لوگ یقیناً اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔

دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد یہ آیت پڑھے۔

مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظِلُّ نَفْسَهُ سَعَىٰ نَفْسِهِ اللَّهُ يَجْعَلُ اللَّهُ عَقُوبًا رَاجِعًا۔

(ترجمہ) جو کوئی بُرا عمل کرے یا اپنے نفس پر ظلم کرے پھر اللہ سے بخشش مانگے پائے گا اللہ کو بخشنے والا رحم کرنے والا۔

اس کے بعد نمازِ تہجد بارہ رکعت چھ سلاموں کے ساتھ لو اگر سے بہر بار دو نفل کی تہیت باندھے پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی تلاعالذکر پڑھے۔ دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد امن الرسول، آخر سورت تلاوت کرے تیسری رکعت میں سورۃ اخلاص ایک بار جو بھی میں دو بار ہر رکعت میں ایک ایک بار سورۃ اخلاص کا اضافہ کرتا جائے۔ بعد نمازِ تہجد یہ دُعا پڑھے۔

اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا وَفِي بَصِيرَتِي نُورًا وَفِي سَمْعِي نُورًا وَفِي يَدَايَ نُورًا وَفِي رِجْلَيْ

يَا كَرِيْمُ نُورًا وَفَوْقِي نُورًا وَتَحْتِي نُورًا وَآمَامِي نُورًا وَخَلْفِي نُورًا وَاجْعَلْ لِي نُورًا وَفِي لِسَانِي نُورًا وَ
 عَصِيْبِي نُورًا وَلَحْيِي نُورًا وَدَمِي نُورًا وَشَعْرِي نُورًا وَبَشْرِي نُورًا وَاجْعَلْ فِي نَفْسِي نُورًا وَ
 عَظْمِي نُورًا اللَّهُمَّ اعْظِمْنِي نُورًا۔

ترجمہ۔ اے اللہ! میرے دل میں نور بھردے، میری آنکھوں میں نور بھردے، میرے کانوں میں
 نور بھردے، میرے دانتوں میں نور بھردے، میری باتوں میں نور بھردے، میرے اُور اور نور بھردے، میرے
 نیچے نور بھردے، میرے آگے نور بھردے، میرے پیچھے نور بھردے، میرے لئے نور بھردے، میری
 زبان میں نور بھردے، میرے ٹھونوں میں نور بھردے، میرے گوشت میں نور بھردے، میرے خون میں نور
 بھردے، میرے بالوں میں نور بھردے، میری جلد میں نور بھردے، میرے نفس میں نور بھردے، میرے
 لئے نور کو عظیم بنا دے، اے اللہ! مجھے نور عطا فرما دے۔

اس کے بعد صلی پر بیٹھے بیٹھے ایک ہزار مرتبہ یہ استغفار پڑھے یا پانچ سو مرتبہ۔

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّي مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ۔

ترجمہ میں مغفرت طلب کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے جو میرا رب ہے ہر گناہ سے اور میں صلیق دل
 سے اُس کی طرف رجوع کرتا ہوں۔

اس کے بعد صبح صادق تک ذکر پاس انفاس یا وقوف قلبی میں مشغول رہے اور جب نماز صبح
 کا وقت ہو جائے تو نماز باجماعت ادا کرے اور سلام کے بعد آیتہ الکرسی ایک بار، سبحان اللہ تینتیس
 بار، الحمد للہ تینتیس بار، اللہ اکبر چونتیس بار اور ایک بار لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ لہ
 الملک لہ الحمد و هو علی کل شیء قَدِیْرٌ۔ اور اسی مرتبہ یا دُودُ پڑھے۔ پھر عجیب الدعوات
 کی بارگاہ میں دست و ما دراز کرے اور دایرین کی عافیت کے لئے استعاذہ کرے۔ اس کے بعد طریح عافیت
 سے پچیسے مستعات عشر پڑھے۔ اس کے بعد اسمائے حسنیٰ کی تلاوت کرے اور ان اسماء کے پڑھنے
 کے دو طریقے ہیں متصل جیسے ہُوَ اللّٰهُ الَّذِیْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ یا آخر غیر متصل جیسے یا اللّٰهُ
 یا ذٰبُ یا رَحْمٰنُ یا آخر اس کے بعد ایک مرتبہ دُعَاةَ کبیر پڑھے۔ پھر اسبوع شریف کی ایک منزل
 پڑھے۔ اور اس منزل کی ابتدا اتوار سے کرے۔ اس کے بعد ایک مرتبہ درود مستغاث شریف
 پڑھے۔

دُرُودِ مُسْتَعَاثِ كِي زَكَاةُ كَا طَرِيقَةُ

بُدھ کے روز شروع کر کے پہلے دن ایک مرتبہ۔ دوسرے دن دو مرتبہ۔ اسی طرح گیارہ دن تک ایک بار کا اضافہ کرتا جائے یعنی گیارہویں دن گیارہ مرتبہ پڑھے۔ پھر ایک ایک مرتبہ کم کرنا شروع کر دے۔ بارہویں دن دس مرتبہ تیرہویں دن نو بار۔ یہاں تک کہ اکیس دن پڑھے اکیسویں دن ایک بار پڑھ کر ختم کرے۔ اس کے بعد نماز فجر سے پہلے یا بعد ایک مرتبہ وظیفہ رکھے۔

شَرَايِطُ زَكَاةِ

زکوة کے دنوں میں روزہ رکھنا ضروری ہے اور ایشاءِ جلالیٰ مثل گوشت، پیاز، لہسن، مصلحہ سے پرہیز ضروری ہے۔ مباشرت سے بھی پرہیز کرے۔ پڑھتے وقت اپنے پاس خوشبو رکھے اور سفید لباس پہنے اور پڑھنے کی جگہ متعین کر دے چاہئے کہ پہلے زکوة دے۔ اس کے بعد کچھ کھانا پکاتے اور اس کا ثواب رُوح مبارک جنائیلِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں پیش کرے۔ اور خواجگانِ حقیقیہ نظامیہ کی آرواحِ مطہرہ کو خصوصاً اپنے شیخِ طریقت کی رُوح کو اس کا ثواب پہنچائے اور دونوں جہان کی عافیت کی دُعا مانگے۔

اس کے بعد دُرُودِ کَبْرِیْتِ اَحْمَرِ شَرِیْفِ اِیْکِ بَارِ پڑھے۔ اگر ہو سکے تو تین بار نمازِ فجر، ظہر اور عشاء کے بعد ایک ایک بار پڑھے۔

دُرُودِ کَبْرِیْتِ اَحْمَرِ شَرِیْفِ كِي زَكَاةُ كَا طَرِيقَةُ

اس کی زکوة کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے حسبِ ارشاد رسالت پناہِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم طَبِّئْنَا اَوْ اَهْلُکُمْ یٰاٰہُوَ اَلْحَکْمُ یٰاٰہُوَ اَلْحَکْمُ کہ اپنے مومنوں کو مسواک سے پاک کر دو مسواک کے بعد مسنون طریقہ سے وضو کرے۔ پھر غسل کرے اور دستارِ بقدر پانچ باٹھ سر پر باندھے اور چادر دو بری یا ایک بری کے ساتھ اپنے

بدن کو لپیٹے اور جبار نماز بقدر تین ہاتھ اپنے نیچے بچھائے۔ یہ تینوں کپڑے غیر مستعمل ہونے چاہئیں اور پڑھنے کے لئے الگ مکان ہونا چاہیے اور چاہیے کہ ماہ شعبان کے نصف کے بعد شروع کرے تاکہ آخر رمضان شریف میں مکمل ہو جائے۔ اور اس کی شرائط زکوٰۃ میں سے ان آیات میں درود حضرتی ہے شروع کرنے سے پہلے دو نفل تحیۃ الوضو پڑھے اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص تین بار پڑھے سلام کے بعد سورۃ فاتحہ ایک بار، سورۃ اخلاص سات بار پڑھے اور اس کا ثواب بارگاہ رسالت پناہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضور حضرت غوث الاعظم پہنچائے۔ اور یہ خیال کرے کہ وہ بارگاہ نبوی میں حاضر ہے یا مجلس نبوی میں حاضر ہے زکوٰۃ شروع کرے۔ اور نیت یہ ہو کہ محبت الہی اسے مرحمت فرمائی جائے۔ گیارہ گیارہ مرتبہ اکتالیس دن تک پڑھے اور تین مقامات پر سجدہ کرے۔

۱۔ جب اس فقہ پر پہنچے صلوٰۃ تملاء الاض والسماء تو اگلی دعائے سجود ہو کر پڑھے دعا یہ ہے۔ صلوٰۃ تستجیب بہاد علمنا وتزکی بہانفسنا وتجیب بہاقلوبنا پھر سجدے سر اٹھالے۔

۲۔ سجدہ کی دوسری جگہ۔ وتخل بہا للعقد وتقرئ بھا الذکوات۔

۳۔ سجدہ کی تیسری جگہ دعویٰ بہا الطغفک فی امری واعدوا المسلمین گیارہ مرتبہ پورا کرو دو دعاؤں کو قبول کرنے والے پروردگار کی بارگاہ میں دست دعا پھیلا کر عرض کرے۔ اے میرے خدا مجھے اس درود شریف کی برکت سے رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پڑھی نصیب فرما۔ اور حضور کی محبت عطا فرما اور اپنی ذات کے مشابہ سے مشرف فرما فرامغت کے بعد دستار ہچا اور ہجائے نماز اس حجرہ میں یا دوسری جگہ محفوظ کر دے۔

نیز جلالی اشیا سے پرہیز کرے جیسے گوشت پھیل، وغیرہ، لہسن، پیاز، مشور کی دال اور زکوٰۃ سے فارغ ہونے کے بعد عطا یا شیشی درویشوں میں تقسیم کرے۔

دوسری زکوٰۃ کا طریقہ یہ ہے کہ اکیس اکیس مرتبہ ہر روز مندرجہ بالا شرائط کو ملحوظ رکھے چوتھے پڑھے۔ تیسرا طریقہ زکوٰۃ کا یہ ہے کہ اکتالیس مرتبہ مذکورہ شرائط کو ملحوظ رکھے چوتھے پڑھے۔ ان کو نول میں سے ہر ایک کی مدت اکتالیس دن ہے۔

دو دو مستغاث اور دو دو کبریت امم کی زکوٰۃ کا طریقہ بیان کرنے کے بعد پھر درود زمرہ کے اور ادا

و طائف کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔

اس کے بعد سلسلہ چشتیہ ظاہری پڑھے جب آفتاب ایک نیزہ یا دونیزہ بلند ہو جائے تو نماز اشراق بارہ رکعت پڑھے۔ اس کے بعد صلوة العاشقین چار رکعت پڑھے۔ پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد یا اللہ سو بار۔ دوسری میں یا رَحْمٰن سو بار۔ تیسری میں یا رَحِيْم سو بار۔ چوتھی میں درود شریف سو بار پڑھے سلام کے بعد یہ دعا پڑھے:-

اَللّٰهُمَّ زِدْ نُورَنَا وَ زِدْ سُرُوْرَنَا وَ زِدْ حُضُوْرَنَا وَ زِدْ مَعْرِفَتَنَا وَ زِدْ بَعْمَنَّا وَ زِدْ حُجَّتَنَا
وَ زِدْ عِشْقَنَا وَ زِدْ شَوْقَنَا وَ زِدْ دَقْنَا وَ زِدْ عِلْمَنَا وَ زِدْ عَمَلْنَا يَا مَوْلَانَا يَا حَسْبَنَا يَا اَحْمَدَ الرَّاحِمِيْنَ

ان نوافل کے بعد دلائل الخیرات پڑھے۔ اور جس طرح پہلے بتایا جا چکا ہے۔ ہر منزل سے پہلے اسماء الحسنیٰ اور اسماء الغیبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مذکورہ طریقہ کے مطابق پڑھے۔ اور وہ احادیث جو فضائل درود شریف میں لکھی گئی ہیں کبھی کبھی ان کا مطالعہ کرے۔ اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول ہو جائے اور سو بارہ ہر روز منزل پڑھا کرے۔ تاکہ جو بیس دنوں میں قرآن کریم ختم ہو جائے اس کے بعد علم سلوک اور علم توحید کی کتابوں کے مطالعہ میں مشغول ہو جائے اور نصف پارہ پڑھے اور دوپہر کے وقت حسب ارشاد سیدنا الخوارزمی **اِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يُقْبِلُ قِيْلُوْكَ كِيَا كِرُوْكَ** شیطان قبولہ نہیں کرتا جب نیند سے بیدار ہو و شوکرے اور نماز ظہر جماعت کے ساتھ ادا کرے پھر ختم خواجگان چشتیہ

ظاہریہ اس طریقہ سے پڑھے۔ پہلے پندرہ مرتبہ یہ درود شریف پڑھے۔ **اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ وَ بَارِكْ وَسَلِّمْ** اس کے بعد تین صد ساتھ مرتبہ **لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ لَا مَلْجَا وَلَا مُنْتَهٰى اِلَيْهِ اِلَّا اِلَيْهِ** اس کے بعد سورہ آلکوثر شرح لقا تین صد ساتھ بار پڑھے۔ پھر **لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ** سو ساتھ بار پڑھے۔ آخر میں گیارہ مرتبہ مذکورہ درود شریف پڑھے اور اس کا ثواب بارگاہ الہی میں پیش کرنے کے بعد جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی رُوح مبارک کو پہنچاتے۔ اس کے بعد اپنے پیروم شدگی رُوح کو پہنچاتے۔ پھر سلسلہ چشتیہ کے پانچ خانوادوں کی ارواح کو پہنچاتے پھر تمام اہل سلسلہ کی ارواح کو نام بنام ثواب پہنچاتے ختم شریف پڑھنے کے لئے ایک سو بیس (یا تین سو ساتھ) ہادام مقرر کرے اس کے بعد اہل عرفان کی کتابوں اور قرآن کریم کے ترجمہ کے مطالعہ میں مشغول ہو جائے اور جب نماز عصر کا وقت ہو جائے تو چار رکعت مُلْتَمِسُ اَلْحَادِ

کرے پہلی دو رکعتوں میں فاتحہ کے بعد سورہ عصر چار بار اور دوسری رکعت میں تین بار تیسری رکعت میں دو بار اور چوتھی رکعت میں ایک بار پڑھے اور سنت عصر کے سلام کے بعد وہ دعا پڑھے جو اس کتاب میں مرقوم ہے۔ اس کے بعد چار رکعت نماز فرض ادا کرے مستعات عشر سورج کے غروب نکلنے سے پہلے پڑھے اس کے بعد ذکر پاس انفاس یا وقوف قلبی میں مشغول ہو جائے اور جب نماز خراب کا وقت ہو نماز ادا کرے۔ اور اس کے بعد پھر رکعت نفل اور ابن تین سلاموں کے ساتھ ادا کرے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد تین بار سورہ اخلاص پڑھے۔ اس کے بعد دو رکعت حفظ الایمان پڑھے۔ پہلی رکعت میں سورہ اخلاص سات مرتبہ اور سورہ فلق ایک بار اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص سات بار اور سورہ ناس ایک بار پڑھے۔ سلام کے بعد سرسجدہ میں رکھے اور تین بار یہ کہے۔ **يَا أَيُّهَا الْقِيَوْمُ بَشِّرِي عَلَى الْإِيمَانِ**۔ پھر سجدہ سے سر اٹھاتے اور دعا کے لئے ہاتھ اٹھا کر یہ کہے۔ **عَدَاوَتَا بَحْرَمَتِ أَحِبِّ مَجْنِبَيْ مُحَمَّدٍ مَصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِحُرْمَتِ جَمِيعِ خَوَاجِجَانِ حِشْتِ اہل بہشت از سلب ایمان و از بہر طقت و قلت و ذلت در حفظ خود مرا محفوظ دار آئین یارب العالمین**

ذِي نُورِ شَمْسٍ سُلَيْمَانَ
عِيَانِ مُحَمَّدٍ الدِّينِ



اسماءُ اللہِ الحُسنی

اللہ تعالیٰ کے اچھے نام

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے

هُوَ اللّٰهُ الَّذِیْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ

وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا

الْمَلِکُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ

بادشاہ حقیقی برعیب سے پاک سلامت رکھنے والا امن دینے والا

الْمُهَیْمِنُ الْعَزِیْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ

نظمبان سب سے غالب ٹوٹے دلوں کو جوڑنے والا متکبر

الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ الْغَفَّارُ

پیدا کرنے والا پیدا کرنے والا تصویر بنانے والا بخشنے والا

الْقَهَّارُ الْوَهَّابُ الرَّزَّاقُ الْفَتَّاحُ

سب سے طاقتور بے حساب دینے والا رزق دینے والا کھولنے والا

الْعَلِیُّ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الْخَافِضُ

سب کچھ جانتے والا بند کرنے والا کشادہ کرنے والا پست کرنے والا

الرَّافِعُ جَلَّ جَلَالُهُ الْمِعْزُ جَلَّ جَلَالُهُ الْمَذِلُّ جَلَّ جَلَالُهُ السَّمِيعُ جَلَّ جَلَالُهُ

بلند کرنے والا عزت دینے والا ذلیل کرنے والا خوب سننے والا

الْبَصِيرُ جَلَّ جَلَالُهُ الْحَكِيمُ جَلَّ جَلَالُهُ الْعَدْلُ جَلَّ جَلَالُهُ اللَّطِيفُ جَلَّ جَلَالُهُ

خوب دیکھنے والا فیصلہ کرنے والا عدل کرنے والا بڑا مہربان

الْخَبِيرُ جَلَّ جَلَالُهُ الْجَلِيلُ جَلَّ جَلَالُهُ الْعَظِيمُ جَلَّ جَلَالُهُ الْغَفُورُ جَلَّ جَلَالُهُ

ہر چیز سے خبردار بڑا باد بہت بڑا بہت بخشنے والا

الشَّكُورُ جَلَّ جَلَالُهُ الْعَلِيُّ جَلَّ جَلَالُهُ الْكَبِيرُ جَلَّ جَلَالُهُ الْحَفِيفُ جَلَّ جَلَالُهُ

بڑا شکر دار بلند مرتبہ سب سے بڑا سب کا محافظ

الْمَقِيتُ جَلَّ جَلَالُهُ الْحَسِيبُ جَلَّ جَلَالُهُ الْجَلِيلُ جَلَّ جَلَالُهُ الْكَرِيمُ جَلَّ جَلَالُهُ

وقت دینے والا کفایت کرنے والا بزرگ کرم کرنے والا

الرَّقِيبُ جَلَّ جَلَالُهُ الْجَمِيبُ جَلَّ جَلَالُهُ الْوَاسِعُ جَلَّ جَلَالُهُ الْحَكِيمُ جَلَّ جَلَالُهُ

نگاہ رکھنے والا قبول کرنے والا وسعت دینے والا بہت دانا

الْوَدُودُ جَلَّ جَلَالُهُ الْمَجِيدُ جَلَّ جَلَالُهُ الْبَاعِثُ جَلَّ جَلَالُهُ الشَّهِيدُ جَلَّ جَلَالُهُ

محبت کرنے والا بزرگ بیچنے والا رسولوں کا ہر چیز کا مشاہدہ کرنے والا

الْحَقُّ جَلَّ جَلَالُهُ الْوَكِيلُ جَلَّ جَلَالُهُ الْقَوِيُّ جَلَّ جَلَالُهُ الْمَتِينُ جَلَّ جَلَالُهُ

حق کار ساز توانا مضبوط

الْوَالِيُّ جَلَّ جَلَالُهُ الْحَمِيدُ جَلَّ جَلَالُهُ الْمُحْصِي جَلَّ جَلَالُهُ الْمُبْدِي جَلَّ جَلَالُهُ

دوست جس کی حمد کی گئی گنے والا آقا کرنے والا

الْمُعِيدُ جَلَّ جَلَالُهُ الْمُنْحَى جَلَّ جَلَالُهُ الْمَمِيَّتُ جَلَّ جَلَالُهُ الْحَيُّ جَلَّ جَلَالُهُ

دوبارہ لوٹانے والا زندہ کرنے والا مارنے والا زندہ

الْقَيُّومُ جَلَّ جَلَالُهُ الْوَّاحِدُ جَلَّ جَلَالُهُ الْمَاجِدُ جَلَّ جَلَالُهُ الْوَّاحِدُ جَلَّ جَلَالُهُ

دور میں کو زندہ رکھنے والا پانے والا بزرگی والا ایسا

الْأَحَدُ جَلَّ جَلَالُهُ الصَّمَدُ جَلَّ جَلَالُهُ الْقَادِرُ جَلَّ جَلَالُهُ الْمُقْتَدِرُ جَلَّ جَلَالُهُ

یکتا بے نیاز قدرت والا قوت والا

الْمُقَدِّمُ جَلَّ جَلَالُهُ الْمُوَخَّرُ جَلَّ جَلَالُهُ الْأَوَّلُ جَلَّ جَلَالُهُ الْآخِرُ جَلَّ جَلَالُهُ

آگے کرنے والا پیچھے کرنے والا سب سے پہلے سب سے پیچھے

الظَّاهِرُ جَلَّ جَلَالُهُ الْبَاطِنُ جَلَّ جَلَالُهُ الْوَالِيُّ جَلَّ جَلَالُهُ السَّعَالِيُّ جَلَّ جَلَالُهُ

آشکارا پوشیدہ مالک سب سے بند

الْبَرُّ جَلَّ جَلَالُهُ التَّوَّابُ جَلَّ جَلَالُهُ الْمُنْتَقِمُ جَلَّ جَلَالُهُ الْعَفْوُ جَلَّ جَلَالُهُ

احسان کرنے والا توبہ قبول کرنے والا بدلہ لینے والا معاف فرمانے والا

الرَّعُوفُ جَلَّ جَلَالُهُ مَالِكُ الْمُلْكِ جَلَّ جَلَالُهُ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ جَلَّ جَلَالُهُ

بہت مہربان سارے ملکوں کا مالک بزرگی اور انعام والا

الْمُقْسَطُ بِجَلَالِهِ الْجَامِعُ بِجَلَالِهِ الْغَنِيُّ بِجَلَالِهِ الْمَغْنِيُّ بِجَلَالِهِ

انصاف کرنے والا جمع کرنے والا غنی غنی کرنے والا

الْمُعْطَى بِجَلَالِهِ الْمَانِعُ بِجَلَالِهِ الضَّارُّ بِجَلَالِهِ النَّافِعُ بِجَلَالِهِ

عطا فرمانے والا باز رکھنے والا ضرر پہنچانے والا نفع دینے والا

التَّوْرُ بِجَلَالِهِ الْهَادِيُّ بِجَلَالِهِ الْبَدِيعُ بِجَلَالِهِ الْبَاقِيُّ بِجَلَالِهِ

روحانی والا راہ دکھانے والا نیا پیدا کرنے والا ہمیشہ رہنے والا

الْوَارِثُ بِجَلَالِهِ الرَّشِيدُ بِجَلَالِهِ الصَّبُورُ بِجَلَالِهِ

باک سب کی رہنمائی کرنے والا بڑا عمل کرنے والا

الَّذِي لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ بِجَلَالِهِ الْبَصِيرُ بِجَلَالِهِ

وہ ذات جس کی مثل کوئی چیز نہیں وہی سب کچھ سُننے والا دیکھنے والا ہے

غَفْرَانِكَ رَبَّنَا وَإِيَّاكَ الْمَصِيرُ بِجَلَالِهِ نِعْوَالْمَوْلَى بِجَلَالِهِ

تیری بخشش کے طلبگار ہیں اے ہمارے رب اور تیری طرف ہی لوٹنا ہے تو بہترین دوست ہے

وَنِعْوَالنَّبِيِّ سَمِيعُ بِجَلَالِهِ بَصِيرُ بِجَلَالِهِ عَلَيْهِ بِجَلَالِهِ

اور بہترین مددگار ہے سب کچھ سُننے والا سب کچھ دیکھنے والا سب کچھ جاننے والا

قَدِيرُ بِجَلَالِهِ مُرِيدُ بِجَلَالِهِ مُتَكَلِّمُ بِجَلَالِهِ

ہر چیز پر قدرت والا ارادہ فرمانے والا کلام کرنے والا

هَذَا الدُّعَاءُ الْكَبِيرُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 يَا حَيُّ حِينَ لَا حَيَّ فِي دَيْمُومَةٍ مُلْكِهِ وَبِقَائِهِ
 يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ يَا اللَّهُ يَا رَحْمَنُ يَا رَحِيمُ يَا مَلِكُ
 يَوْمِ الدِّينِ يَا كَنْعَبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ يَا حَيُّ
 يَا قَيُّوْمُ يَا اللَّهُ يَا رَبُّ أَوْ أَمْرُهُ هُوَ أَمْ رَهْمِنُ نَسْرِينُ
 پَرِينُ ائِمِّي پَرْمُ هَنَسَا أَوْ أَمْ اَسْمُوَا
 فَجْرَانِيَّةُ مَلِيكَةُ اَمَلِيكَةُ اَدَابَةُ اَمَهَابَةُ
 وَاِرِيْسَا اَسْمُنَا فَجْرُوْمُنَا وَشَبِيكِي وَاِرِي
 اَوْرِيَا اَمْ هُوَ كَلَامَا مُلُوْكَ اَسْمِيْنَ اَشْجِيْنَ
 كَتَانَهُ بَهَانَهُ مَهَابَهُ هِيَهُ دَرْنَكُهُ سَلْكَالَهُ

اسے یہ اسماء و الفاظ عربی زبان میں ہیں چونکہ بزرگان میں کئی معمولات سے یہ لفظ تبرکاً پڑھے جاتے ہیں۔

وَسَلِّكَهَا لَكَ وَيُلْكَأَكَ وَيُلْكَهَاهُ وَأَجَلُ مِرْأَيَا
 خِرَآيَا هَمَّتَا يَا شَأِيَا وَنَشِيكََا وَنَشِيكِي
 يَادِرُ يُوِيَا يَادِرِي وَأَنَا هِيَا وَمَنِيَا يَا مَلِكِنَا
 شَمِينُهُ كَهَهُ كَهُ هَمَهُ هَمَهُ مَتَهُ وَتَهُ
 كَتَهُ نَشْتَنُهُ شَيْنُهُ عَيْنُهُ مُلْطَهُ وَطَهُ
 وَتَهِيَا حَيَايَا مَتَايَا وَأِدِي يُوْدِي كِيْدِي
 كِيْدِي فَشْكَآيَا فَشْكَآيَا بِمَطَايَهُ مَرْنُكََا
 شَمِينِي مُلُوِي مَتَا مَطَا مَضَا دِيُوَهُ أَجِيْثُهُ
 شَنْكُهُ خِيْكَ خِيْكَ جَرَا جَرَايَا إِكْرَايَا
 بَرَايَا مِرَايَا كِرَايَا شَمْنِي فَجَرُوِيَا شَمِهِيَا
 وَارْتِيَا شُوْبَهُ جَرَبَهُ وَمَنْكََا خَزْنُكََا عَزْنُكََا
 مَكْنُكََا مَهْنَابَهُ دِيُوَهُ دِرِيَا شَنْكََا فَشْكَآيَا

وَنَشِينًا مَرِينًا عَمَّنَا كَمَنْكَارِ
 فَتَلِيخَهُ فَتَلِيخَهُ وَمَا طَلَى كَانِي جُونِي
 جُرْنِي مَرُونًا ثَبُونًا لَوْسًا مُقَدَّسًا سَرَّاسًا
 هَيْرِيًا هَبْتَهُ شَادِي مُنَادِي فَرْدُ فَرَايَا
 شَايَا هَايَهُ دِيوَهُ پَرِيَا ظَفِيرَا حَوَا الْكَفِيشَا
 قَطُوشَا قَطُوشَا بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّحِمِينَ



أَوْرَادُ الْأَسْبُوعِ الشَّرِيفَةِ لِسَيِّدِنَا الْعَوْثِ الْأَعْظَمِ

یعنی ہفتہ بھر کے اُوراد ہیں جو سیدنا عوث اعظم

أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ الْقَادِرِ الْجِيلَانِيِّ

ابو محمد جدالعت درجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تصنیف کردہ ہیں

وَرْدٌ رُوِيَ كَشَنبَهُ (اَوَار)

روز یکشنبه (اوار) کا ورد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرماتے والا ہے

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْجَلِيلُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

وہی ہے اللہ جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں جو بزرگ ہے بہت مہربان ہمیشہ رحم فرماتے والا

اللطيفُ الحليوُ الرَّؤُوفُ العَفُوُ الْمُؤْمِنُ

لطیف فرماتے والا حلیم والا بہت مہربان معاف کرنے والا امن دینے والا

النَّصِيرُ الْمُجِيبُ الْمُغِيثُ الْقَرِيبُ السَّرِيعُ

مددگار دعا قبول کرنے والا زیادہ فریاد سننے والا نزدیک جلدی حساب لینے والا

الْكِرِيُّ ذُو الْكِرَامِ ذُو الطَّوْلِ الْكِنِيِّ مِنْ جَمَالِ

کرم کرنے والا عزت والا حشمت والا آنے میرے رب اوار جمالیہ کے

بَدِيعِ الْأَنْوَارِ الْجَمَالِيَّةِ وَمَا يُدْهِشُ الْبَابَ الذَّرَاتِ

حُسن بے مثال کا مجھے لباس پہنا جو حیرت زدہ کر دے کائنات کے ذرات کے

الْكُونِيَّةِ فَتَوَجَّهْ إِلَى حَقَائِقِ الْمَكُونَاتِ تَوَجَّهْ الْحَبَّةَ

دلوں کو پس توجہ کریں میری طرف مخلوقات حقیقی ذاتی محبت کی توجہ

الذَّائِيَّةِ الْجَادِبَةِ إِلَى شُهُودِ مُطْلَقِ الْجَمَالِ الَّذِي

جو کھینچنے والی ہو جمال مطلق کے مشاہدہ کی طرف جسے کوئی

لَا يُضَارُهُ قُبْحٌ وَلَا يَقْطَعُ عَنْهُ أَيْلَامٌ وَأَجْعَلْنِي مَرْحُومًا

بد صورتی ضرر نہیں پہنچاتی اور نہ اُسے کوئی دکھ منقطع کرتا ہے اور بنا دے مجھے جس پر رحم کیا گیا ہے

مَنْ كُلِّ رَحْمَةٍ بِحُكْمِ الْعُطْفِ الْحُبِّيِّ الَّذِي لَا يَسْتُوبُهُ

ہر قسم کی رحمت سے بوجہ اس مہربانی کے جس کا سرچشمہ محبت ہے جس کے ساتھ

اِنْتِقَامٌ وَلَا يَنْقُصُهُ غَضَبٌ وَلَا يَقْطَعُ مَدَدَهُ سَبَبٌ

انتقام کی ملاوٹ نہیں اور جس کو تیرا غضب کمزور نہیں کرتا نہ منقطع کرتا ہے اس کے تسلسل کو کوئی سبب

وَتَوَلَّ ذَلِكَ بِحُكْمِ اِبْدِيَّةِ وَارْتِيَّتِكَ إِلَى غَيْرِ نَهَائِيَّةِ

کار سازی فرما اس کی اپنے بے نہایت دوام کے حکم سے جو ابدی ہے جس کو کوئی حد

لَا تَقْطَعُهَا غَايَةٌ يَا رَحِيمُ هُوَ الرَّحِيمُ هَرَبًا لَهُ رَبَّاهُ

قطع نہیں کرتی اے رحیم تو ہی وہ رحیم ہے اے میرے پروردگار اے میرے پروردگار

غَوَاثُهُ يَا خَفِيًّا لَا يُظْهَرُ يَا ظَاهِرًا لَا يَخْفَى لَطْفَتْ

اے میرے فریادس اے پوشیدہ جو ظاہر نہیں ہوتا اور اے ظاہر جو پوشیدہ نہیں ہوتا بڑے لطیف میں تیرے

أَسْرَارُ وَجُودِكَ الْأَعْلَى فَتَرَى فِي كُلِّ مَوْجُودٍ وَ

دجود اعلیٰ کے اسرار پس تجھے ہر موجود میں دیکھا جاسکتا ہے اور

عَلَتْ أَنْوَارُ ظُهُورِكَ الْأَقْدَسِ فَبَدَتْ فِي كُلِّ

بلند ہیں تیرے غمور اقدس کے انوار پس وہ ظاہر ہیں ہر

مَشْهُودٍ وَأَنْتَ الْحَلِيُّ الْمَنَّانُ بِالرَّافَةِ وَالْعَفْوِ السَّرِيعِ

مشہود میں تو حلیم ہے احسان فرمانے والا مہربانی اور درگزر کے ساتھ جلدی

بِالْمَغْفِرَةِ مَوْمِنٌ خَائِفِينَ نَصِيرٌ الْمُسْتَغِيثِينَ الْقَرِيبُ

بخشنے والا ہے غمزدوں کو امن دینے والا ہے فریادکنے والوں کا مددگار ہے

بِمَجْجِهَاتِ الْقُرْبِ وَالْبُعْدِ عَنْ عِيُونِ الْعَارِفِينَ ه

عارفوں کی آنکھوں سے قرب و بعد کی سمتوں کو محو کر کے تو ان کے قریب ہے

يَا كَرِيمُ يَا كَرِيمُ يَا كَرِيمُ يَا ذَا الطَّوْلِ وَالْإِكْرَامِ وَسَلَامٍ قَوْلًا

اے کریم اے کریم اے کریم اے عظمت والے اے بزرگی والے سلامتی جو تم پر بارشاد ہے

مَنْ رَبِّ رَحِيمٍ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○

رَبِّ رَحِيمِ كِي طَرَفٍ سَعِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

ورد روزہ و شنبہ (پیر)

سوموار کا ورد

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے

هُوَ اللّٰهُ الَّذِیْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَلِیْمُ الرَّحِیْمُ الْفَعَالُ

وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں صاحبِ حلم، نہایت مہربان جو چاہے کرنے والا

اللطیف الولی الحمید الصبور الرّسید الرّحمن

لطیف فرمانے والا، کارساز، سراپا گیا، بہت مہربان کرنے والا، ہدایت والا، بہت ہی مہربان

رَبِّ اَذِقْنِیْ مِنْ بَرِّ دِحْلِمِکَ عَلٰی مَا اَبْتَهَجُرْ بِہِ فِی

اے میرے پروردگار مجھے کھلمجھ پر اپنے حلم کی ٹھنڈک جس سے میں غمخوار رہوں اپنے سارے

عَوَالِمِیْ فَلَا اَشْہَدُ فِی الْکُوْنِ اِلَّا مَا یَقْتَضِیْ سُکُوْنِیْ

جہانوں میں پس نہ مشاہدہ کروں میں اس جہان میں بجز اس کے جو میرے سکون

وَرِضَاۤءِیْ فَاِنَّکَ الْحَقُّ وَاَمْرُکَ الْحَقُّ وَاَنْتَ الْحَکِیْمُ

اور رضا کا تعاضا کرتی ہے بے شک تو ہی حق ہے اور تیرا امر حق ہے اور تو حکمت والا

الرّحِیْمُ رَبِّ اَشْہَدُ نِیْ مُطْلَقَ فَاَعْلِیَّتِکَ فِی کُلِّ

بہت مہربان ہے اے میرے رب مجھے مشاہدہ کرا اپنے فاعل مطلق ہونے کا ہر

مَفْعُولٌ حَتَّى لَا أَرَى فَاغْلِيْزِكَ إِنْ كُنَّ مُطْمَئِنًّا

۱۴ میں تاکہ میں نہ دیکھوں تیرے سوا کسی اور کو فاعل تاکہ میں مطمئن ہو جاؤں

تَحْتَ جَرِيَانِ اِقْدَارِكَ مُنْقَادًا لِكُلِّ حَكْمٍ وَجُودِي

تیرے اقدار کے جاری ہونے کے نیچے سر جھکا دوں تیرے ہر حکم کے سامنے خواہ وہ حکم فریضی

عَيْنِي وَغَيْبِي وَبَرَزِي يَا نَا فِي خَارُوجِ اَمْرِهِ فِي كُلِّ

عینی ہو ، غیبی ہو یا برزخی ہو اے پھونکنے والے اپنے حکم کی روح کو ہر ذات

عَيْنِ اِجْعَلْنِي مُنْفَعِلًا فِي كُلِّ حَالٍ لِيَا مَحْوِلُنِي عَنْ

میں بنادے مجھے حکم قبول کرنے والا ہر حال میں تاکہ میری عقلیت کے اندھیوں سے

ظُلُمَاتٍ تَكُوْنِيَانِي وَاصْحَوْ فِعْلِي وَفِعْلَ الْفَاعِلِيْنَ فِي

مجھے باہر نکال دے اور ہٹا دے میرے فعل کو اور دوسرے کرنے والوں کے فعل کو اپنے

اَحْدِيَّةٍ فِعْلِكَ وَتَوَلَّنِي بِجَمِيْلِ حَمِيْدٍ اِخْتِيَارِكَ

فعل کی احدیت میں اور کار سازی فرما میری اپنے خوبصورت اور تعریف کئے گئے اختیار کے ساتھ

لِي فِي جَمِيْعٍ تَوَجُّهَاتِي وَاِنْ مَنِيْ اِرَادَتِي وَصَبْرِي

میری تمام توجہات میں اور فنا کر دے مجھ سے میرے ارادے کو اور مجھے صبر کی توفیق

وَسَدِّدْنِي وَارْحَمْنِي وَاَصْحَبْنِي بِاللُّطْفِ وَالْعِنَايَةِ

مخالف فرما اور مجھے صبر راستہ پر چلا اور مجھ پر رحم فرما اور میرے ساتھ لطف و عنایت کا برتاؤ کر

بِعِيَّةٍ خَاصَّةٍ مِّنْكَ وَحَقَّقْنِي بِقُرْبِكَ الَّذِي لَا

اپنی خصوصی معیت کے ساتھ اور مجھے اپنا وہ قرب عطا فرما جس میں کوئی

وَحْشَةٌ مَّعَهُ يَا رَحْمَنُ يَا سَلَامُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

وحشت نہ ہو یا رحمن یا سلام الحمد للہ

رَبِّ الْعَالَمِينَ

رب العالمین

ورد روزِ شنبہ (منگل)

ورد منگل کا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے

إِلَهِي مَا أَحْلَمَكَ عَلَى مَنْ عَصَاكَ وَمَا أَقْرَبَكَ مِنْ

اے میرے معبود! تو کتنا حلیم ہے اس سے جو تیری نافرمانی کرے تو کتنا قریب ہے اس سے

دَعَاكَ وَمَا أَعْطَفَكَ عَلَى مَنْ سَأَلَكَ وَمَا أَزَاقَكَ بِمَنْ

جو تجھے پکارتا اور کتنا مہربان ہے اس پر جو تجھ سے مانگے اور تو کتنا شفیق ہے اس پر

أَمَلَكَ مَنْ ذَا الَّذِي سَأَلَكَ فَحَرَمْتَهُ أَوْ لَجَأَ إِلَيْكَ

جو تجھ سے امید رکھے کون ہے وہ جس نے تجھ سے مانگا اور تو نے اسے محروم رکھا یا اس نے تجھ سے پناہ طلب کی

فَاهْمَلْتَهُ اَوْ تَقَرَّبَ مِنْكَ فَاَبْعَدْتَهُ اَوْ هَرَبَ اِلَيْكَ

اور تو نے اس کو نظر انداز کر دیا، یا اس نے تیرا قرب چاہا اور تو نے اس کو دُور کر دیا، یا دُور کر تیری طرف آیا اور تو

فَطَرَدْتَهُ لَكَ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ اِلَيْهِ اَتَرَكَ تَعَذُّبُنَا

نے اُسے دُستکار دیا خلق اور امر کا تو ہی مالک ہے اسی! کیا تو مناسب سمجھتا ہے کہ تو ہمیں عذاب سے

وَتَوْحِيدِكَ فِي قُلُوبِنَا وَمَا خَالَكَ تَفْعَلُ وَلَكِنْ فَعَلْتَ

در آں مالیک تیری توحید ہمارے دلوں میں ہے میں یہ گمان نہیں کرتا کہ تو ایسا کرے گا اور اگر تو ایسا کرے

اَبْجَمَعُنَا مَعَ قَوْمٍ طَالَ مَا بَغَضْنَاهُمْ لَكَ فَبِالْمَكْنُونِ

تو کیا تو انہیں اکٹھا کرے گا ہیں اُس قوم کے ساتھ جن سے ہم تیری وجہ سے مدتوں بغض کرتے رہے تھے داسطہ

مِنْ اَسْمَائِكَ وَمَا وَاَرَتْهُ الْجُبُّ مِنْ بَهَائِكَ اَنْ

ہے اپنے ان ناموں کا جو مستور ہیں اور تیری اس نور ذات کا جو پردوں میں چھپا ہوا ہے بخش دے

تَغْفِرْ لِهَذِهِ النَّفْسِ الْهَلُوعِ وَلِهَذَا الْقَلْبِ الْجَرُّعِ الَّذِي

اس بے صبر سے نفس کو اور اس گھبرا جانے والے دل کو جو برداشت نہیں کر سکتا

لَا يَصْبِرُ لِحَرِّ الشَّمْسِ فَكَيْفَ يَصْبِرُ لِحَرِّ نَارِكَ يَا حَلِيوَهُ

سورج کی گرمی کو پس وہ کیسے برداشت کر سکے گا تیری آگ کی حرارت کو اے حلیم۔

يَا عَظِيوَهُ يَا كَرِيوَهُ يَا رَحِيوَهُ اَللّهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُ بِكَ مِنْ

اے عظیم۔ اے کریم۔ اے رحیم۔ اے اللہ! ہم پناہ مانگتے ہیں تجھ سے

الذَّلِ إِلَّا لَكَ وَمِنَ الْخَوْفِ الْإِمْنِكَ وَمِنَ الْفَقْرِ إِلَّا

ذلت سے بجز اس کے کہ ڈرہ تیرے لئے ہو۔ اور ذون سے بجز اس کے کہ ڈرہ تیرے لئے ہو اور فقر سے بجز اس کے

إِلَيْكَ اللَّهُ كَمَا صُنْتَ وَجُوهَنَا أَنْ تَسْجُدَ لِغَيْرِكَ

کہ ڈرہ تیری طرف ہو اے اللہ جس طرح تو نے محفوظ رکھا ہے ہمارے چہروں کو کہ ڈرہ تیرے سوا کسی کو سجدہ کریں

فَصُنْ أَيْدِيَنَا أَنْ تَمْتَدَّ بِالسُّؤَالِ لِغَيْرِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

اسی طرح محفوظ رکھ ہمارے ہاتھوں کو کہ ڈرہ تیرے سوا کسی کے آگے سوال کے لئے دائرہوں نہیں کوئی معبود

سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ○ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

بجز تیرے پاک ہے تو بے شک میں ظالموں میں سے ہوں ○ والحمد لله

رَبِّ الْعَالَمِينَ ○

رب العالمین

ورد روز چہار شنبہ (بدھ)

ورد بدھ کا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے

إِلَهِي عَزَّ قَدَمُكَ حَدَّثَنِي فَلَا أَنَا وَأَشْرَقَ سُلْطَانُ

الہی! تیرا قدم میرے مدوٹ کو شامل ہے پس میں تو کچھ بھی نہیں اور تیری ذات کے نور کا سلطان

نُورِ وَجْهِكَ فَاصْأَهِ يَكُلُ بَشْرِيَّتِي وَلَا سِوَاكَ فَمَدَامُ

چمکا پس اُس نے روشن کر دیا میری بشریت کے تیرے سوا اور کوئی نہیں پس

مِنِّي فَبَدَّ وَامِكَ وَمَا فَنِي عَنِّي فَبِرُؤْيِيَّتِي أَيَايَ وَأَنْتَ

جو چیز باقی رہے مجھ سے پس وہ تیری بقا کے ساتھ ہے اور جو فنا ہو مجھ سے پس وہ اس لئے

الذَّائِعُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْأَلُكَ بِالْأَلْفِ إِذَا تَقَدَّمَتْ هـ

نہیں بنا تو ہی ہمیشہ رہنے والا ہے نہیں ہے کوئی مجھ کو برحق بخیر تیرے میں ال کرتا ہوں تجھ سے طفیل العشاء

وَبِالْهَاءِ إِذَا تَأَخَّرَتْ هـ وَبِالْهَاءِ مِنِّي إِذَا انْقَلَبْتُ لَمَّا

کے جب اُسے متقدم کیا جاتا ہے اور طفیل حاکم کے حکم آتی ہے اور ساتھ ساتھ کے مجھ سے جب بلاتی ہے نام سے

أَنْ تَقْنِيَنِي بِكَ عَنِّي حَتَّى تَلْتَحِقَ بِالصِّفَةِ بِالصِّفَةِ وَتَقَعُ

یہ کہنا کہ تو مجھے مجھ سے اپنی ذات کے ساتھ یہاں تک کہ صفت صفت کے ساتھ مل جائے اور رابطہ

الرَّابِطَةُ بِالذَّاتِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ يَا ذَا الْجَلَالِ

ذات کے ساتھ واقع ہو جائے۔ نہیں ہے کوئی مجھ کو تیرے سوا یا حئی یا قیوم یا ذوالجلال

وَالْإِكْرَامِ هـ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى وَسَلَّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

والاکرام اور درود بھیجے اللہ تعالیٰ اور سلام ہمارے آقا محمد پر اور

عَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ هـ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ هـ

آپ کی آل پر اور آپ کے صحابہ پر سب پر والحمد لله رب العالمین

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ ۝

والحمد لله وحده

ورد روز پنجشنبه (جمعرات)

ورد جمعرات کا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَا يَشَاءُ يَنْزِلُ فِي السَّمَاءِ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالنُّجُومُ بِرُؤْيُوسٍ وَمَا يَشَاءُ يَنْزِلُ فِي السَّمَاءِ بِالرَّجَلِ وَالنُّجُومُ بِرُؤْيُوسٍ وَمَا يَشَاءُ يَنْزِلُ فِي السَّمَاءِ بِالرَّجَلِ وَالنُّجُومُ بِرُؤْيُوسٍ

اللہ نہیں ہے کوئی معبود بجز اس کے وہ زندہ ہے سب کو زندہ رکھنے والا ہے۔ الم۔ اللہ نہیں ہے کوئی خدا بجز اس کے

هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَعَنْتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ اَللّٰهُمَّ

خود زندہ ہے اور منزل کو زندہ رکھنے والا ہے عجز سے جھک گئے ہیں سارے چہرے حتیٰ قیوم کی بارگاہ میں اے اللہ!

اِنِّیْ اَسْأَلُكَ یَا اَللّٰهُ یَا اَللّٰهُ یَا اَللّٰهُ بِمَا سَأَلْتُكَ بِهٖ

میں تجھ سے سوال کرتا ہوں یا اللہ۔ یا اللہ۔ یا اللہ۔ اس چیز کا کہ سوال کیا ہے تجھ سے اس

نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَا وُدُّ

کا تیرے نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یا وود

يَا وُدُّ يَا وُدُّ يَا وُدُّ يَا ذَا الْعَرْشِ الْمَجِيدِ يَا مُبْدِيَّ

یا وود یا وود یا وود اے بزرگ عرش کے مالک اے آغاز کرنے والے

يَا مُعِيْدُهُ يَا فَعَالًا لِمَا يُرِيدُ أَسْأَلُكَ بِنُورِ وَجْهِكَ

اے دوبارہ لوٹانے والے، اے جو چاہے کرنے والے سوال کرتا ہوں میں تجھ سے تیرے نجات کے نور کے طفیل

الَّذِي مَلَأَ أَرْكَانَ عَرْشِكَ وَبِقُدْرَتِكَ الَّتِي قَدَّرْتَ

جس نے بزرگ کر دیا ہے تیرے عرش کے گوشوں کو اور تیری قدرت کے طفیل جس سے تو اپنی

بِهَا عَلَى جَمِيعِ خَلْقِكَ وَبِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَسَّعَتْ

ساری مخلوق پر قادر ہے اور تیری رحمت کے وسیع ہیں جو ہر چیز کو گھیرے

كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا إِلَهًا أَنْتَ يَا مُغِيثُ اغْتِثْنِي (ثلاثا)

ہوتے ہے نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے اے فریاد کرنے والے میری فریاد میں (تین مرتبہ)

اللَّهُوَ إِنِّي أَسْأَلُكَ يَا لَطِيفُ قَبْلَ كُلِّ لَطِيفٍ وَيَا

اے اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے اے ہر لطف کرنے والے سے پہلے لطف فرمانے والے اہلنے

لَطِيفُ بَعْدَ كُلِّ لَطِيفٍ يَا لَطِيفُ (ثلاثا) لَطِفَتْ

ہر لطف کرنے والے کے بعد لطف فرمانے والے یا لطیف یا لطیف یا لطیف تو نے ہی مہربانی سے

بِخَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَسْأَلُكَ يَا رَبِّ كَمَا

آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا میں سوال کرتا ہوں تجھ سے اے میرے سبب

لَطِفْتَنِي فِي ظُلْمَتِ الْأَحْسَاءِ الطُّفُّ بِنِي فِي

تو نے مجھ پر لطف فرمایا جب کہ میں آنسوؤں کے اندھیروں میں تھا مہربانی فرما میرے ساتھ اپنی

قَضَائِكَ وَقَدْرِكَ وَفَرَجِ عَنِّي الضِّيقَ وَلَا تَحْمِلْنِي

قضا و قدر میں اور دُور فرما مجھ سے تنگی کو اور نہ بوجھ ڈال مجھ پر

مَا لَّا أُطِيقُ بِجُرْمَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ

جس کی میں طاقت نہیں رکھتا مجرمتِ سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ و

آلِهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ

آہ وسلم اور مجرمتِ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ

يَا لَطِيفُ يَا لَطِيفُ يَا لَطِيفُ يَا لَطِيفُ يَا لَطِيفُ يَا لَطِيفُ

یا لطیف یا لطیف یا لطیف یا لطیف یا لطیف یا لطیف

خَفِيَ لَطْفِكَ الْخَفِيَ الْخَفِيَ الْخَفِيَ الْخَفِيَ الْخَفِيَ الْخَفِيَ الْخَفِيَ الْخَفِيَ الْخَفِيَ

درباریک لطف اپنے کے جو نہایت مخفی در مخفی در مخفی ہے بے شک تو نے فرمایا ہے اور تیرا فرمان

الْحَقُّ اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ

سچ ہے اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے اپنے بندوں کے ساتھ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور وہ

الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ وَحَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

قوت والا غالب ہے اور ہم کو کافی ہے اللہ تعالیٰ اور وہ بہترین کار ساز ہے

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

والحمد لله رب العالمین

وَرْدُ رَوْزِ جُمُعَةِ (جُمُعَةِ)

ورد روز جمعہ کا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرماتے والا ہے

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِعَظِيمِ قَدِيرٍ كَرِيمٍ مَكُونٍ فَخْرُونَ

اے اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے بظہیل تیرے اسماء کے جو عظیم، قدیم معزز، پوشیدہ اور مخفی ہیں

أَسْمَائِكَ وَبِأَنْوَاعِ أَجْنَاسِ رُقُومِ نِقُوشِ أَنْوَارِكَ

اور بظہیل تیرے انوار کے جن کے نقوش خطوط انواع و اقسام کے ہیں اور تیری عزت کے ظہیل

وَبِعَزِيزِ اعْزَازٍ تَعَزُّزِ عَزَّتِكَ وَبِحَوْلِ طَوْلِ جَوْلِ شَدِيدِ

جو خود بھی غالب ہے اور دوسروں کو بھی غلبہ دینے والی ہے اور بظہیل تیری قوت کے جس کا حملہ شدید

قَوَّتِكَ وَبِقَدْرِ مِقْدَارِ اقْتِدَارِ قُدْرَتِكَ وَبِبَأْسَائِدِ تَحْمِيدِ

اور طاقتور ہے اور تیری قدرت کے اقتدار کے اندازے کے ظہیل اور بظہیل تیری عظمت کی تائید، تعریف،

تَمْجِيدِ تَعْظِيمِ عَظَمَتِكَ وَبِسُؤْمُومِ عُلُورِ رُفْعَتِكَ

بزرگی اور تعظیم کے ساتھ اور تیری رفعت کی بلندی، زیادتی اور علو کے ظہیل

وَبِيقَوْمِ دَيُّومِ دَوَامِ مَدَّتِكَ وَبِرِضْوَانِ عَفْوَانِ

اور تیری مدت کے ظہیل جو قائم رکھنے والی ہمیشہ رہنے والی اور مہربانی ہے تیری مغفرت، رضامندی بخشش اور

أَمَانَ مَغْفِرَتِكَ وَبِرْفِعِ بَدِيْعِ مَنِيْعِ سُلْطَانِكَ وَ

امان کے طفیل، تیری بادشاہی، سلطوت کی بھندی، بے مثالی اور استواری کے طفیل اور

سَطْوَتِكَ وَبِرَهْبُوْتِ عَظْمُوْتِ جَبْرُوْتِ جَلَالِكَ

تیرے جلال کے وہبے، عظمت اور شوکت کے طفیل

وَبِصَلَاتِ سُعَاتِ سَعَةِ بِسَاطِرِ رَحْمَتِكَ وَبِلَوَامِعِ

تیری رحمت کی چادر کی وسعت کی فراخیوں کے طفیل تیری ذات کے

بَوَارِقِ صَوَاعِقِ عَجِيْبِ هَيْجِ رَهِيْجِ بَهِيْجِ نُوْرِ ذَاتِكَ

خوشنما نور کی چمکنے والی پھلیوں کی گرجار آواز کے طفیل تیری

وَبِهَرَقَهْرِ جَهْرٍ مَيْمُوْنٍ اِزْتِبَاطٍ وَحَدَانِيَّتِكَ وَبِهَدِيْرِ

وحدانیت کے روشن غالب، ظاہر اور باہرکت رابطہ کے طفیل تیرا سمندر

هَيَارٍ تَيَّارٍ نَيَّارٍ اَمْوَاجِ بَحْرِكَ الْمُحِيْطِ بِمَدْكُوْتِكَ وَ

جو تیری بادشاہی کا احاطہ کرتے ہوئے ہے اس کی شور مچانے والی مندر نور تند تیر موجوں کے طفیل

بِاتْسَاعِ اِنْفَسَاحِ مَيَادِيْنِ بَرَازِ خُرْسِيَّكَ وَبِهَيْكَلِيَّاتِ

تیری کرسی کے برزخوں کے میدانوں کی فراخی اور وسعت کے طفیل تیرے عرش

عُلُوِّيَّاتِ رُوْحَانِيَّاتِ اَمْلاَكِ اَفْلَاكِ عَرْشِكَ وَبِاَمْلاَكِ

کے آسمانوں کے ملکوں کی بھند اور روحانی ہیملوں کے طفیل، بطفیل

الرُّوحَانِيَيْنِ الْمُدَبِّرِينَ لِلْكَوْكَبِ الْمُدِيرَةِ بِأَفْلَاكَكَ

رُوحانی فرشتوں کے جو تدبیر کرنے والے ہیں ان ستاروں کے جو تیرے آسمانوں میں جو گردش میں

وَبِحَنِينِ أَنْبِيَاءِ تَسْكِينِ قُلُوبِ الْمُرِيدِينَ بِقُرْبِكَ وَ

تیرے قرب کا ارادہ کرنے والوں کے دلوں کے سوز،

بِخَضَعَاتِ حَرَاقَاتِ زَفَرَاتِ الْخَائِفِينَ مِنْ سَطْوَتِكَ

گرہ و زاری اور تسکین کے طفیل، تیری ہیبت سے ڈرنے والوں کے مجرذ نیاز سوزوں اور آہ و بکا کے

وَبِأَمَالِ نَوَالِ اقْوَالِ الْمُجْتَهِدِينَ فِي مَرْضَاتِكَ وَ

طفیل، تیری رضا جوئی کے لیے جو ریاضت میں مصروف ہیں ان کی امیدوں کے حنیسل،

بِتَخَضُّعِ تَفَضُّعِ تَفَضُّعِ تَعْظِيمِ مَرَاتِ الصَّابِرِينَ عَلَى

جو تیرے انعام سے وابستہ ہیں تیری آزمائشوں پر صبر کرنے والوں کی عاجزی، شدت

بَلَوَاتِكَ وَبِتَعَبِدِ تَعَبِدِ تَجَلُّدِ الْعَابِدِينَ عَلَى

اور شدتِ تنہیوں کے طفیل، تیری اطاعت پر جو بڑی بہادری سے ثابت قدم رہے ان کی نیاز مندی اور

طَاعَتِكَ يَا أَوَّلَهُ يَا آخِرَهُ يَا ظَاهِرَهُ يَا بَاطِنَهُ يَا قَدِيمَهُ

بزرگی کے طفیل، اے اول، اے آخر، اے ظاہر، اے باطن، اے قدیم،

يَا مُقِيمَهُ يَا قَوِيَّهُ اِطِيسْ بِطَلْسُوتِ بَسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ

اے مقیم، اے قوی، جو کہوے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حکم کے

الرَّحِيوُهُ شَرَّ سُوَيْدَاءِ قُلُوبِ أَعْدَائِنَا وَأَعْدَائِكَ وَدُقِّ

طفیل ہمارے اور اپنے دشمنوں کے دلوں کی سیاہی کے شرکو اور اڑاسے

أَعْنَاقَ رَعْوَسٍ لَظْمَةٍ بَسِيُوفٍ نَشَابٍ قَهْرِكَ وَ

گردنیں ظالموں کے سروں کی اپنے قہر و جبروت کی تلواروں سے اور

سَطْوَتِكَ وَاجْتُنَابًا حُجْبِكَ الْكَثِيفَةَ بِحَوْلِكَ وَقُوَّتِكَ

ڈال دے ہم پر کثیف پردے اپنی ر قوت ، طاقت

وَقُدْرَتِكَ عَنْ لِحَطَاتِ لَمَعَاتِ لَمَعَاتِ أَبْصَارِهِ

اور قدرت کے تاکہ اُن کی کمزور نظریں ہمیں نہ

الضَّعِيفَةَ بَعِزَّتِكَ وَقُدْرَتِكَ وَسَطْوَتِكَ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ

دیکھ سکیں اپنی عزت ، قدرت اور سطوت کے طفیل يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ

يَا اللَّهُ هُوَ وَصَبَّ عَلَيْنَا مِنْ أَنْبَابٍ مَيَارِيْبِ التَّوْفِيقِ

يا الله! اور سعادتوں کے باغات میں ہم پر توفیق کے پرنائوں سے

فِي رَوْضَاتِ السَّعَادَاتِ أَنْاءَ لَيْدِكَ وَأَطْرَافِ نَهَارِكَ

پانی برسا پنی رات کے ہر لمحہ میں اور پھندوں کی ہر گھڑی میں

وَأَعْمَسْنَا فِي أَحْوَاضِ سَوَاقِي مَسَاقِي بَرِّكَ وَرَحْمَتِكَ

اور داخل کرتیں ان حوضوں میں جہاں تیرے احسان اور رحمت کی ندیاں آگرتی ہیں

وَقَيْدًا بِبَقِيَّةِ السَّلَامَةِ عَنِ الْوُقُوعِ فِي مَعْصِيَتِكَ

اور ہمیں سلامتی کی زنجیروں میں جکڑ دے تاکہ ہم تیری نافرمانی کے ارتکاب سے محفوظ رہیں

يَا أَوَّلُ هـ يَا آخِرُ هـ يَا ظَاهِرُ هـ يَا بَاطِنُ هـ يَا قَدِيمُ هـ يَا قَدِيمُ هـ يَا قَدِيمُ هـ

اے اول ، اے آخر ، اے ظاہر ، اے باطن ، اے قدیم ، اے قدیم ، اے قدیم ،

يَا مُقِيمُ هـ يَا مُوَلَّاءِي هـ يَا قَادِرُ هـ يَا مُوَلَّاءِي هـ يَا غَافِرُ هـ يَا طَيِّفُ هـ

اے مقیم ، اے میرے مولا ، اے قادر ، اے میرے مولا ، اے گناہ بخشنے والے ، اے لطف فرمانے والے ،

يَا خَيْرُ هـ اللَّهُ ذَهَلَتِ الْعُقُولُ وَانْحَسَرَتِ الْأَبْصَارُ

اے خیر رکھنے والے ، اے اللہ! عقل دنگ ، آنکھیں خیرہ ،

وَحَارَتِ الْأَوْهَامُ وَضَاقَتِ الْأَفْهَامُ وَبَعُدَتِ الْخَوَاطِرُ

وہم حیران ، ہم تنگ ، دل دور ،

وَقَصُرَتِ الظُّنُونُ عَنْ إِدْرَاكِ كُنْهِ كَيْفِيَّةِ ذَاتِكَ وَمَا

اُدھن وگمان قاصر ہو گئے ہیں تیری ذات کی کیفیت کی حقیقت سمجھنے سے تیری قدرت

ظَهَرَ مِنْ بَوَادِي عَجَائِبِ أَنْوَاعِ أَصْنَافِ قُدْرَتِكَ

کے گوناگوں عجائبات کے جنگلوں سے کچھ ظاہر نہ ہوا

دُونَ الْبُلُوغِ إِلَى تَلَاوُلِ الْمَعَاتِ بِرُوقِ شُرُوقِ

سوائے تیرے اسماء کی روشنیوں کی چمک دمک

أَسْمَائِكَ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا أَوَّلَهُ يَا آخِرَهُ يَا ظَاهِرَهُ

کے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اول ، اے آخر ، اے ظاہر ،

يَا بَاطِنَهُ يَا قَدِيمَهُ يَا قَوِيمَهُ يَا مُقِيمَهُ يَا نُورَهُ يَا هَادِيَهُ

اے باطن ، اے قدیم ، اے قویم ، اے مقیم ، اے نور ، اے ہادی ،

يَا بَدِيعَهُ يَا بَاقِيَ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

اے بدیع ، اے باقی یا ذا الجلال والاكرام ، نہیں ہے کوئی معبود سوا تیرے

بِرَحْمَتِكَ نَسْتَعِيثُ يَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيثِينَ اغْنِنَا

، تمہاری رحمت کے ساتھ فریاد کرتے ہیں اے فریاد کرنے والوں کے فریاد رس ہماری فریاد سن

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ بِرَحْمَتِكَ ارْحَمْنَا اللَّهُمَّ حَرِّكِ الْحَرَكَاتِ

نہیں ہے کوئی معبود بجز تیرے اپنی رحمت کے طفیل ہم پر رحم فرما اے اللہ حرکت دینے والے تمام حرکتوں کے

وَمُبْدِئِ نَهَايَاتِ الْغَايَاتِ وَمُخْرِجِ نَبَاتِ قُضْبَانِ

اوردے آغاز کرنے والے تمام مقاصد کی انتہاؤں کے اے نباتات کے تنوں سے شاخوں کے

قُضْبَاتِ النَّبَاتِ وَمُسْقِقِ صُجُجِ لَامِيدِ الصُّخُورِ

چشموں کو نکالنے والے اور سخت پتھروں کی مہکم چٹانوں کو

الرَّاسِيَاتِ وَالْمُنْبِعِ مِنْهَا مَاءً مَعِينًا لِلْمَخْلُوقَاتِ

پھاڑنے والے مخلوقات کے لئے ان میں گھاٹ پانی کے چشمے جاری کرنے والے

وَالْمُحْيِي بِهِ سَائِرَ الْحَيَوَانَاتِ وَالنَّبَاتَاتِ وَالْعَالَمِ بِمَا

جملہ حیوانات و نباتات کو اس کے ذریعے زندہ کرنے والے اے جاننے والے جو

اِخْتَلَجَ فِي صُدُورِهِمْ مِنْ أَسْرَارِهِمْ وَأَفْكَارِهِمْ وَفَكَرِ

لوگوں کے سینوں میں اُن کے اسرار اور اُن کے افکار و خیالات پیدا کرتے ہیں اور زمین پر

رَمَزْنُطِقِ إِشَارَاتِ خَفِيَّاتِ لُغَاتِ الثَّمَلِ السَّارِحَاتِ

رہنے والی چوٹیوں کی لغات کے مخفی اشارات کی علامتوں کو کھولنے والے

يَا مَنْ سَبَّحَتْ وَقَدَّسَتْ وَعَظَّمَتْ وَكَبَّرَتْ

اے وہ کہ ساتوں آسمانوں کے فرشتے اس کی عزت و جبروت کے اقوال کی تسبیح، تقدیس اور

وَمَجَّدَتْ لِجَلَالِ جَمَالِ كَمَالِ أَقْدَامِ أَقْوَالِ أَعْظَامِ

تعلیم بیان کرتے ہیں اور ان کی بڑائی اور بزرگی کا ذکر

عِزِّهِ وَجَبْرُوتِهِ مَلَائِكُ سَبَّحُ سَمَوَاتِكَ اجْعَلْنَا فِي

کرتے ہیں بنا دے ہمیں

هَذَا الْعَامِ وَفِي هَذَا الشَّهْرِ وَفِي هَذِهِ الْجُمُعَةِ وَفِي

اس سال میں اس ماہ میں اس جمعہ میں اس

هَذَا الْيَوْمِ وَفِي هَذِهِ السَّاعَةِ وَفِي هَذَا الْوَقْتِ الْمُبَارَكِ

دن میں اس گھڑی میں اور اس مبارک وقت میں

مَنْ دَعَاكَ فَاجِبْتَهُ وَسَأَلَكَ فَأَعْطَيْتَهُ وَتَضَرَّعَ

اُن لوگوں میں سے جو تجھے پکارتے ہیں تو تو اُن کی دُعا قبول فرماتا ہے اور جو تجھ سے مانگتے ہیں تو تو اُن کو عطا

الَيْكَ فَرِحْمَتُهُ وَالِي دَارِكَ دَارِ السَّلَامِ اِدْنَيْتَهُ بِفَضْلِكَ

فرماتا ہے جو تیری جناب میں عاجزی کرتے ہیں تو تو اُن پر رحمت فرماتا ہے اور اپنے گھر یعنی جنت کی طرف تو انہیں قریب

يَا جَوَادُهُ يَا جَوَادُهُ يَا جَوَادُهُ جُدْ عَلَيْنَا وَعَامِلْنَا بِمَا أَنْتَ

کرنا اپنے فضل سے اے سخی، اے سخی، اے سخی، سخاوت فرما ہم پر اور ہمارے ساتھ وہ سلوک کر جو

أَهْلُهُ وَلَا تَقَابِلْنَا بِمَا خَنُ أَهْلُهُ ط إِنَّكَ أَنْتَ أَهْلُ

تیری شان کے شایان ہے اور ہمارے ساتھ وہ معاملہ نہ کر جس کے ہم لائق ہیں بے شک تو اہل التقوی

التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ يَا اللَّهُ

اور اہل المغفرة ہے یا ارحم الراحمین یا اللہ

يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا أَوَّلُ يَا آخِرُ يَا ظَاهِرُ يَا بَاطِنُ

یا اللہ ، یا اللہ ، اے اول ، اے آخر ، اے ظاہر ، اے باطن ،

يَا قَدِيمُ يَا قَدِيمُ يَا مُقِيمُ يَا نُورُ يَا هَادِي يَا بَدِيعُ

اے قدیم ، اے قدیم ، اے مقیم ، اے نور ، اے ہادی ، اے بدیع ،

يَا بَاقِي يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ بِرَحْمَتِكَ

اے باقی ، اے جلال والے اور عزت والے ، نہیں ہے کوئی معبود سوا تیرے ہم تیری رحمت کے

نَسْتَعِثُ يَا غِيَاثَ الْمُسْتَعِثِّينَ اَعْتَنَاهُ لَا إِلَهَ إِلَّا

وسیلہ سے فریاد کرتے ہیں اے فریاد کرنے والوں کی فریاد مننے والے ہماری فریاد سن نہیں ہے کوئی معبود

أَنْتَ وَبِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ هَ اسْأَلُكَ

تیرے سوا اے ارحم الراحمین میں تجھ سے سوال کرتا ہوں

اللَّهُمَّ أَنْ تَصَلِّيَ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَ

اے اللہ درود بھیج ہمارے آقا محمد اور آپ کی آل، آپ کے صحابہ اور

تَسْلَمُوا وَأَنْ تَقْضِيَ حَوَائِجَنَا يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ هَ

سلام بھیج اور پوری کر تو ہماری حاجتیں یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ،

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○

سب تعریفیں اللہ کے لئے جو رب العالمین ہے

ورد روزِ شنبہ (ہفتہ)

ورد ہفتہ کے روز کا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے

اللَّهُمَّ يَا مَنْ نَعْمَةٌ لَا تَخْصِيهِ وَأَمْرَةٌ لَا يُعْصِيهِ وَتَوْرَةٌ

اے اللہ اے وہ جس کی نعمتوں کا شمار نہیں ہو سکتا اور جس کے حکم کی نافرمانی نہیں ہو سکتی جس کے تورات

لَا يُظْفَرُ وَلَا يُطْفَأُ لَا يُخْفَىٰ هُيَا مَنْ فَلَقَ الْبَحْرَ لِمُوسَىٰ هُ

بچھایا نہیں جاسکتا، جس کا لطف چھپایا نہیں جاسکتا اُسے وہ جس نے شق کر دیا سمندر کو موسیٰ کے لئے،

وَاحْيَىٰ النَّيْتِ لِعِيسَىٰ هُ وَجَعَلَ النَّارَ بَرْدًا وَسَلَامًا

زندہ کر دیا مرنے کو عیسیٰ کے لئے، بنا دیا آگ کو سرد اور سلامتی

عَلَىٰ اِبْرَاهِيمَ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ابراہیم پر درود بھیج ہمارے آقا محمد پر اور آپ کی آل پر

وَاجْعَلْ لِي مِنْ اَمْرِي فَرْجًا وَفَخْرًا مَا اَللَّهُ تَبْلَاؤُنُورٍ

اور بنا دے میرے لئے میری مشکل کو آسان اور اس سے نکلنے کا راستہ، اُسے اللہ تیرے عرش کے

بِهَاءِ حُجُبِ عَرْشِكَ مِنْ اَعْدَائِي اِحْتَجَبْتُ وَبِسُطُوَّةِ

پردوں کی روشنی کے ڈور کی چمک میں اپنے دشمنوں سے اپنے آپ کو چھپاتا ہوں اور تیرے جبروت

الْجَبْرُوتِ مِمَّنْ يَكْنِيْدُنِي تَخَصَّصْتُ وَبِحَوْلِ حَوْلِ جَوْلِ

کی سلطوت کے طفیل ان لوگوں سے پناہ مانگتا ہوں جو میرے خلاف سازش کرتے ہیں اور تیری قوت کے

شَدِيْدِ قُوَّتِكَ مِنْ كُلِّ سُلْطٰنٍ تَخَصَّصْتُ وَبِدَائِيَوْمِ

شدید حملہ کے زور سے میں ہر بادشاہ کے شر سے قلعہ گیر ہوتا ہوں اور تیری ابدیت کی

قِيَوْمِ دَوَامِ اَبَدِيَّتِكَ مِنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ اِسْتَعَدْتُ وَ

ہمیشہ قائم رہنے والی بقا سے میں ہر شیطان سے پناہ مانگتا ہوں اور

بِمَكُونِ السِّرِّ مِنَ سِرِّكَ مِنْ كُلِّ هَامَّةٍ تَخَصَّتْ

تیرے ازلوں میں سے جو سیر نہیں ہے اس کے طفیل میں ہر شیطان سے نجات و پناہ

وَتَخَصَّنَتْ يَا حَامِلَ الْعَرْشِ عَنْ حَمَلَةِ الْعَرْشِ

طلب کرتا ہوں اے حاملین عرش کے بوجھ کو اٹھانے والے

يَا حَابِسَ لَوْحِشِ يَأْسِدُ يَدَ الْبَطْشِ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَ

اے وحیوں کو روکنے والے اے شدید گرفت والے تجھی پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور

إِلَيْكَ أَنْبَتُ اجْبِسْ عَنِّي مَنْ ظَلَمَنِي وَأَغْلِبْ عَلَيَّ

تیری طرف میں نے رجوع کیا ہے روک لے مجھ سے جس نے مجھ پر ظلم کیا اور غلبہ دے مجھے اُس پر

مَنْ غَلَبَنِي كَتَبَ اللَّهُ لِأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ

جو مجھ پر غالب آیا ہے لکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے میں ضرور غالب آؤں گا اور میرے سوا غلبہ نہیں کرے گا

عَزِيْزُهُ اللَّهُ أَكْبَرُهُ اللَّهُ أَكْبَرُهُ اللَّهُ أَكْبَرُهُ وَأَعَزُّهُمْ

اللہ تعالیٰ قوت والا غالب، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، ساری مخلوق سے

خَلِقُهُ جَمِيعًا اللَّهُ أَعَزُّهُمْ مِنْ أَخَافُ وَأَحَدٌ أَعُوذُ

عزت والا ہے اللہ عزت والا ہے اُس سے جس سے میں ڈرتا ہوں اور خوف کرتا ہوں میں پناہ

بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مُنْسِكُ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ أَنْ

مُلکاً ہوں اللہ سے تو اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں جس نے روکا ہوا ہے سات آسمانوں کو

تَقَعْ عَلَى الْأَرْضِ الْإِيَاذِنَهُ مِنْ شَرِّ عَبْدِكَ فَلَانٍ وَ

گرنے سے زمین پر مگر اُس کے اذن کے ساتھ تیرے فلاں بندے کے شر سے اس

جُنُودِهِ وَاتَّبَاعِهِ وَأَشْيَاعِهِ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ اللَّهُمَّ

کے لشکروں سے اُس کے پیروکاروں سے اس کے لوگوں سے خواہ وہ جن ہوں یا انسان اے اللہ

كُنْ لِي جَارًا مِنْ شَرِّهِمْ جَمِيعًا جَلَّ شَأْؤُكَ وَعَزَّ

مجھے پناہ دے ان تمام کے شر سے تیری تعریف بڑی بزرگ ہے تیرا بڑا ہستی

جَارُكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ تَفَعَّلُ مَا تَشَاءُ

عزت والا ہے تیرا نام برکت والا ہے نہیں ہے کوئی معبود سوا تیرے تو کرتا ہے جو چاہتا ہے

وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

تو ہر چیز پر قادر ہے و الحمد لله رب العالمین



دُرُودِ مُسْتَغَاثَاتِ

مستغاث

دُرُودِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ زَیَّنَ النَّبِیِّیْنَ بِحَبِیْبِهِ الْمُصْطَفٰی

سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے جس نے تمام انبیاء کو اپنے حبیب مصطفیٰ سے مزین فرمایا

وَمَنْ عَلٰی الْمُؤْمِنِیْنَ بِنَبِیِّهِ الْمُجْتَبٰی الصَّلٰوةُ

اور اپنے پسندیدہ نبی کو بھیج کر سب اہل ایمان پر احسان عظیم فرمایا صلوة و

وَالسَّلَامُ عَلٰی رَسُوْلِهِ مُحَمَّدٍ خَیْرِ الْوَرٰی الْمَسْیْرِیْہِ

سلام ہو اُس کے رسول محمد پر جو سب مخلوق سے بہترین ہیں جن کو عرش کے

مِنْ فَوْقِ الْعَرْشِ اِلٰی تَحْتِ الثَّرٰی الْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰی

اوپر سے تحت الثری تک سیر کرائی گئی سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے

مَا مَضٰی وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰی مَا بَقِیَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ

ان نعمتوں پر جو اُس نے پہلے فرمائی ہیں اور سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ان نعمتوں پر جو ابھی باقی ہیں صلوة و

عَلٰی رَسُوْلِهِ مُحَمَّدٍ خَیْرِ الْوَرٰی مَدْحُكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ

وسلام ہو اُس کے رسول محمد پر جو ساری کائنات سے بہترین ہیں یا رسول اللہ میں نے آپ کی مدح سرائی کی ہے

صَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ أَنْتَ خَيْرُ اللَّهِ الْمُسْتَعَاثُ

نبی امی پر خدا کے دُرُود ہوں آپ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ میں آپ بارگاہ الہی

إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ

میں ہمارے لئے فریاد کرنے والے ہیں اے اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول آپ پر

يَا رَسُولَ اللَّهِ رَسُولُ سَيِّدِ الْكَوْنَيْنِ فَتَّاحُ فَاتِحِ اللَّهِ

صلوٰۃ و سلام ہو آپ رسول ہیں کونین کے سردار ہیں ہر بندہ روزانہ کھولنے والے ہیں اللہ تعالیٰ

الْمُسْتَعَاثُ إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

نے آپ کو فاتح بنایا ہے آپ بارگاہ الہی میں ہمارے لئے فریاد کرنے والے ہیں اے اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول

عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ النَّبِيُّ الْمُصْطَفَى رَسُولُ نَبِيِّ

آپ پر دُرُود و سلام ہو آپ نبی مصطفیٰ ہیں رسول ہیں مشرق و مغرب

الْخَافِقِينَ قَاسِمُ خَيْرِ خَلْقِ اللَّهِ الْمُسْتَعَاثُ إِلَى

کے نبی ہیں، خیر تقسیم کرنے والے ہیں آپ اللہ کی سب مخلوق سے بہتر ہیں آپ بارگاہ الہی میں

حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ

ہمارے لئے فریاد کرنے والے ہیں اے اللہ کے پیارے رسول آپ پر صلوٰۃ و سلام

اللَّهُ السَّيِّدُ الْمُعَلَّى رَسُولُ سِرَاجِ الْعَالَمِينَ

ہو آپ آقا ہیں، بلند بالا ہیں، رسول ہیں سب جہانوں کے چراغ ہیں

مَحْمُودٌ مُطِيبُ اللَّهِ الْمُسْتَعَاثُ إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ

سناش کئے جوتے ہیں اللہ نے آپ کو پاک بنایا ہے آپ بارگاہِ الہی میں ہمارے لئے فریاد کرنے

تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اَوْ لِي

والے ہیں اے اللہ کے پیارے رسول آپ پر صلوة و سلام ہو آپ اللہ کے

مِنْ عِبَادِ اللَّهِ رَسُولٌ صَاحِبُ الدَّارَيْنِ خَادِمُهُمْ

تمام بندوں سے مقرب ہیں رسول ہیں دارین کے مالک ہیں دین کے خادم ہیں

طِيبُ اللَّهِ الْمُسْتَعَاثُ إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةُ

اللہ نے آپ کو پاکیزہ بنایا ہے آپ بارگاہِ الہی میں ہمارے لئے فریاد کرنے والے ہیں اے اللہ کے

وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ النَّبِيُّ الْمُرَكَّبِيُّ رَسُولُ

پیارے رسول آپ پر صلوة و سلام ہو آپ نبی ہیں جنہیں پاک بنایا گیا ہے رسول ہیں

تَابِجُ الْحَرَمَيْنِ نَاهٍ طَاهِرُ اللَّهِ الْمُسْتَعَاثُ إِلَى

حرمین کے تاجدار ہیں بڑائیوں سے منع کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاہر بنایا ہے آپ بارگاہِ الہی

حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ

میں ہمارے لئے فریاد کرنے والے ہیں اے اللہ کے پیارے رسول آپ پر صلوة و سلام

اللَّهُ هَذَا نَارُ رَسُولٍ جَدُّ الطَّيِّبِينَ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ

ہو یہیں ہدایت دہی ہے رسول نے دو پاکبازوں حسن اور حسین کے جدِ کریم ہیں

دَاعٍ مُطَهَّرُ اللَّهِ الْمُسْتَعَاثُ إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى

حق کی طرف بلانے والے ہیں اللہ نے آپ کو مطہر بنایا ہے آپ بارگاہِ الہی میں ہمارے لئے فریاد کرنے والے

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَبِيُّ مُخْتَارٍ

میں اے اللہ کے پیارے رسول آپ پر صلوة و سلام ہو آہِ نبی مختار ہیں

مُرْتَضَى إِمَامٍ رَسُولٍ مُقْتَدَى الْأَئِمَّةِ الْمُهْدِيِّينَ

پسندیدہ ہیں امام ہیں رسول ہیں ہدایت یافتہ اماموں کے پیشوا ہیں

هَادٍ مُبِينٍ اللَّهُ الْمُسْتَعَاثُ إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى

ہادی ہیں اللہ کے احکام بیان کرنے والے ہیں آپ بارگاہِ الہی میں ہمارے لئے فریاد کرنے والے

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَدَانَا رَسُولٌ

میں اے اللہ کے پیارے رسول آپ پر صلوة و سلام ہو ہمیں ہدایت دی ہے ہمیں اُس

مُهْدِي الْأُمَّةِ وَرَسُولٌ صَفِيٍّ حُجَّةِ اللَّهِ الْمُسْتَعَاثُ

رسول جو امت کے لئے ہدایت دیا اور رسول ہیں پختے ہوئے ہیں اللہ کی دلیل ہیں آپ بارگاہِ الہی

إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا

میں ہمارے لئے فریاد کرنے والے ہیں اے اللہ کے پیارے رسول آپ پر صلوة و

رَسُولَ اللَّهِ حَبِيبِنَا رَسُولَ مُهْدِيٍّ مِنَ الضَّلَالَةِ

سلام ہو آپ ہمارے حبیب ہیں، رسول ہیں جو گمراہی سے ہدایت یافتہ ہے

مُحَمَّدٍ مُطِيعُ اللَّهِ الْمُسْتَعَاثُ إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى

راہِ راست پر گامزن ہے اللہ کا مطیع ہے آپ بارگاہِ انہی میں ہمارے لئے فریاد کرنے والے ہیں

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مُحَمَّدُ مُحَمَّدَانَا

اے اللہ کے پیارے رسول آپ پر صلوة و سلام ہو آپ کا ہم کرامی محمد ہے ہم کو ہمارے

أَحْمَدُ رَسُولُ كَرِيمٍ مَرْضِيٌّ خَلِيفَةُ اللَّهِ الْمُسْتَعَاثُ

مجت کرنے والے ہیں آپ احمد ہیں رسول ہیں کریم ہیں پسندیدہ ہیں اللہ نے آپ کو اپنا خلیفہ بنایا ہے آپ

إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا

بارگاہِ انہی میں ہمارے لئے فریاد کرنے والے ہیں اے اللہ کے پیارے رسول آپ پر صلوة و

رَسُولَ اللَّهِ رَسُولُنَا رَسُولٌ عَلَى الدَّوَامِ نَبِيُّ طَهْ

سلام ہو آپ ہمارے رسول ہیں آپ کی رسالت دائمی ہے نبی ہیں طہ ہیں

قَائِمٌ حَامِدُ اللَّهِ الْمُسْتَعَاثُ إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى

حق کے ساتھ قائم ہیں اللہ کی حمد کرنے والے ہیں آپ بارگاہِ انہی میں ہمارے لئے فریاد کرنے والے ہیں

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمِيرُ نَارِ رَسُولٍ

اے اللہ کے پیارے رسول آپ پر صلوة و سلام ہو آپ ہمارے امیر ہیں رسول

وَنَبِيِّ مُحَمَّدٍ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اور نبی ہیں آپ کا نام نامی محمد ہے اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

نَاصِرُ كَلِيمِ اللَّهِ الْمُسْتَعَاثُ إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى

مَد فرمانے والے اللہ سے کلام کرنے والے ہیں آپ بارگاہِ الہی میں ہمارے لئے فریاد کرنے والے ہیں

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مُعِينُنَا رَسُولُ

اے اللہ کے پیارے رسول آپ پر صلوة و سلام ہو آپ ہمارے مددگار ہیں رسول ہیں

وَالدَّرُّ النَّبِيُّ الْيَاسِينَ اِمَامٌ اَمِينٌ اللَّهُ الْمُسْتَعَاثُ

سچے موتی ہیں نبی ہیں یسین ہیں امام ہیں اللہ نے آپ کو اپنے لعلوں کا امین بنا لیا ہے آپ

إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا

بارگاہِ الہی میں ہمارے لئے فریاد کرنے والے ہیں اے اللہ کے پیارے رسول آپ پر صلوة و

رَسُولَ اللَّهِ مُصَدِّقُنَا رَسُولُ وَجَيْبُنَا نَبِيُّ مُرَمِّلٍ

سلام ہو آپ ہمارے ایمان کی تصدیق کرنے والے ہیں رسول ہیں ہمارے حبیب ہیں نبی ہیں کملی والے ہیں

بَيَانُ رَسُولُ اللَّهِ الْمُسْتَعَاثُ إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى

قرآن کا بیان ہیں اللہ کے رسول ہیں آپ بارگاہِ الہی میں ہمارے لئے فریاد کرنے والے ہیں

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ شَاهِدُنَا رَسُولُ

اے اللہ کے پیارے رسول آپ پر صلوة و سلام ہو آپ ہمارے گواہ ہیں رسول

وَنَبِيُّ مُدْرَقِ قُرْآنٍ تَوَدَّ اللَّهُ الْمُسْتَعَاثُ إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى

اور نبی ہیں محاورہ دُرُودِ حُضْرَةِ تَعَالَى ہیں قرآن نامق ہیں اللہ کے آفرین و نور ہیں آپ بارگاہِ الہی میں ہمارے لئے فریاد کرنے والے ہیں

الْصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مُذْ كُنَّا رَسُولًا

اے اللہ کے پیارے رسول آپ پر صلوة و سلام ہو آپ ہیں یا اللہ کے پیارے رسول ہیں

مُعْطَى الرُّوحِ بِأَمْرِ جَوَادِ اللَّهِ الْمُسْتَعَاثُ إِلَى حَضْرَةِ

آپ کی روح معطر ہے نیکو کار ہیں اللہ نے آپ کو سخی بنایا ہے آپ بارگاہِ الہی میں ہمارے لئے فریاد

اللَّهُ تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

کرنے والے ہیں اے اللہ کے پیارے رسول آپ پر صلوة و سلام ہو

سُلْطَانِ الْأَنْبِيَاءِ رَسُولُ صَاحِبِ الْفُرْقَانِ مَلِيحٌ

آپ نبیوں کے سلطان ہیں رسول ہیں صاحبِ قرآن ہیں آپ کا سینہ نورانی ہے

مَكِّي شُكُورُ اللَّهِ الْمُسْتَعَاثُ إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى

آپ مکی ہیں اللہ نے آپ کو قدر دان بنایا ہے آپ بارگاہِ الہی میں ہمارے لئے فریاد کرنے والے ہیں

الْصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِمَامُ الْأَتْقِيَاءِ

اے اللہ کے پیارے رسول آپ پر صلوة و سلام ہو آپ اتقیا کے امام ہیں

رَسُولٌ صَاحِبُ الْكُوْثْرِ مَدِينِي مُنِيرُ اللَّهِ الْمُسْتَعَاثُ

رسول ہیں کوثر کے مالک ہیں مدنی ہیں اللہ نے آپ کو روشن آفتاب بنایا ہے آپ

إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ

بارگاہِ الہی میں ہمارے لئے فریاد کرنے والے ہیں اے اللہ کے پیارے رسول آپ پر صلوة و

اللَّهُ سِرَاجُ الْأَوْلِيَاءِ رَسُولٌ صَاحِبُ الْمِيزَانِ الْبَطْحِيِّ

سلام ہو آپ اولیاء کے چراغ ہیں رسول ہیں ترازو کے صاحب ہیں بطحی ہیں

قَرِيبُ اللَّهِ الْمُسْتَعْتَابُ إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةُ

اللہ نے آپ کو اپنا مقرب بنایا ہے آپ بارگاہ الہی میں ہمارے لئے فریاد کرنے والے ہیں اے اللہ کے

وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بُرْهَانُ الْأَصْفِيَاءِ رَسُولٌ

پیارے رسول آپ پر صلوة و سلام ہو آپ اصفیاء کے لئے دلیل ہیں رسول ہیں

سَيِّدُ الْقَوْمِ عَرَبِيٌّ يَدْتِمُّ اللَّهُ الْمُسْتَعْتَابُ إِلَى حَضْرَةِ

قوم کے آقا ہیں عربی ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دُرِّ تَمِيم بنایا ہے آپ بارگاہ الہی میں ہمارے لئے

اللَّهُ تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

فریاد کرنے والے ہیں اے اللہ کے پیارے رسول آپ پر صلوة و سلام ہو

شَفِيعِنَا رَسُولٌ مَجْرَاهُ الْمُهْدِيُّ قُرَيْشِيٌّ شَهِيدُ اللَّهِ

آپ ہمارے شفیع ہیں رسول ہیں آپ کے دل ہونے کی جگہ کون بخش ہے قریشی ہیں اللہ نے آپ کو اپنی توحید کا

الْمُسْتَعْتَابُ إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

گواہ بنایا ہے آپ بارگاہ الہی میں ہمارے لئے فریاد کرنے والے ہیں اے اللہ کے پیارے رسول

عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِمَامُ الْمُؤْمِنِينَ وَرِئِيسَةُ الْأَنْبِيَاءِ

آپ پر صلوة و سلام ہو آپ مومنوں کے امام ہیں انبیاء کی زینت ہیں

رَسُولُ خَادِمِ الْفُقَرَاءِ حِجَارِيٌّ نَذِيرُ اللَّهِ الْمُسْتَعَاثُ

آپ رسول ہیں فقراء کے آرام کا خیال رکھنے والے ہیں آپ حجازی ہیں اللہ نے آپ کو نذیر بنایا ہے آپ

إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا

بارگاہ الہی میں ہمارے لئے فریاد کرنے والے ہیں اے اللہ کے پیارے رسول آپ پر صلوة و

رَسُولَ اللَّهِ خَلْوُ الْأَنْبِيَاءِ رَسُولُ مَا فِي مُحَمَّدُ بْنُ

سلام ہو آپ نعمت الانبیاء میں رسول ہیں باطل کو مٹانے والے ہیں ہم مبارک محمد

عَبْدُ اللَّهِ الْمُسْتَعَاثُ إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةُ

ہے عبد اللہ کے فرزند بلند ہیں آپ بارگاہ الہی میں ہمارے لئے فریاد کرنے والے ہیں اے اللہ کے

وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَادِقُنَا رَسُولُ مَرْسَلُ

پیارے رسول آپ پر صلوة و سلام ہو آپ ہمارے سچے ہیں آپ رسول ہیں آپ کو بھیجا

مُتَوَسِّطُ رَحِيمِ اللَّهِ الْمُسْتَعَاثُ إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى

گیا ہے آپ بہترین ہیں اللہ نے آپ کو رحیم بنایا ہے آپ بارگاہ الہی میں ہمارے لئے فریاد کرنے والے ہیں

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ سَيِّدُنَا رَسُولُ

اے اللہ کے پیارے رسول آپ پر صلوة و سلام ہو آپ ہمارے سردار ہیں رسول ہیں

مُسْتَعِيثٌ مُقْتَصِدٌ حَلِيوُ اللَّهِ الْمُسْتَعَاثُ إِلَى

فریاد رس ہیں میانہ رو ہیں اللہ نے آپ کو حلیم بنایا ہے آپ بارگاہ الہی میں ہمارے لئے

حَضْرَةَ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ

فریاد کرنے والے ہیں اے اللہ کے پیارے رسول آپ پر صلوة و سلام

اللَّهُ اعْتَنَّا يَا رَسُولَ الثَّقَلَيْنِ أَنْتَ حَقٌّ مُنِيبٌ لِلَّهِ

ہو اے جن و انس کے رسول ہماری فریاد رسی کیجئے آپ حق ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو منیب بنا دیا ہے

الْمُسْتَعَاثُ إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

آپ بارگاہ الہی میں ہمارے لئے فریاد کرنے والے ہیں اے اللہ کے پیارے رسول

عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاِعْظُمَارَسُولُ وَرَسُولُهُ الْمُحْتَبَةُ

آپ پر صلوة و سلام ہو آپ میں نصیحت کرنے والے ہیں آپ رسول ہیں آپ بزرگوار رسول ہیں

أَوَّلُ جَيْبِ اللَّهِ الْمُسْتَعَاثُ إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى

نعمت میں اول ہیں اللہ نے آپ کو اپنا جیب بنا دیا ہے آپ بارگاہ الہی میں ہمارے لئے فریاد کرنے والے ہیں

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكْرَمَنَا رَسُولُ

اے اللہ کے پیارے رسول آپ پر صلوة و سلام ہو آپ ہم سب سے کرم ہیں رسول ہیں

صَاحِبُ الشَّرِيعَةِ أَخْرَجَ عَزِيزُ اللَّهِ الْمُسْتَعَاثُ إِلَى

صاحب شریعت ہیں سب نبیوں سے آخر میں آئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو معزز بنا دیا آپ بارگاہ الہی میں

حَضْرَةَ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

ہمارے لئے فریاد کرنے والے ہیں اے اللہ کے پیارے رسول آپ پر صلوة و سلام ہو

أَهْلُ التَّقْوَى رَسُولٌ صَاحِبُ الطَّرِيقَةِ شِفَاءٌ فَصِيحٌ

آپ اہل تقویٰ میں رسول ہیں صاحب طریقت ہیں ہر بیماری کا تریاق ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ

اللَّهُ الْمُسْتَعَاثُ إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

کو ضمیمہ بنایا ہے آپ بارگاہِ الہی میں ہمارے بے فریاد کرنے والے ہیں اے اللہ کے پیارے رسول

عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَّا بِكَ أَنْتَ نَبِيُّنَا رَسُولٌ

آپ پر صلوة و سلام ہو ہم آپ پر ایمان لائے آپ ہمارے نبی ہیں رسول ہیں

صَاحِبُ الْحَقِيقَةِ مُضَرَّى بِشَيْدِ اللَّهِ الْمُسْتَعَاثُ إِلَى

صاحبِ حقیقت ہیں مضرّی ہیں اللہ نے آپ کو خوشخبری دینے والا بنایا ہے آپ بارگاہِ الہی میں

حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ

ہمارے بے فریاد کرنے والے ہیں اے اللہ کے پیارے رسول آپ پر صلوة و سلام

اللَّهُ إِمَامُ الْأُمَمِ مُحَمَّدٌ صَاحِبُ الْمَعْرِفَةِ بَرُّهَانَ

ہو آپ ساری امتوں کے امام ہیں نبی نامی محمد ہے صاحبِ معرفت ہیں اللہ نے آپ کو اپنی

رَحْمَةِ اللَّهِ الْمُسْتَعَاثُ إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةُ

رحمت کی دلیل بنایا ہے آپ بارگاہِ الہی میں ہمارے بے فریاد کرنے والے ہیں اے اللہ کے

وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَبِيرُ نَارِ رَسُولٍ صَاحِبِ

پیارے رسول آپ پر صلوة و سلام ہو آپ ہم سب سے بڑے ہیں رسول ہیں جنت کے

الْجَنَّةِ ظَاهِرٌ كَرِيمٌ اللَّهُ الْمُسْتَعَاثُ إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ

مالک ہیں آپ کا کمال ظاہر ہے اللہ نے آپ کو کریم بنایا ہے آپ بارگاہِ الہی میں ہمارے لئے فریاد کرنے

تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ سَنَدُ

والے ہیں اے اللہ کے پیارے رسول آپ پر صلوة و سلام ہو آپ گنہگاروں کا

الْعَاصِيْنَ رَسُولُ صَاحِبِ الْجَنَّةِ فَارِقُ بَهْمَ سُلْطَانُ

سہارا ہیں رسول ہیں جنت کے مالک ہیں دونوں خالی کرنے والے ہیں بادشاہ ہیں

تِهَامِيٍّ مُؤَمِّنٍ اللَّهُ الْمُسْتَعَاثُ إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى

تہامی ہیں اللہ نے آپ کو دولتِ ایمان و یقین بخشی ہے آپ بارگاہِ الہی میں ہمارے لئے فریاد کرنے والے ہیں

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَيَقِيهِمْ رَسُولُ

اے اللہ کے پیارے رسول آپ پر صلوة و سلام ہو آپ ہمارے فقیہ ہیں رسول ہیں

صَاحِبِ الصِّرَاطِ مُبْلِغُ عَاقِبِ اللَّهِ الْمُسْتَعَاثُ إِلَى

راہِ راست کے مالک ہیں اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہیں اللہ نے آپ کو تمام انبیاء کے بعد بھیجا ہے آپ بارگاہِ

حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ

الہی میں ہمارے لئے فریاد کرنے والے ہیں اے اللہ کے پیارے رسول آپ پر صلوة و سلام

اللَّهُ أَمْنَابِكَ أَنْتَ وَلِيْنَا رَسُولُ صَاحِبِ الشَّفَاعَةِ

جو ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں آپ ہمارے کارساز ہیں رسول ہیں صاحبِ شفاعت ہیں

بِاطْنِ خَلِيلِ اللَّهِ الْمُسْتَعَاثِ إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى

آپ سترہاں میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا قریب بنا لیا ہے آپ بارگاہِ الہی میں ہمارے لئے فریاد کرنے والے ہیں

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ شَهِيدُ عَوَامِنَا

اے اللہ کے پیارے رسول آپ پر صلوٰۃ و سلام ہو آپ عوام امت کے گواہ ہیں

رَسُولٌ بَيْنَ دُونِ جِهَانُونَ كَيْ تَجِدَارِ بَيْنَ اللَّهِ كَيْ عَمَّ سَے پاك چیزوں کو ملال کرنے والے ہیں آپ

إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ

بارگاہِ الہی میں ہمارے لئے فریاد کرنے والے ہیں اے اللہ کے پیارے رسول آپ پر صلوٰۃ و سلام

اللَّهُ وَمَنْ النَّارِ مُخْلِصِنَا رَسُولٌ صَاحِبُ الْمِحْرَابِ

ہو آپ ہمیں دوزخ کی آگ سے نجات دلانے والے ہیں رسول ہیں صاحبِ محراب ہیں

حَاشَى نَبِيِّ اللَّهِ الْمُسْتَعَاثِ إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى

جمع کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا لیا ہے آپ بارگاہِ الہی میں ہمارے لئے فریاد کرنے والے ہیں

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفْضَلُ مَنْ

اے اللہ کے پیارے رسول آپ پر صلوٰۃ و سلام ہو آپ تمام نبیوں اور محمد

النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ فَجَبُّوا بِرَسُولِ صَاحِبِ الْمَنْبَرِ

صدیقوں سے افضل ہیں آپ ہمارے محبوب ہیں رسول ہیں صاحبِ منبر ہیں

خَطِيبُ رَحْمَةِ اللَّهِ الْمُسْتَعَاثُ إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى

اللہ کی رحمت کے خطیب ہیں آپ بارگاہِ الہی میں ہمارے لئے فریاد کرنے والے ہیں

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مُبَشِّرُ نَارِ سَوْدٍ

اے اللہ کے پیارے رسول آپ پر صلوة و سلام ہو آپ ہمیں بشارت دینے والے ہیں رسول

صَاحِبُ بَيْتِ عَامِرِ كَعْبَةَ اللَّهِ الْمُسْتَعَاثُ إِلَى

ہیں بیت اللہ کے صاحب ہیں اللہ کے کعبہ کو آباد کرنے والے ہیں آپ بارگاہِ الہی میں ہمارے لئے

حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

فریاد کرنے والے ہیں اے اللہ کے پیارے رسول آپ پر صلوة و سلام ہو

اَكْبَرُ نَارِ سَوْدٍ صَاحِبُ الْمِعْرَاجِ عَنِ اللَّهِ الْمُسْتَعَاثُ

آپ ہم سب سے بڑے ہیں رسول ہیں صاحبِ معراج ہیں عالم ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو معنی بنایا ہے آپ

إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ

بارگاہِ الہی میں ہمارے لئے فریاد کرنے والے ہیں اے اللہ کے پیارے رسول آپ پر صلوة و سلام

اللَّهُ نَبِيُّ آخِرِ الزَّمَانِ رَسُولُ صَاحِبِ الْجِهَادِ مُنْتَقِمٌ

ہو آپ نبی آخر الزمان ہیں رسول ہیں صاحبِ جہاد ہیں انتقام لینے والے ہیں

مُكْرَمٌ اللَّهُ الْمُسْتَعَاثُ إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةُ

اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکرم بنایا ہے آپ بارگاہِ الہی میں ہمارے لئے فریاد کرنے والے ہیں اے اللہ کے

وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَفِي الدِّينِ صَادِقُنَا

پیارے رسول آپ پر صلوة و سلام ہو آپ دین میں ہمارے سچے ہیں

رَسُولٌ صَاحِبُ الْقِيَامَةِ نَاطِقٌ شَفِيعُ اللَّهِ الْمُسْتَعَاثُ

رسول میں بزمِ محشر کے صدر ہیں سچ بولنے والے ہیں اللہ نے آپ کو شفیع بنایا ہے آپ

إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ

بارگاہِ الہی میں ہمارے لئے فریاد کرنے والے ہیں اے اللہ کے پیارے رسول آپ پر صلوة و سلام

اللَّهُ مُشْفَعُ الْأُمَّةِ يُعِينُنَا بِالشَّفَاعَةِ رَسُولٌ صَاحِبُ

جو امت کے لئے آپ کی شفاعت قبول ہے شفاعت کے ذریعہ آپ ہماری مدد فرمائے گئے ہیں رسول میں صلیب

النَّبُوَّةِ مُحَرَّمٌ نَبِيُّ اللَّهِ الْمُسْتَعَاثُ إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى

نبوت میں حرمت والے ہیں اللہ نے آپ کو نبی بنایا ہے آپ بارگاہِ الہی میں ہمارے لئے فریاد کرنے والے ہیں

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَنَبِيُّ الرَّحْمَةِ

اے اللہ کے پیارے رسول آپ پر صلوة و سلام ہو آپ نبی رحمت میں

سَابِقُنَا رَسُولٌ صَاحِبُ الدَّارَيْنِ حَرِيصٌ رَوْفٌ اللَّهُ

آپ ہم سے بہت سے جانے والے ہیں رسول ہیں موقبلان کے طور پر اپنی امت کی نجات کے لئے حرص میں اللہ تعالیٰ نے

الْمُسْتَعَاثُ إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ

آپ کو نجات مہمان بنایا ہے آپ بارگاہِ الہی میں ہمارے لئے فریاد کرنے والے ہیں اے اللہ کے پیارے رسول

يَا رَسُولَ اللَّهِ سَيِّدُ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ نَاهِ بَيْنَنَا رَسُولُ

آپ پر صلوة و سلام ہو آپ جن و انس کے آقا ہیں ہاتھوں سے روکنے والے ہیں تمہارے نبی ہیں رسول ہیں

صَاحِبِ النِّعْمَةِ هَاشِمِيٌّ كَرَامَةُ اللَّهِ الْمُسْتَعْتَابَاتُ إِلَى

ولی نعمت ہیں ہاشمی ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت و کرامت بخشی ہے آپ بارگاہِ انبی میں

حَضْرَةَ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

ہمارے لئے فریاد کرنے والے ہیں اے اللہ کے پیارے رسول آپ پر صلوة و سلام ہو

مُقَرَّبِينَ رَسُولُ إِلَى رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى مِائَةَ أَلْفِ أَلْفِ

آپ ہیں ہمارے سب قریب کرنے والے ہیں اللہ کی رحمت کی طرف بلانے کے لئے آپ مجھے گئے ہیں کروڑوں کروڑوں سلام

صَلَاةٍ وَسَلَامٍ عَلَى رَسُولِهِ الْمُصْطَفَى وَجِبِّيهِ الْمُجْتَبَى

ہوں اللہ کے رسول پر جو پُنا ہوا ہے اور اس کے حبیب پر جو برگزیدہ ہے

صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ ارْحَمُوا أَبَا بَكْرٍ النَّقِيُّ

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اے اللہ رحم فرما ابو بکر پر جو سچے تھے

وَعُمَرَ النَّقِيُّ وَعُثْمَانَ الزَّرِّيَّ وَعَلِيًّا الْوَفِيَّ أَسَدَ اللَّهِ

اور عمر پر جو پاک و سچے تھے اور عثمان پر جو منزه اور طاہر تھے اور علی پر جو وفادار تھے اللہ کے شیر اس کے

الْمُرْتَضَى وَفَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ وَخَدِيجَةَ الْكُبْرَى

رسول کے پسندیدہ تھے اور سیدہ فاطمہ زہراء پر اور خدیجہ الکبریٰ پر

وَعَالِشَةَ الصِّدِّيقَةِ الْعُلْيَا وَالْحَسَنَ الرَّضَا وَالْحُسَيْنَ

بلند شان والی عائشہ صدیقہ پر اور حسن پر جو بیکر تسلیم و رضا تھے اور حسین پر

الشَّهِيدَ الْمُجْتَبَى وَالشَّهَدَاءَ الْكَرْبَلَاءَ وَالسَّعْدَ وَالسَّعِيدَ

جو برگزیدہ شہید تھے اور تمام شہداء کربلا پر نیز سعد ، سعید ،

وَالطَّاحَةَ وَالزُّبَيْرَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَأَبَا عَبْدِ

طاحہ ، زبیر ، عبد الرحمن بن عوف اور ابو عبیدہ

بْنِ الْجَرَّاحِ الْعُشْرَةَ الْمُبَشِّرِينَ وَسَائِرَ الصَّحَابَةِ وَالتَّالِعِينَ

بن جراح پر جو عشرہ مبشرہ ہیں نیز تمام صحابہ اور تابعین پر

الْخُلَفَاءَ الرَّاشِدِينَ رِضْوَانُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ

نیز خلفاء راشدین پر ان سب کو اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہو

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدِي وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

اے اللہ! مجھے اور میرے ماں باپ کو بخش دے اور ان پر توں رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھ پر رحمت و

وَاعْفِرِ اللَّهُمَّ لِجَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ

شفقت کی تھی جب کہیں بھی ہوتا تھا اے اللہ! تمام مومن مردوں اور مومن عورتوں اور مسلمان مردوں

وَالْمُسْلِمَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

اور مسلمان عورتوں پر جو بھی زندہ ہیں اور جو وفات پا چکے ہیں سب کے گناہ بخش دے رحمتک یا ارحم الراحمین

بِحَاہِ جَنِّیْكَ وَصَفِیْكَ وَنَبِیْكَ مُحَمَّدٍ شَفِیْعِ

اپنے حبیب، اپنے برگزیدہ، اپنے نبی محمد کے طفیل جو شفیع

الْمُذْنِبِیْنَ اَللّٰهُمَّ وَّصَلِّ عَلَیْهِ وَعَلٰی اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ

مذنبین میں اے اللہ درود بھیج آپ پر اور آپ کی اولاد پر اور آپ کے اصحاب پر

وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

اور برکت نازل فرما اور سلام بھیج

نوٹ

دُرُودِ مُسْتَعَاثِ شَرِیْفِ كے ترجمہ کی سعادت اُس وقت نصیب ہوئی جب میں داراللمال السنائی کے اجتماع میں شرکت کے لئے جینوا گیا۔ ۱۹۔ ۲۰۔ اگست کو میننگ میں شرکت کی۔ دو دن مزید رگنا پڑا۔ پہلے دُرُودِ کبریٰ امر کا ترجمہ کیا۔ بعد ازاں دُرُودِ مُسْتَعَاثِ شَرِیْفِ كے ترجمہ کی توفیق آرزائی ہوئی۔ آج مورخہ ۲۲۔ اگست ۱۹۸۶ء کو پونے پانچ بجے شام اس ترجمہ سے فراغت ملی۔

الحمد لله على حسن توفيقه والصلوة والسلام على سيدنا ومولانا محمد
فاتح المغلفات كاشف البليات وعلى اٰله ربيع الدرجات واصحابه وذوى

الاحمال الصالحات

کرہ نمبر ۲۱۵، رحمانڈ ہوسٹل، جینوا، سویٹزرلینڈ

محمد کرم شاہ

هَذِهِ سِلْسِلَةٌ چَشْتِيَّةٌ بِبِهْشْتِيَّةٍ نِظَامِيَّةٌ

یہ سلسلہ ہے حضراتِ چشت اہل بہشت نظامیہ کا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت بخشنے والا ہمیشہ رحم فرماتا ہے

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ ۝ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِیْنَ

سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو رب العالمین ہے اور اچھا انجام متقوں کے لیے ہے

الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی رَسُوْلِهِ مُحَمَّدٍ وَاٰلِهِ

درود و سلام ہو اُس کے رسول پر جن کا اہم گرامی محمد ہے اور اُن کی تمام آل پر

اَجْمَعِیْنَ اَمَّا بَعْدُ فَهَذِهِ سِلْسِلَتِيْ مِنْ

اَمَّا بَعْدُ : یہ میرا سلسلہ ہے میرے

مَشَائِخِيْ فِيْ طَرِیْقَةِ الْچَشْتِيَّةِ رِضْوَانُ اللّٰهِ

مشاخ سے طریقہ چشتیہ میں راضی ہو اللہ

تَعَالٰی عَلَیْهِمْ اَجْمَعِیْنَ اِلٰهِيْ بِحُرْمَتِ سَيِّدِ

تعالیٰ اُن سب پر اے اللہ بحرمت سید الکونین

الْكُوْنِیْنَ وَرَسُوْلِ الثَّقَلِیْنَ حَضْرَتِ مُحَمَّدٍ

اور رسول الثقلین حضرت محمد

المُصْطَفَى صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِلَهِي

مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کے الہی

بِحُرْمَتِ بَابِ مَدِينَةِ الْعُلُومِ وَالْمَطَالِبِ إِمَامِ

بظہیل علوم و مطالب کے دروازہ کے

الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَإِمَامِ

مشارق و مغارب کے امام کے جو مومنوں کے امیر اور بہادروں

الْأَشْجَعِينَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ كَرَّمَ اللهُ تَعَالَى

کے پیشوا میں یعنی علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالیٰ

وَجْهَهُ الْإِلَهِي بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَارِقِ حَضْرَتِ

وجہ الہی بحرمت شیخ المشارق حضرت

خَوَاجَةِ أَبِي النَّصْرِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ رَضِيَ اللهُ

خواجہ ابوالنصر حسن بصری رضی اللہ

تَعَالَى عَنْهُ الْإِلَهِي بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَارِقِ

تعالیٰ عنہ کے الہی بحرمت شیخ المشارق

حَضْرَتِ خَوَاجَةِ أَبِي الْفَضْلِ عَبْدِ الْوَاحِدِ

حضرت خواجہ ابی الفضل عبد الواحد

ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ۛ الہی بحرمۃ

بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ الہی بحرمۃ

شیخ المشائخ حضرت خواجہ ابی الفیض

شیخ المشائخ حضرت خواجہ ابو الفیض

فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ الہی بحرمۃ

فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ الہی بحرمۃ

شیخ المشائخ امان الارض حضرت خواجہ

شیخ المشائخ زمین کے امن دینے والے حضرت خواجہ

سلطان ابراہیم ادھم البلخی رضی اللہ تعالیٰ

سلطان ابراہیم ادھم بلخی رضی اللہ تعالیٰ

عنہ ۛ الہی بحرمۃ شیخ المشائخ حضرت

عنہ الہی بحرمۃ شیخ المشائخ حضرت

خواجہ سدید الدین حدیفۃ المرعشی

خواجہ سدید الدین حدیفۃ المرعشی

رضی اللہ تعالیٰ عنہ الہی بحرمۃ شیخ المشائخ

رضی اللہ تعالیٰ عنہ الہی بحرمۃ شیخ المشائخ

حَضْرَتُ خَوَاجَهٗ اَمِيْنِ الدِّينِ اَبِيْ هُبَيْرَةَ البَصْرِيْ

حضرت خواجہ امین الدین ابو ہبیرہ البصری

رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ۞ اِلٰهِيْ بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَاحِيْخِ

رضی اللہ تعالیٰ عنہ ۞ الہی بحرمت شیخ المشایخ

حَضْرَتُ خَوَاجَهٗ مُمَشَادِ عَلُوْ دِيْنُوْرِيْ رَضِيَ اللهُ

حضرت خواجہ مشاد علو دینوری رضی اللہ

تَعَالَى عَنْهُ ۞ اِلٰهِيْ بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَاحِيْخِ سِرِّ سِلْسِلَتِهِ

تعالیٰ عنہ ۞ الہی بحرمت شیخ المشایخ سلسلہ چشتیہ کے

چِشْتِيَّانِ خَوَاجَهٗ خَوَاجِگانِ حَضْرَتُ خَوَاجَهٗ

امید خواجہ خواجگان حضرت خواجہ

اَبِيْ اِسْحٰقِ شَامِيْ چِشْتِيْ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ۞

ابو اسحاق شامی چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ

اِلٰهِيْ بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَاحِيْخِ قُدُوَّةِ الْحَقِّ وَالدِّينِ

الہی بحرمت شیخ المشایخ قدوة الحق والدین

حَضْرَتُ خَوَاجَهٗ اَبِيْ اَحْمَدَ بِنِ فَرْسَنَافَةَ

حضرت خواجہ ابو احمد بن فرسناذ

الچشتی رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ۝ إِلَهِي بِحُرْمَتِ

چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اِلهی بحُرْمَتِ

شَيْخِ الْمَشَائِخِ قُطْبِ الْحَقِّ وَالِدَيْنِ حَضْرَتِ

شیخ المشائخ قطب الحق والدین حضرت

خَوَاجَةِ أَبِي مُحَمَّدٍ بِنِ أَحْمَدَ چشتی رَضِيَ

خواجہ ابو محمد ابن احمد چشتی رضی

اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ۝ إِلَهِي بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ

اللہ تعالیٰ عنہ اِلهی بحُرْمَتِ شیخ المشائخ

حَضْرَتِ خَوَاجَةِ نَاصِرِ الْحَقِّ وَالِدَيْنِ ابْنِ يُوْسُفَ

حضرت خواجہ ناصر الحق والدین ابو یوسف

چشتی رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ۝ إِلَهِي بِحُرْمَتِ

چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اِلهی بحُرْمَتِ

شَيْخِ الْمَشَائِخِ حَضْرَتِ خَوَاجَةِ قُطْبِ الْحَقِّ وَ

شیخ المشائخ حضرت خواجہ قطب الحق

الدَّيْنِ مَوْدُودِ چشتی رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ

والدین مودود چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ

إِلَهِي بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ حَضْرَتِ خَوَاجَهٗ

إلهی بحرمت شیخ المشایخ حضرت خواجہ

مُحَمَّدٌ وَمَحَاجِي شَرِيفِ زَنْدَانِي رَضِيَ اللهُ تَعَالَى

محمدوم حاجی شریف زندانی رضی اللہ تعالیٰ

عَنْهُ هِ الْإِلَهِي بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ مُقْتَدَاءِ

عنه إلهی بحرمت شیخ المشایخ مقتدائے

أَهْلِ عِرْفَانِ حَضْرَتِ خَوَاجَهٗ عَثْمَانَ هِرَوَنِي رَضِيَ

اہل عرفان حضرت خواجہ عثمان ہرونی رضی

اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ هِ الْإِلَهِي بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ

اللہ تعالیٰ عنه إلهی بحرمت شیخ المشایخ

قُطْبِ الْعَارِفِينَ سَنَدِ الْمُؤَحِّدِينَ حَضْرَتِ

قطب العارفين سند الموحدين حضرت

خَوَاجَهٗ بَزْرُكَ مَعِينِ الْحَقِّ وَالِدَيْنِ حَسَنِ

خواجہ بزرگ معین الحق والدین حسن

سَنْجَرِي ثَوْرًا جَمِيرِي رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ هِ الْإِلَهِي

سنجری ثوراً جمیری رضی اللہ تعالیٰ عنه إلهی

بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَايِخِ بُرْهَانَ چَشْتِيَانِ

بحرمت شیخ المشایخ برهان چشتیان

شَهِيدِ الْمُحِبَّةِ حَضْرَتِ خَوَاجَةِ قُطْبِ الْحَقِّ

شہید محبت حضرت خواجہ قطب الحق

وَالَّذِينَ بِمُخْتَارِ أَوْشِي كَاكِي رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ

والذین بمختیار اوشی کاکای رضی اللہ تعالیٰ عنہ

إِلَهِي بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَايِخِ حَرِيقِ الْمُحِبَّةِ إِمَامِ

إلهی بحرمت شیخ المشایخ سوخته محبت عارفین

الْعَارِفِينَ سُلْطَانَ الزَّاهِدِينَ حَضْرَتِ

کے امام زاہدوں کے بادشاہ حضرت

خَوَاجَةِ فَرِيدِ الْحَقِّ وَالَّذِينَ مَسْعُودِ كَنْجِ شَكْرِ

خواجہ فرید الحق والذین مسعود کنج شکر

الْأَجُودِ هُنِي رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ هُ الْإِلَهِي

الاجود صنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہ الہی

بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَايِخِ سُلْطَانَ الْعَاشِقِينَ

بحرمت شیخ المشایخ عاشقوں کے سلطان

سَيِّدِ الْمُجُوبِينَ مُجُوبِ الْإِلَهِيِّ حَضْرَتِ خَوَاجَةِ

محبوبوں کے سردار محبوبِ الہی حضرت خواجہ

نِظَامِ الْحَقِّ وَالِدَيْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدُ بَدَاوَنِي

نظام الحق والدین محمد بن احمد بداونی

بُخَارِي رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ هُوَ الْإِلَهِيُّ بِحَرَمَتِ

بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ الہی بحرمت

شَيْخِ الْمَشَاحِجِ مُسْتَعْرِقِ بَحْرِ شُهُودِ شَمْسِ الْعَارِفِينَ

شیخ المشاحج جو شہود کے سمندر میں غرق ہیں عارفوں کے آفتاب ہیں

حَضْرَتِ خَوَاجَةِ نَصِيرِ الْحَقِّ وَالِدَيْنِ مُحَمَّدِ

حضرت خواجہ نصیر الحق والدین محمد

چَرَاغِ دِهْلَوِيِّ أَوْ دِهِي حِشْتِي رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى

چراغِ دہلوی اودھی چشتی رضی اللہ تعالیٰ

عَنْهُ هُوَ الْإِلَهِيُّ بِحَرَمَتِ شَيْخِ الْمَشَاحِجِ حَضْرَتِ

عنه الہی بحرمت شیخ المشاحج حضرت

خَوَاجَةِ شَيْخِ كَمَالِ الْحَقِّ وَالِدَيْنِ الْمَشْهُورِ بَعْلَامَةِ

خواجہ شیخ کمال الحق والدین جو علامہ کے لقب سے مشہور ہیں

رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ هِ الْهِيْ بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ

رضى الله تعالى عنه إلى بحرمت شيخ المشايخ

حَضْرَتْ خَوَاجَهْ شَيْخِ سِرَاجِ الْحَقِّ وَالذِّينِ رَضِيَ

حضرت خواجه شيخ سراج الحق والدين رضى

اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ هِ الْهِيْ بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ

الله تعالى عنه إلى بحرمت شيخ المشايخ

حَضْرَتْ خَوَاجَهْ شَيْخِ عِلْمِ الْحَقِّ وَالذِّينِ رَضِيَ اللهُ

حضرت خواجه شيخ علم الحق والدين رضى الله

تَعَالَى عَنْهُ هِ الْهِيْ بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ حَضْرَتْ

تعالى عنه إلى بحرمت شيخ المشايخ حضرت

خَوَاجَهْ شَيْخِ مُحَمَّدِ بَعْرِفِ شَيْخِ رَاجِنِ رَضِيَ

خواجه شيخ محمود عرف شيخ راجن رضى

اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ هِ الْهِيْ بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ

الله تعالى عنه إلى بحرمت شيخ المشايخ

حَضْرَتْ خَوَاجَهْ شَيْخِ جَمَالِ الْحَقِّ وَالذِّينِ بَعْرِفِ

حضرت خواجه شيخ جمال الحق والدين عرف

شیخ جمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ۱۱ الہی بجرمت

شیخ جمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ الہی بجرمت

شیخ المشائخ قطب الاولیاء شیخ الاتقیاء

شیخ المشائخ اولیاء کے قطب پرہیزگاروں کے شیخ

حضرت خواجہ شیخ حسن محمد رضی اللہ

حضرت خواجہ شیخ حسن محمد رضی اللہ

تعالیٰ عنہ ۱۱ الہی بجرمت شیخ المشائخ مظہر

تعالیٰ عنہ الہی بجرمت شیخ المشائخ مظہر اللہ

اللہ التاقر الصمد حضرت خواجہ شیخ

اللہ تعالیٰ الصمد کے مظہر کامل حضرت خواجہ شیخ

محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ۱۱ الہی بجرمت

محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ الہی بجرمت

شیخ المشائخ فرد الحقیقۃ قطب المدینۃ

شیخ المشائخ حقیقت کے یگانہ مدینہ منورہ کے قطب

الشریفۃ حضرت خواجہ محمد مدنی رضی اللہ

حضرت خواجہ محمد مدنی رضی اللہ

تَعَالَى عَنْهُ هُ الْهِى بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ الْمُتَخَلِّقِ

تعالیٰ عنہ الہی بحرمت شیخ المشائخ جو اخلاق الہی

بِأَخْلَاقِ اللَّهِ وَالْمُتَّصِفِ بِأَوْصَافِ اللَّهِ فَإِنِ

سے متخلق ہیں اور اوصاف الہی سے متصف ہیں فانہ

فِي اللَّهِ بَاقِيٌ بِاللَّهِ حَضْرَتُ خَوَاجَةِ شَيْخِ كَلِيمِ اللَّهِ

فی اللہ باقی باللہ حضرت خواجہ شیخ کلیم اللہ

جَهَانَ أَبَادِي رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ هُ الْهِى

جہان آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ الہی

بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ سِرَاجِ الْوَاصِلِينَ وَفَخْرِ

بحرمت شیخ المشائخ واصلین کے چراغ عاشقوں

الْعَاشِقِينَ حَضْرَتُ خَوَاجَةِ شَيْخِ نِظَامِ الْحَقِّ

کے فخر حضرت خواجہ شیخ نظام الحق

وَالدِّينِ أَوْرَنْكَ أَبَادِي رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ هُ

والدین اورنگ آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ

الهِى بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ فَخْرِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ

الہی بحرمت شیخ المشائخ اولین و آخرین کے فخر

مُحِبِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَضَرَتْ خَوَاجَهُ شَيْخُ

نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عاشق صادق حضرت خواجہ شیخ

فَخِرَ الْحَقُّ وَالذِّينِ مُحَمَّدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ه

فخر الحق والذین محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ

إِلَهِي بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ قُدْوَةِ السَّالِكِينَ

الہی بحرمت شیخ المشائخ ساکلوں کے برگزیدہ

شَمْسِ الْعَارِفِينَ غَرِيبِ نَوَازِ حَضَرَتْ خَوَاجَهُ

عارفوں کے آفتاب غریب نواز حضرت خواجہ

شَيْخِ نَوْرِ مُحَمَّدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ه إِلَهِي

شیخ نور محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ الہی

بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ سُلْطَانِ الْعَاشِقِينَ

بحرمت شیخ المشائخ عاشقوں کے بادشاہ

بُرْهَانَ الْمُعْشُوقِينَ خَوَاجَهُ خَوَاجِگَانِ

مہربوں کی برہان خواجہ خواجگان

الْقَائِمِ مَقَامَ الْعُبُودِيَّةِ قُطْبِ الزَّمَانِ حَضَرَتْ

جو عبودیت کے مقام پر قائم ہیں زمانہ کے قطب ہیں حضرت

خَوَاجَهُ شَيْخُ مُحَمَّدٍ سَلِيمَانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ

خواجہ شیخ محمد سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ

إِلَهِي بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَاحِجِ عَلِمِ الْحَقِّ وَالذِّينِ

إلہی بحرمت شیخ المشاحج علم الحق والذین

شَمْسِ الْعَارِفِينَ وَالْعَاشِقِينَ مَحْبُوبِ رَبِّ

عارفوں اور عاشقوں کے آفتاب رب العالمین

الْعَالَمِينَ كَامِلٍ وَمُكْتَمِلٍ حَضْرَتِ خَوَاجِهِ

کے محبوب خود کامل اور دوسروں کو مکمل کرنے والے حضرت خواجہ

شَيْخِ شَمْسِ الدِّينِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ هُ الْإِلَهِي

شیخ شمس الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ الہی

بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَاحِجِ قُطْبِ الْأَقْطَابِ فَرْدٍ

بحرمت شیخ المشاحج قطبوں کے قطب یکاۃ

الْأَحْبَابِ زُبْدَةِ الْعَارِفِينَ قُدْوَةِ السَّالِكِينَ

اجباب عارفوں کے خلاصہ سالکوں کے برگزیدہ

مُسْتَفْرَقٍ بِحَارِ الْمَعْرِفَةِ وَالْيَقِينِ حَضْرَتِ خَوَاجِهِ

معرفت و یقین کے سمندروں میں مستغرق حضرت خواجہ

شَيْخُ مُحَمَّدِ الدِّينِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ هُ الْهِى

شیخ محمد الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ الہی

بِحُرْمَتِ قَامِعِ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ وَالْبُدْعَةِ أَمِيرِ

بحرمت کفر، شرک اور بدعت کی بیخ کنی کرنے والے اللہ تعالیٰ

الْمُجَاهِدِينَ الْأَشْجَعِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ شَيْخِ

کی راہ میں مجاہدوں، بہادروں کے امیر شیخ المشائخ

الْمَشَائِخِ حَضْرَتِ خَوَاجَةِ مُحَمَّدِ ضِيَاءِ الدِّينِ

حضرت خواجہ محمد ضیاء الدین

رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ هُ الْهِى بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ

رضی اللہ تعالیٰ عنہ الہی بحرمت شیخ الاسلام

وَالْمُسْلِمِينَ قَائِدِ الْعُلَمَاءِ الرَّبَّانِيِّينَ عَارِفِ

والمسلمین علماء ربانیتین کے قائد شریعت و

أَسْرَارِ الشَّرِيعَةِ وَالطَّرِيقَةِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ حَضْرَتِ

طریقت کے اسرار کے عارف شیخ المشائخ حضرت

خَوَاجَةِ مُحَمَّدِ قَمَرِ الدِّينِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ هُ

خواجہ محمد قمر الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ

اللّٰهُ بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ اَمِيرِ الصّٰبِرِيْنَ

وَالصّٰبِيْنَ مَحَبِّ الْغُرَبَاءِ وَالْمَسٰكِيْنَ الْحَرِيْقِ

الْغَرِيْقِ فِيْ حُبِّ اللّٰهِ حَضْرَتْ خَوَاجَهْ پِيْر اَمِيْر شَاه

الْقُرَيْشِيّ الْهَاشِمِيّ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ هُ الْاِلهِي

بِحُرْمَتِ الْعَارِفِ الرَّبّٰنِيّ الزّٰهِدِ الْعَابِدِ الْمَجَاهِدِ

فِي الْجِهَادِ الْاَصْغَرِ وَالْاَكْبَرِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ حَضْرَتْ

پِيْر مُحَمَّدُ شَاه الْقُرَيْشِيّ الْهَاشِمِيّ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ

الّٰهُ بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ عَارِفِ الْاَسْرَارِ الْاَلُوْهِيَّةِ

مُظَهَّرِ الْكِمٰلَاتِ الْمُحَمَّدِيَّةِ حَامِلِ الْحَقَائِقِ الْقُرْآنِيَّةِ

غَوْثِ الْحَقِيْقَةِ مُجَدِّدِ الشَّرِيْعَةِ وَالطَّرِيْقَةِ ضِيَاءِ الْاُمَّةِ

حَضْرَتْ پِيْر مُحَمَّدُ كَرَمُ شَاه الْقُرَيْشِيّ الْهَاشِمِيّ

رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ

نوٹ۔ ہر شخص یہاں اپنے شیخ طریقت کا نام لے کر اس سلسلہ کا عقیدہ کرے۔

سلسلہ چشتیہ نظامیہ سیالویہ اردو

اے خداوند! تو ذاتِ کبریا کے واسطے
 رحم کر مجھ پر محمد مصطفیٰ کے واسطے
 میں بواہوں سخت زار، اس بندِ محنت میں لیسیر
 کھول دے مشکلِ علی مشکلِ کشاکش کے واسطے
 خواجہ بصری حسن کا نام لآتا ہوں شفیع
 شیخ عبد الواحد اہل بقا کے واسطے
 فضل کر مجھ پر طفیلِ خواجہ ابن عیاض
 شاہ ابراہیم بلخی بادشاہ کے واسطے
 حضرت خواجہ خذیفہ کے لئے تکرم کر
 پھر بیوا بصری صاحب ہدیٰ کے واسطے
 خواجہ نمشا کی غلط مراد لاشاد کر
 شیخ ابوسحاق قطبِ چشتیہ کے واسطے
 خواجہ ابدال احمد بومحمد مقدمے
 خواجہ ابویوسف صاحب صفا کے واسطے
 خواجہ مودود وحی اور خواجہ حاجی شریف
 خواجہ عثمان اہلِ اقامت دار کے واسطے
 والی بند و ستاں خواجہ معین الدین حسن
 شیخ قطب الدین قطبِ اَلتقیات کے واسطے
 کام کر شیریں طفیلِ خواجہ گنج شکر
 اور نظم الدین محبوب اولیاء کے واسطے

دل کو روشن کر طفیل شاہ نصیر الدین چراغ
 اور کمال الدین کمال اصفیاء کے واسطے
 دور کر ظلمت سراچ دین و دُنیا کے طفیل
 اور علم الحق و دین علم الصدق کے واسطے
 حضرت محمود راجن سرور دُنیا و دین
 اور جمال الدین جمن صاحب صفا کے واسطے
 شیخ نضن اور خواجہ شیخ محمد کی کطفیل
 حضرت تھکے مدنی مہتدے کے واسطے
 فضل کر مجھ پر طفیل شاہ کلیم اللہ ولی
 اور نظام الدین مقبول خدا کے واسطے
 دین و دُنیا کا وسیلہ پر عالم فہم الدین
 خواجہ نور محمد ربنا کے واسطے
 حضرت خواجہ شلیماں دو جہاں کے دستگیر
 قبلہ حاجات و کعبتہ مدعا کے واسطے
 کرم کر مجھ پر طفیل خواجہ عالی جناب
 شیخ شمس الدین شمس چشتیا کے واسطے
 صفدر سیدان ولایت شیخ شمس الدین سیال
 مہتدے چشتیاں بھر صفا کے واسطے
 شہتہ حقیق الہی شمع بزم اصفیاء
 شاہ امیر بے ربا و با صفا کے واسطے
 جس کے دل کو تونے اپنے نور سے روشن کیا
 بخش ہے میرے گناہ اس کے لئے کے واسطے
 بیلی باغ رسالت، قالہ لہ لار شوق
 شاہ محمد شاہ نجم اہستہ کے واسطے
 حضرت شاہ کرم محبوب مولا و رسول
 دین و ملت کی خدایتے دلربا کے واسطے
 غوثیت اکون اور تجدید میں سے فیض یاب
 استقامت کے اسی کو بقا کے واسطے
 بخش ہے اپنی محبت اور قطع کر دے ماسوا
 برکت پیدان شہرہ چشتیا کے واسطے

هَذِهِ سُلْسِلَةٌ قَادِرِيَّةٌ

یہ سلسلہ حضراتِ قادریہ کا ہے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بخشنے والا مہربان ہے

إِلٰهِیْ بِحُرْمَتِ اَمِیْرِ الْمُؤْمِنِیْنَ حُسَیْنِ شَهِیْدِ

اے اللہ بہ طفیل سردارِ مومنوں کے حسین شہیدِ کربلا کے

رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ ؕ اِلٰهِیْ بِحُرْمَتِ زَیْنِ

راضی ہو اللہ تعالیٰ اُن سے یا اِلهیٰ بہ طفیل زین العابدین

الْعَابِدِیْنَ رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ ؕ اِلٰهِیْ بِحُرْمَتِ

راضی ہو اللہ تعالیٰ اُن سے اے اللہ بہ طفیل

اِمَامِ مُحَمَّدِ الْبَاقِرِ رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ ؕ اِلٰهِیْ

اِمام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یا اللہ

بِحَقِّ اِمَامِ جَعْفَرِ الصّٰدِقِ رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی

بہ طفیل اِمام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ

عَنْهُ ؕ اِلٰهِیْ بِحُرْمَتِ اِمَامِ مُوسٰی الْکَاطِمِ رَضِیَ

عنہ کے یا اللہ بہ طفیل اِمام موسیٰ کاظم رضی

اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ هُ الْإِلهِي بِحُرْمَتِ عَلِيٍّ مُوسَى رِضَاءِ

اللہ تعالیٰ عنہ کے یا اللہ بہ طفیل علی موسیٰ رضا

رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ هُ الْإِلهِي بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَاحِجِ

رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یا اللہ بہ طفیل بزرگ بزرگوں کے

شَيْخِ مَعْرُوفِ الْكَرْمَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ هُ الْإِلهِي

شیخ معرون کرمنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یا اللہ

بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَاحِجِ شَيْخِ أَبُو الْحَسَنِ سَرِيِّ سَقَطِي

بہ طفیل بزرگ بزرگوں کے شیخ ابوالحسن سری سقطی

رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ هُ الْإِلهِي بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَاحِجِ

رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آے اللہ بہ طفیل بزرگ بزرگوں کے

الْأَعْظَمِ حَضْرَتِ شَيْخِ جُنَيْدِ الْبَغْدَادِيِّ رَضِيَ

بڑے حضرت شیخ جنید بغدادی رضی

اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ هُ الْإِلهِي بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَاحِجِ شَيْخِ أَبِي

اللہ تعالیٰ عنہ کے یا اللہ بہ حرمت شیخ بزرگوں کے ابو

بَكْرِ مُحَمَّدِ شَيْبَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ هُ الْإِلهِي بِحُرْمَتِ شَيْخِ

بکر محمد شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آے اللہ بہ طفیل بزرگ

المَشَائِخِ شَيْخِ أَبِي الْفَضْلِ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ

بزرگوں کے شیخ ابو الفضل عبد الواحد بن عبد العزیز

رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ۝ إِلَهِي بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ

رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اے اللہ بہ طفیل بزرگ بزرگوں کے

شَيْخِ أَبِي الْفَرَجِ طَرُوسِي رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ۝ إِلَهِي

شیخ ابو الفرج طروسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اے اللہ

بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ شَيْخِ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ الْهَنْكَارِيِّ

بہ طفیل بزرگ بزرگوں کے شیخ ابو الحسن علی ہنکار کے رہنے والے

رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ۝ إِلَهِي بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ شَيْخِ

راضی ہو اللہ تعالیٰ اُن سے یا اللہ بہ طفیل بزرگ بزرگوں کے شیخ

أَبِي سَعِيدٍ عَلِيِّ الْمُبَارَكِ الْخَزَوْمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ۝

ابی سعید علی مبارک مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے

إِلَهِي بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ خَضْرَتْ شَيْخِ قُطَيْبِ بْنِ

یا اللہ بہ طفیل بزرگ بزرگوں کے حضرت شیخ مقبول اللہ تعالیٰ کے

عَوْتِ صَدَّائِي مُجُوبِ سُبْحَانِي سُلْطَانِ سَيِّدِ عَبْدِ الْقَادِرِ

مُجُوبِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بادشاہ سید عبد القادر

جِيلَانِي رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ هُوَ إِلَهِي بِحُرْمَتِ شَيْخِي

جیلانی راضی ہو اللہ تعالیٰ اُن سے یا اللہ بہ طفیل بزرگ

الْمَشَاحِجِ شَيْخِ ضِيَاءِ أَبِي النَّجِيبِ عَبْدِ الْقَاهِرِ سُهْرَوَرْدِيِّ

بزرگوں کے روشنی دین کے شیخ ابی النجیب عبدالقاہر سُہروردی

رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ هُوَ إِلَهِي بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَاحِجِ

راضی ہو اللہ تعالیٰ اُن سے یا اللہ بہ طفیل بزرگ بزرگوں کے

شَيْخِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرِ الْأَنْدَلُسِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ

شیخ عمار بن یاسر اُندلسی راضی ہو اللہ تعالیٰ اُن سے

إِلَهِي بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَاحِجِ شَيْخِ بَنِي النَّجْمِ الدِّينِ كَبْرِيِّ

اے اللہ بہ طفیل بزرگ بزرگوں کے شیخ بنم الدین کبرئے

رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ هُوَ إِلَهِي بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَاحِجِ

رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یا اللہ بہ طفیل بزرگ بزرگوں کے

شَيْخِ مُحَمَّدِ الدِّينِ بَغْدَادِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ هُوَ إِلَهِي

شیخ محمد الدین بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یا اللہ

بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَاحِجِ شَيْخِ الدِّينِ الْمَعْرُوفِ

بہ طفیل بزرگ بزرگوں کے شیخ رضی الدین معروف

بِعَلَىٰ لَا أَرْضَىٰ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ ۗ إِلَهِي بِحُرْمَتِ

ساتھ علیؑ کے راضی ہو اللہ تعالیٰ اُن سے یا اللہ بہ طفیل

شَيْخِ الْمَشَاحِجِ شَيْخِ نُورِ الدِّينِ الْمَعْرُوفِ بِالْكِبْرَةِ

بزرگ بزرگوں کے شیخ نور الدین مشہور ساتھ کبرئے کے

رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ ۗ إِلَهِي بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَاحِجِ

راضی ہو اللہ تعالیٰ اُن سے یا اللہ بہ طفیل بزرگ بزرگوں کے

شَيْخِ عَلَاءِ الدَّوْلَةِ سَمْنَانِي رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ ۗ

شیخ علاؤ الدولہ سمنانی کے راضی ہو اللہ تعالیٰ اُن سے

إِلَهِي بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَاحِجِ شَيْخِ مُحَمَّدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ

آے اللہ بہ طفیل بزرگ بزرگوں کے شیخ محمود کے راضی ہو اللہ تعالیٰ

عَنْهُ ۗ إِلَهِي بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَاحِجِ قُطْبِ الْأَقْطَابِ عَلِيٍّ

اُن سے آے اللہ بہ طفیل بزرگ بزرگوں کے قطب قطبوں کے علی

إِلَهْمْدَانِي رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ ۗ إِلَهِي بِحُرْمَتِ شَيْخِ

ہمدانی کے راضی ہو اللہ تعالیٰ اُن سے یا اللہ بہ طفیل بزرگ

الْمَشَاحِجِ شَيْخِ إِسْحَاقَ خَتَلَانِي الْحُسَيْنِي رَضِيَ اللَّهُ

بزرگوں کے شیخ اسحاق ختلانی حسینی کے راضی ہو اللہ

تَعَالَى عَنْهُ هُ الْهَى بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَاحِجِ شَيْخِ سَيِّدِ

تعالیٰ ان سے یا اللہ بظیفیل بزرگ بزرگوں کے شیخ سردار

السَّادَاتِ سَيِّدِ مُحَمَّدٍ نُورِ بَخْشِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى

سرداروں کے سید محمود نور بخش کے راضی ہو اللہ تعالیٰ

عَنْهُ هُ الْهَى بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَاحِجِ حَضْرَتِ

اُن سے اے اللہ بظیفیل بزرگ بزرگوں کے حضرت

شَيْخِ مُحَمَّدِ غِيَاثِ نُورِ بَخْشِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ

شیخ محمد غیاث نور بخش کے راضی ہو اللہ تعالیٰ اُن سے

الْهَى بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَاحِجِ حَضْرَتِ شَيْخِ مَطْهَرِ

یا اللہ بہ ظیفیل بزرگ بزرگوں کے حضرت شیخ جگدھار ہونے انوار

الضَّمَدِ حَضْرَتِ شَيْخِ مُحَمَّدِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ

اللہ کے حضرت شیخ محمد راضی ہو اللہ تعالیٰ اُن سے

الْهَى بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَاحِجِ فَرْدِ الْحَقِيقَةِ

یا اللہ بظیفیل بزرگ بزرگوں کے یگانے حقیقت کے

قُطْبِ الْمَدِيْنَةِ الشَّرِيفِ حَيْ مَدَنِي رَضِيَ

قطب مدینہ شریف کے تیجئے مدنی کے راضی ہو

اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ هُوَ إِلَهِي بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَاحِبِ فَإِنِّي

اللہ تعالیٰ اُن سے اے اللہ بظہیل بزرگ بزرگوں کے فانی

فِي اللَّهِ حَضْرَتُ شَيْخِ كَلِيمِ اللَّهِ جَهَانَ أَبَادِي

یہاں سے اللہ تعالیٰ کے حضرت شیخ کلیم اللہ جہان آبادی

رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ هُوَ إِلَهِي بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَاحِبِ

راضی ہو اللہ تعالیٰ اُن سے یا اللہ بظہیل بزرگ بزرگوں کے

سِرَاجِ الْوَأَصْلِينَ فَخِرِ الْعَاشِقِينَ حَضْرَتُ

چراغ واصلوں کے فخر عاشقوں کے حضرت

شَيْخِ نِظَامِ الدِّينِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ هُوَ إِلَهِي

شیخ نظام الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اے اللہ

بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَاحِبِ فَخِرِ الْأَوْلِيَاءِ وَالْآخِرِينَ

بظہیل بزرگ بزرگوں کے فخر پہلوں اور پچھلوں کے

مُحِبِّ النَّبِيِّ حَضْرَتُ فَخْرِ الْحَقِّ وَالِدِ الدِّينِ مُحَمَّدُ

دوستدار نبی صاحب کے حضرت فخر حق اور دین کے محمد

أَوْرَنُكَ أَبَادِي رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ هُوَ إِلَهِي

اورنگ آبادی رضی اللہ تعالیٰ ان سے اے اللہ

بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ مَحَبِّ الْعَاشِقِينَ مَجْبُوبٍ

بہ طیفیل بزرگ بزرگوں کے دوستدار عاشقوں کے محبوب

الْمُعْشُوقِينَ مَظْهَرِ اللَّهِ الْإِحْدِ حَضْرَتِ خَوَاجَهٗ

معشوقوں کے جگہ ظاہر ہونے انوار اللہ تعالیٰ کے حضرت خواجہ

صَاحِبِ خَوَاجَهٗ نُورِ مُحَمَّدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ۝

صاحب خواجہ نور محمد کے راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے

إِلَهِي بِحُرْمَتِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ سُلْطَانِ الْعَاشِقِينَ

اے اللہ پطیفیل بزرگ بزرگوں کے بادشاہ عاشقوں کے

بُرْهَانَ الْمُعْشُوقِينَ الْقَائِمِ مَقَامِ الْعُبُودِيَّةِ

دلیل معشوقوں کے قائم مقام عبودیت کے

قُطْبِ الزَّمَانِ خَوَاجَهٗ خَوَاجِكَانِ حَضْرَتِ

قطب زمانہ کے بزرگ بزرگوں کے حضرت

مُحَمَّدِ سُلَيْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ۝ إِلَهِي

محمد سلیمان کے راضی ہو اللہ تعالیٰ ان سے اے اللہ

بِحُرْمَتِ شَمْسِ الْفَلَكَ وَالْمَلَّةِ وَالذِّينِ حَضْرَتِ

بہ طیفیل آفتاب آسمان کے اور مذہب اور دین کے حضرت

شَيْخِ شَمْسِ الدِّينِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
 إِلَهِي بِحُرْمَةِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ قُطْبِ الْأَقْطَابِ فَرْدِ
 الْأَجَابِ زُبْدَةِ الْعَارِفِينَ قُدْوَةِ السَّالِكِينَ مُسْتَعْرِقِ بَحَارِ
 الْمَعْرِفَةِ وَالْيَقِينِ حَضْرَتِ خَوَاجَةِ مُحَمَّدِ دِينِ رَضِيَ
 اللهُ تَعَالَى عَنْهُ إِلَهِي بِحُرْمَةِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ رَئِيسِ
 الْمُجَاهِدِينَ سَنَدِ السَّالِكِينَ بُرْهَانَ الصِّدْقِ وَالْيَقِينِ حَضْرَتِ
 خَوَاجَةِ مُحَمَّدِ ضِيَاءِ الدِّينِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ إِلَهِي بِحُرْمَةِ
 شَيْخِ الْمَشَائِخِ شَيْخِ الْأَكْثَامِ وَالْمُسْلِمِينَ حَارِفِ أَسْرَارِ الشَّرِيعَةِ وَ
 الطَّرِيقَةِ وَالْحَقِيقَةِ سَيِّدِنَا الشَّيْخِ خَوَاجَةِ مُحَمَّدِ قَمَرِ الدِّينِ رَضِيَ اللهُ
 تَعَالَى عَنْهُ إِلَهِي بِحُرْمَةِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ أَمِيرِ الصَّابِرِينَ وَالصَّائِمِينَ مُحَمَّدِ
 الْعَرَبَاءِ وَالْمَسَالِكِينَ الْحَرِيِّ الْعَرَقِيِّ فِي حُبِّ اللهِ حَضْرَتِ خَوَاجَةِ پِيرِ أَمِيرِ شَرْفِ
 عَلَيْنِ إِلَهِي بِحُرْمَةِ شَيْخِ الْمَشَائِخِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ مُحَمَّدِ وَرَسُولِهِ
 زُبْدَةِ السَّالِكِينَ حَضْرَتِ خَوَاجَةِ الْعَاقِلِ پِيرِ مُحَمَّدِ سَالَةِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ

مختصر سوانح حیات مشائخ چشت اہل بہشت

خواجہ خواجگان شیخ المشائخ حضرت خواجہ سید محمد بن الدین چشتی اجیری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ طریقت سولہ واسطوں سے حبیب رب العالمین رحمۃ اللعالمین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ ان کے بعد امیر المؤمنین امام الاولیاء حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ (سال وفات ۴۰ھ) سے ہوتا ہے خواجہ حضرت خواجہ خواجگان کے پیرو مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ تک اس طرح پہنچتا ہے۔

- ۲۔ نائب علی المرتضیٰ حضرت خواجہ ابو محمد حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ
- ۳۔ سید الکاملین حضرت خواجہ عبدالواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ
- ۴۔ قدوة الاولیاء حضرت خواجہ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ
- ۵۔ سلطان الاولیاء حضرت خواجہ ابراہیم بن ادوم رحمۃ اللہ علیہ
- ۶۔ بزم ان الکاملین حضرت خواجہ سعید الدین حدیف مرعشی رحمۃ اللہ علیہ
- ۷۔ افتخار الابرار حضرت خواجہ امین الدین ابو سعید البصری رحمۃ اللہ علیہ
- ۸۔ زبدۃ السالکین حضرت خواجہ مشاد علو الدینوری رحمۃ اللہ علیہ
- ۹۔ رہنماج العارفین سلسلہ چشتیہ حضرت خواجہ ابواسحاق شامی رحمۃ اللہ علیہ
- ۱۰۔ قدوة الاحرار حضرت خواجہ قدوة الدین ابواسحاق ابدال چشتی رحمۃ اللہ علیہ
- ۱۱۔ سلوک السالکین حضرت خواجہ نایب الدین ابو محمد چشتی رحمۃ اللہ علیہ
- ۱۲۔ شیخ المشائخ حضرت ناصر الحق الدین حضرت ابولیسف چشتی رحمۃ اللہ علیہ
- ۱۳۔ زبدۃ الاصغیاء حضرت خواجہ قلب الدین مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ
- ۱۴۔ سلطان الکاملین حضرت خواجہ حاجی شریف زین الدین رحمۃ اللہ علیہ
- ۱۵۔ قدوة الاولیاء حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ

سال وصال ۱۱۱۱ ہجری

۱۷۷
۱۸۷
۲۶۵
۲۷۶
۲۸۷
۲۹۸
۳۲۹
۳۵۵
۳۱۱
۳۵۹
۵۲۷
۶۱۲
۶۱۷

حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین حشتی رحمۃ اللہ علیہ تھے جن سے شمس العارفین حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ سترہ واسطوں سے مل جاتا ہے۔ حضرت خواجہ خواجگان سے حضرت شمس العارفین تک مشائخ چشت اہل بہشت کے منقصر حالات درج ذیل ہیں۔

۱۔ خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین حشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ

والد ماجد کا اسم گرامی غیاث الدین ۵۳۴ھ میں ایران کے علاقہ سیستان میں پیدا ہوئے۔ سلسلہ نسب گیارہ واسطوں سے سید الشہداء حضرت اہم حسین رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے۔ پندرہ سال کے تھے کہ والد ماجد نے انتقال فرمایا۔

بخارا تشریف لے گئے جہاں آپ نے حفظ قرآن اور علوم ظاہری کی تعلیم حاصل کی۔ تعلیم سے فرغت کے بعد عراق تشریف لے گئے جہاں حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے۔ بیس سال مرشد کامل کی خدمت میں رہے۔ پھر مدینہ تشریف حاضر ہوئے۔ جہاں ایک روز روضۃ الطہر سے آواز آئی۔ کہ ہندوستان کی ولایت تھمد سے پردے اجمیر جاؤ اور وہاں اپنا مسکن بناؤ۔ چنانچہ ۱۔ محرم الحرام ۵۶۱ھ کو اجمیر میں رونق افروز ہوئے۔

آپ کا وصال سلطان اتمش کے دور میں ۶۔ جب ۳۳۷ھ کو ہوا۔ عمر مبارک ۹۷ برس تھی جس روز وصال ہوا اس شب اکثر اہل اللہ نے خواب میں دیکھا کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مع اصحاب تشریف لائے ہیں اور فرماتے ہیں۔ خدا کا دوست معین الدین دنیا سے آتا ہے اس کا استقبال ضروری ہے۔

۲۔ قطب القابض تاج قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ

۵۸۲ھ میں ماوراء النہر کے ایک قصبہ اوش میں پیدا ہوئے۔ ڈیڑھ سال کے تھے کہ والد ماجد سید کمال الدین نے انتقال فرمایا۔ پانچ سال کے ہوئے تو والدہ ماجدہ نے ایک ہمسایہ کے ساتھ بھیجا کہ معلم کے

عولے کر آئے۔

علوم ظاہری کی تحصیل کے بعد حضرت خواجہ خواجگان حسین الدین حسینی سے بیعت ہوئے۔ اور
سترہ سال کی عمر میں خرقہ اجازت حاصل کیا۔ ہر شب سو رکعت نفل کے علاوہ تین ہزار مرتبہ درود شریف
پڑھنا آپ کا معمول مبارک تھا۔

ایک مرتبہ کسی شخص سے یہ شعر سنا

گشتگانِ خجستہ تبسیم را ہر زماں از غیب جانے دیگر است
یہ سن کر چار روز نسک کی حالت میں رہے اور پانچویں روز ۱۴ ربیع الاول ۷۳۵ھ کو وصال فرمایا
مزار مبارک دہلی میں زیارت گاہ و خلافت ہے۔

۳۔ شیخ شیوخ العالم حضرت خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر علیہ السلام

والدہ ماجدہ کا اسم گرامی شیخ جمال الدین ۷۵۰ھ میں کھتوال (موجودہ نام کوٹھی وال) اضلاع
مٹان میں پیدا ہوئے۔ آپ کا سلسلہ نسب امیر المومنین حضرت فاروق اعظم سے جلتا ہے۔ آپ کے دادا
قاضی شیب جاکو کے زمانہ میں اپنے وطن مالون کابل کو چھوڑ کر لاہور تشریف لائے۔ دہلی میں بادشاہ کو
خیر ہوئی تو اس نے منصب پیش کیا مگر آپ نے منظور نہ فرمایا اور مٹان تشریف لے گئے۔ علوم ظاہری کی
تحصیل آپ نے مٹان میں قاضی بہناج الدین کی مسجد میں فرمائی اور وہیں قطب الاقطاب حضرت خواجہ
قطب الدین بختیار کاکلی کی بیعت کی۔ آپ کے دادا پر خواجہ خواجگان حضرت خواجہ حسین الدین حسینی نے
بھی آپ کی بہت تعریف کی ہے۔ ایک مرتبہ قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکلی سے
فرمایا کہ قطب الدین تم نے ایک بڑے شہساز کو مقید کیا ہے۔

آپ کا وصال ۵۔ محرم الحرام ۷۶۸ھ کو پاک تین تشریف میں ہوا۔ اس وقت عمر ثبوت رک

۹۵ سال تھی۔

۴۔ سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ

۱۳۳۶ھ میں بدایوں میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد خواجہ احمد بن علی بخارا سے ہندوستان تشریف لائے۔ سادات حسینی سے ہیں۔ پانچ سال کے تھے کہ والد ماجد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ والد ماجد نے جو اپنے وقت کی صالح اور باخدا خاتون تھی اس ذریعہ کی پرورش اور دینی و اخلاقی تربیت کا مرکز بہت اور پندرہ شفقت کے ساتھ اہتمام کیا۔ کتابیں پڑھنے کے قابل ہوئے تو مولانا علاء الدین اصولی کے سامنے زانوئے تلمذ کیا۔ قدوری ختم کی تو مولانا اصولی نے دستارِ فیضیت باندھی۔ سولہ سال کی عمر میں دہلی آگئے اور مولانا شمس الدین خوارزمی کے حلقہٴ درس میں شامل ہوئے۔ علامہ کمال الدین زاہد سے مشارق الانوار کا درس لیا اور حدیث کی اجازت حاصل کی تحصیلِ علم سے فراغت کے بعد آپ نے دربارِ شاہی میں ملازمت کے لئے درخواست دی۔ خیال تھا کہ بدایوں کے قاضی مقرر ہو جائیں گے لیکن دہلی میں حضرت شیخ نجیب الدین متوکل کی بزرگی کا چرچا تھا۔ آپ ان کی خدمت میں دو عالمی غرض سے حاضر ہوئے حضرت شیخ نے آپ کو دیکھتے ہی فرمایا: با نظام! قاضی مشو چیز دیگر مشو۔ پھر شیخ نے فرمایا کہ پاک تپن میں شیخ شیوخ عالم حضرت خواجہ فرید الدین مستود کبچ شکر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوں حضرت پاک تپن تشریف لے گئے۔ شیخ شیوخ عالم نے آپ کو دیکھتے ہی یہ شعر پڑھا۔

اے آتشِ فراقت و لہا کبابِ کردہ سیلابِ اشتیاق جاننا خرابِ کردہ

اس حاضری میں حضرت محبوب الہی شیخ کبیر سے بیعت ہو گئے۔ عمر مبارک اس وقت میں سال تھی۔ ۶۹ھ میں حضرت شیخ کبیر نے سندِ خلافتِ عطا فرمائی اور دہلی کی تولیت پر مامور فرمایا۔ دہلی میں حضرت نے بیعتِ عام کا دروازہ کھول دیا۔ لوگ جوق در جوق حاضر ہوئے اور گناہوں سے تائب ہو کر حلقہٴ ازاوت میں شامل ہو جاتے۔

تاریخ فرید شاہی میں ہے کہ حضرت کی برکت سے عوام کا رجحان دینداری کی طرف بہت ہو گیا تھا حضرت کے اکثر بڑے دو تہائی یا تین چوتھائی رات تمام سال قیام اہل میں گزارتے۔ عام لوگوں کی زبان پر بھی شرب و شاہدِ شمس و فجر، آقا بازی اور فحش حرکات کا ذکر نہ آتا تھا۔ دوکانداروں میں جھوٹ، کم تولنا،

منکاری و دغا، دھوکا دہی اور نادانوں کا روپہ مار لینا سب قطعاً ختم ہو گئے تھے۔ حضرت نے مسلمانوں کو ایسے
 خشک امر اور دوسرے غلاظین کی تربیت پر خصوصی توجہ دی۔ یہ لوگ حضرت کی توجہ سے چاشت، اشراق
 کی نمازیں ادا کرتے تھے اور آیام بیض اور عشرہ ذی الحجہ کے روزے رکھتے تھے۔ حضرت محبوب الہی اشراق
 سنت کا بہت خیال رکھتے تھے اور اس کی تلقین فرماتے تھے۔ وصال سے چند روز قبل خواب میں دیکھا
 کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں نظامِ اتم سے بننے کا بڑا اشتیاق ہے۔ اس خواب کے بعد سفرِ آخرت
 کے لئے بے چین رہنے لگے۔

حضرت کا وصال چہار شنبہ ۱۸ ربیع الثانی ۱۲۵۷ھ کو ہوا۔ مزار مبارک دہلی میں ہے۔ یہ وضہ
 مبارک کی عمارت سلطان محمد بن تغلق نے بنوائی۔

۵۔ نصیر اکابیلین حضرت خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ

حضرت خواجہ نصیر الدین محمود ۷۵۵ھ میں اودھ میں پیدا ہوئے۔ شجرہ نسب حضرت فاروق اعظم
 سے جتا ہے۔ آپ کے دادا شیخ عبد اللطیف بخارا سے لاہور آئے جہاں آپ کے والد ماجد شیخ یحییٰ توالد
 ہوئے جنہوں نے جوان ہو کر اودھ میں سکونت اختیار کی۔

نوبیس کے تھے کہ والد ماجد شیخ یحییٰ فوت ہو گئے۔ والدہ نے علم ظاہری کے لئے مولانا عبد اللہ
 شیروانی کے سپرد کیا جن سے آپ نے ہدایہ اور ہر دو ہی تک کتابیں پڑھیں۔ ان کے اہتمام کے بعد مولانا
 افتخار الدین گیلانی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور علوم کی تکمیل کی تحصیل علوم کے بعد مجاہدات و ریاضات
 میں مشغول ہوئے اور پندرہ سال اہل اللہ کی خدمت میں حاضر رہے۔ چالیس برس کی عمر میں حضرت محبوب
 الہی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر مرید ہوئے۔ حضرت نے خلافت سے نوازا اور چراغ دہلی
 کا خطاب دیا۔

وصال فیروز شاہ کے عہد میں جمعہ ۱۸۔ رمضان شریف ۷۵۷ھ ہجری کو ہوا۔ اس وقت عمر مبارک
 ۸۲ سال تھی۔ مزار اقدس پرانی دہلی میں زیارت گاہِ خلائق ہے۔

۶۔ حضرت شیخ المشائخ خواجہ کمال الدین علامہ رحمۃ اللہ علیہ

حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کے خواہر زادہ تھے۔ والد ماجد کا اسم گرامی شیخ عبدالرحمن تھا۔ سلسلہ نسب حضرت فاروق اعظم سے ملتا ہے۔ علم حدیث، فقہ، تفسیر اور اصول میں نیکانہ روزگار تھے۔ اس لئے علامہ آپ کا خطاب تھا۔ آپ کے شاگردوں میں حضرت مخدوم جہانیاں جہاں گشت ہوں لانا اچھے تھانیری، مولانا عالم سنگریزہ، طمان اور مولانا عالم پانی پتی جیسے بزرگ شامل ہیں۔

شرف بیعت حضرت سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل تھا۔ علامہ حضرت چراغ دہلوی نے عطا فرمائی حصول خرقہ و خلافت کے بعد احمد آباد گجرات چلے گئے جہاں آپ کو قبول عظیم حاصل ہوا اور بے شمار خلعت حلقہ ابروت میں داخل ہوئی۔

آخر عمر میں دہلی تشریف لے آئے۔ آپ کا وصال ۶۷۰ھ ذی قعدہ ۲۶ھ کو ہوا۔ مزار مبارک حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی کے روضۃ اقدس کے قریب ہے۔

۷۔ سیراج التالکین حضرت خواجہ سراج الدین رحمۃ اللہ علیہ

حضرت خواجہ کمال الدین علامہ کے تیسرے صاحبزادے تھے۔ چار سال کی عمر میں حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی کے مرید ہوئے۔ علوم ظاہری اور باطنی اپنے والد ماجد سے حاصل کئے۔ آپ صاحب دیوان شاعر تھے۔ آپ کا یہ شعر بہت مشہور ہے۔

بار دیگر ہنس ہی گوید سراج قلم ما نیست الارودے دوست

نور اولیاء میں ہے کہ آپ حضرت چراغ دہلی کے مرید و خلیفہ تھے اور والد بزرگوار حضرت خواجہ کمال الدین علامہ سے بھی آپ کو خلافت ملی تھی۔

آپ کا وصال پنجشنبہ یکم جمادی الاول ۸۱۶ھ بوقت عشاء ہوا۔ مزار مبارک قلعہ پیراں پتین نروال میں محلہ برکات پورہ (احمد آباد گجرات) میں زیارت گاہ مخلوق ہے۔

۸ قطب العالم حضرت خواجہ علم الدین علم الحق رحمۃ اللہ علیہ

سراج السالکین حضرت خواجہ سراج الدین رحمۃ اللہ علیہ کے دوسرے صاحبزادے تھے والد محمد کے مرید و خلیفہ تھے۔ انہی سے علوم ظاہری اور باطنی حاصل کیے حضرت خواجہ سید محمد گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ارادت و اجازت حاصل تھی۔ نہایت درجہ متاض، متبع سنت اور صاحب کشف کرامت تھے جو زبان مبارک سے ارشاد فرماتے وہی ہوتا۔ سماع سے خصوصی شغف رکھتے تھے آپ کے چھوٹے بھائی خواجہ محمد الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قطب العالم حضرت خواجہ علم الدین ماوراء النہد تھے ہمیشہ ذکر الہی میں مشغول رہتے۔

چہار شنبہ ۶ صفر ۹۱۹ھ کو وصال فرمایا پیراں پن (احمد آباد گجرات) میں اپنے والد ماجد کے دروضہ شریف کے اندر مدفون ہیں۔ آل جناب کے بے شمار مرید و خلفاء تھے لیکن سلسلہ آپ کے فرزند ارجمند حضرت خواجہ محمود راجن سے جاری ہوا۔

۹ حبیب معین و حضرت خواجہ محمود عرف ابن رحمت علیہ السلام

آپ اپنے والد بزرگوار حضرت خواجہ علم الدین علم الحق رحمۃ اللہ علیہ سے خرقہ ارادت حاصل کیا اور ان کے وصال کے بعد جانشین ہوئے۔ ریاضت و کرامت میں اپنا ثانی نہ رکھتے تھے سلسلہ شہود یہ اور شطابہ میں حضرت شیخ قاذون رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت حاصل تھی نیز ایک خرقہ مغلافت چشتیہ شیخ ابی الفتح مرید و خلیفہ حضرت خواجہ سید محمد گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ سے بھی حاصل تھا۔

آپ کا وصال جمعہ ۲۲ صفر ۹۳۲ھ کو ہوا۔ مزار مبارک پیراں پن میں ہے۔ آپ کے مریدین و خلفاء کی تعداد بے شمار ہے لیکن سلسلہ فرزند ارجمند حضرت خواجہ محمد علی الدین رحمۃ اللہ علیہ سے جاری ہوا۔

۱۔ جمال البراہنہ خولجہ جمال الدین عرف حسن رحمۃ اللہ علیہ

آپ اپنے والد ماجد حضرت خواجہ محمود راجن رحمۃ اللہ علیہ کے مرید و خلیفہ تھے۔ علوم ظاہری اور باطنی انہیں سے حاصل کیے۔ مرادہ السالکین میں سے کہ آپ صاحب معرفت، اہل شریعت اور صاحب تبحر تھے۔ ہمیشہ ذکر الہی میں مشغول رہتے تھے۔ حضرت شیخ احمد کھٹور رحمۃ اللہ علیہ نے بھی آپ کو خاندان مغربیہ کی خلافت و اجازت سے نوازا تھا۔

۹۔ ربیع الاول ۹۳۳ھ میں کفار چانیر نے حملہ کر کے آپ کو شہید کر دیا۔

ع۔ شہید شیخ تسلیم عمر عابدان وارد سے مادۃ تاریخ برآمد ہوتا ہے۔ مزار شریف احمد آباد گجرات کے محلہ شاہ پور میں دیکھئے۔ سانبر کے کنارے زیارت گاہ غلاتی ہے۔

۱۱۔ قدۃ الاولیاء حضرت خولجہ ابوصالح حسن محمد رحمۃ اللہ علیہ

۹۲۳ھ میں احمد آباد گجرات میں پیدا ہوئے۔ والد ماجد کا اہم گرامی شیخ احمد عرف میاں جو تھا بھتر خواجہ کمال الدین علامہ کی اولاد امجاد سے تھے۔ مرادہ السالکین میں سے کہ آپ مادر زاد اولی تھے اور آپ نے اپنے والد ماجد کی زندگی ہی میں شہرت علمی حاصل کر رکھی تھی۔

بارہ برس کی عمر میں حضرت خواجہ جمال الدین حسن کے مرید ہوئے۔ اور اٹھارہ برس کی عمر میں علوم ظاہری و باطنی کی تکمیل کر کے ان کے خلیفہ بنے۔ آپ کو سلسلہ چشتیہ میں اپنے والد ماجد کی طرف سے خلافت حاصل ہوئی۔ علاوہ انہیں مختلف بزرگان سلاسل سے قادریہ، گازر دنیہ، نور بخشید، ہمدانیہ، فردوسیہ اور کبریہ وغیرہ سلسلوں میں بھی خلافت و اجازت حاصل ہوئی۔

آپ کی دیگر تصانیف کے علاوہ حاشیہ تفسیر ہندی، حاشیہ قوت القلوب، حاشیہ بر شرح مطالعہ، حاشیہ تربیت الدرواح وغیرہ معروف ہیں۔

آپ نے ۵۹ برس کی عمر میں اکتالیس سال مسند ارشاد پر فائز رہنے کے بعد ۲۸ ذی قعدہ ۹۸۲ھ میں وصال فرمایا۔ مزار پر نور احمد آباد گجرات کے محلہ شاہ پور میں ہے۔ آپ کا سلسلہ آپ کے فرزند حضرت خواجہ محمد سے جاری ہوا۔

۱۲۔ قدوة السالکین تاجہ شمس الدین محمد حامد رحمۃ اللہ علیہ

نام نامی شمس الدین اور لقب تاجہ ہے۔ ۹۵۶ھ کو احمد آباد گجرات میں پیدا ہوئے۔ علوم ظاہری و باطنی کی تکمیل کے بعد اپنے والد ماجد حضرت خواجہ حسن محمد رحمۃ اللہ علیہ سے غرقہ فقر و ارادت حاصل کیا اور ان کے وصال کے بعد سجادہ نشین ہوئے۔ والد ماجد سے قادریہ، شہروردیہ، نقشبندیہ سلسلوں میں بھی عملاً علیٰ حق بنیز حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی سے فیضِ روحی حاصل تھا۔ آپ کے چار صاحبزادے شیخ عزیز اللہ، شیخ سراج الدین، شیخ حسن محمد اور شیخ محمود تھے۔ لیکن سلسلہ خاندانِ چشتیہ نظامیہ میں آپ کا سلسلہ آپ کے پوتے حضرت خواجہ محمد بنی مدنی سے جاری ہوا۔

۲۹۔ ریح القل سلسلہ میں ۸۳ سال کی عمر میں وصال فرمایا۔ مزار متحدہ احمد آباد گجرات میں حضرت خواجہ حسن محمد رحمۃ اللہ علیہ کے روضہ انور کے قریب ہے۔

۱۳۔ امام الاتقیاء حضرت تاجہ ابو یوسف محمد الدین سبکی مدنی رحمۃ اللہ علیہ

نام نامی محمد الدین، نسب سبکی مدنی اور کنیت ابو یوسف ہے۔ والد ماجد کا اسم گرامی شیخ محمود بن حسن تھا جو حضرت خواجہ کمال الدین علامہ کی اولاد سے تھے۔ آپ کی ولادت باسعادت ۲۰ رمضان المبارک بروز پنج شنبہ ۱۰۱۶ھ کو احمد آباد گجرات میں ہوئی۔ بیس سال کی عمر میں علوم ظاہری و باطنی میں کمال حاصل کر لیا۔ تکمیلِ علوم کے بعد اپنے دادا حضرت خواجہ شمس الدین محمد حامد رحمۃ اللہ علیہ سے حشر و

نہروارادت حاصل کیا اور ان کے وصال کے بعد تہجد پر پھولہ افروز ہوئے۔ آخر عمر میں آل حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روحانی اشارے پر مدینہ منورہ ہجرت فرمائی اور وہیں سکونت پذیر ہوئے۔ اس لئے آپ کو مدنی کہتے ہیں۔ نہایت درجہ صاحب ریاضت و کرامت تھے۔ ہر وقت ذکر الہی میں مشغول رہتے۔ آپ کے بے شمار خلفاء تھے لیکن سلسلہ حضرت شاہ حکیم اللہ جہان آبادی سے جاری ہوا۔

چودہ سال مدینہ منورہ میں رہنے کے بعد ۹۰ برس کی عمر میں ۲۸ صفر سنہ ۱۱۱۵ھ میں وصال فرمایا اور جنت البقیع میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قبہ مبارک میں دفن ہوئے۔

۱۲ حضرت شاہ کلیم اللہ شاہ جہان آبادی رحمۃ اللہ علیہ

والد ماجد کا اسم گرامی نور اللہ بن شیخ احمد تھا حضرت ابو بکر صدیق کی اولاد سے تھے حضرت شاہ صاحب کے سلاف کا پیشہ عمارت کاری تھا۔ تاج محل آگرہ، لال قلعہ دہلی، جامع مسجد دہلی اور محل نواب آصف خان لاہور آپ ہی کے بزرگوں کے تعمیری شاہکار ہیں۔

حضرت شاہ صاحب ۲۴ جمادی الثانی سنہ ۱۰۶۵ھ کو پیدا ہوئے۔ آپ کی تعلیم و تربیت بہت اعلیٰ پیمانے پر ہوئی۔ شیخ بڑبان الدین المعروف بے شیخ بہلول اور شیخ ابوالرضا الہندی (حضرت شاہ ولی اللہ کے تلمیذ) سے علوم ظاہری کی تحصیل کی۔

شاہ صاحب کچھ عرصہ حجاز میں مقیم رہے۔ شیخ یحییٰ مدنی نے فرقہ اختلاف سے نواز اور ظاہری باطنی نعمت سے سرفراز کیا۔ اور حکم دیا کہ دہلی جا کر خلق کی خدمت و ہدایت کا فریضہ انجام دیں۔ شاہ صاحب نے دہلی آکر بازار خانہ میں رہائش اختیار کی اور سلسلہ درس و تدریس شروع کیا۔ بہت جلد ان کی شہرت پورے ملک میں پھیل گئی اور طلباء دور دور سے آکر تحصیل علم کے لئے حاضر ہونے لگے۔

شاہ صاحب کی متعدد تصانیف میں مندرجہ ذیل کتابیں اب بھی دستیاب ہو جاتی ہیں:-

- ۱۔ قرآن القرآن (۲) عشرہ کاملہ (۳) سوار السبیل (۴) کشکول (۵) مرتب (۶) تسنیم (۷) الہامات کلیمی (۸) رسالہ تشریح الافلاک عالمی مثنوی بالفارسیہ (۹) شرح القانون۔

بعض کتابوں میں ان کی تصنیف روزِ وافض کا ذکر بھی ملتا ہے جو آج کل دستیاب نہیں۔
 مرزا غالب کے ایک خط سے (جو اردوئے معلیٰ حصہ اول میں ہے) معلوم ہوتا ہے کہ شاہ صاحب
 شہر جمی کہتے تھے اور ان کا کلام قدر کے جنگلوں میں تلف ہو گیا۔
 شاہ صاحب نے ۲۴۔ ربیع الاول ۱۲۲۲ھ مطابق ۱۷ اکتوبر ۱۷۹۹ء کو وصال فرمایا
 انتقال کے وقت یہ شعر زبان پر تھا۔

خوار خاں عشاقِ مدحتِ طلبی است
 و نخلوتے کہ نمز باد و دست بے ادبی است

۱۵ حضرت نظام الدین اورنگ آبادی رحمۃ اللہ علیہ

۱۰۶۰ھ میں کاکوری میں پیدا ہوئے حضرت شاہ کلیم اللہ جبل آبادی کے عزیز ترین مرید اور خلیفہ
 تھے سلسلہ نسب حضرت شیخ شہاب الدین شہروردی کے واسطے سے حضرت تینا ابوبکر صدیقی تک
 پہنچتا ہے۔ شاہ صاحب حضرت نظام الدین سے نہایت پیار و محبت فرماتے اور ان کی ظاہری تعلیم و
 تربیت کی ذمہ داری قبول فرمائی عرصہ تک حضرت نظام الدین، حضرت شاہ صاحب کی خدمت پر کثرت
 میں رہ کر علوم ظاہری حاصل کرتے رہے۔ ایک روز شاہ صاحب مجلس سے اٹھے اور فرس کے کنارے
 تک پہنچے تو حضرت نظام الدین نے بڑھ کر فرمایا جوتے اٹھائے اور صاف کر کے رکھ دیئے۔ شاہ صاحب
 کو یہ ادا پسند آئی اور انتہائی محبت سے فرمایا۔ نظام الدین اتوہما سے پاس علوم ظاہری حاصل کرنے
 آیا ہے یا فوائد باطنی، جو بہر حال زیادہ بہتر اور اچھے ہیں۔
 حضرت نظام الدین نے بے ساختہ عرض کیا۔

سپر دم تو مائے خویش را
 تو دانی حساب کم و بیش را

یہ شعر سننے ہی شاہ صاحب کو اپنے پروردگار حضرت یحییٰ مدنی کی پیش گوئی یاد آگئی۔ انہوں نے حجاز

سے روانگی کے وقت ارشاد فرمایا تھا کہ ایک شخص ایسے موقع پر یہ شعر پڑھے گا اور وہ ہماری نسبت کا مالک ہوگا اس سے چشتیہ نظامیہ سلسلے کو بے حد ترقی ہوگی۔ فرمایا۔ آمداں یار سے کامی خواہم اور اسی وقت بیعت فرمایا۔ حضرت کی تصنیف نظام المخلوب بہت مشہور ہے جس میں اشغال واذکار کا تفصیلی ذکر ہے۔ حضرت نظام الدین اورنگ آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے ۱۶۔ ذی قعدہ ۱۳۲ھ کو اورنگ آباد میں وصال فرمایا۔

۱۶۔ مُجِبُّ النَّبِيِّ حضرت شاہ فخر الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ

۱۳۶ھ کی بات ہے اورنگ آباد دکن میں حضرت شاہ نظام الدین کے ہاں ایک سلف نے تندرستی اور جنم کی ولادت ہوئی حضرت نے فوراً دہلی میں اپنے پروردگار حضرت شاہ سلیم اللہ دہلوی کو اطلاع بھجوائی۔ وہ اس خبر سے بے حد مسرور ہوئے اور جوا بگاہا بھیجا کہ نظام الدین تمہارا یہ بیٹا نہایت فرخندہ قال اور خوش اقبال ہے میں تمہیں اس بچے کے شاندار مستقبل کی بشارت دیتا ہوں۔ وقت آئے گا کہ یہ بچہ شاہجہان آباد (دہلی) میں ہدایت و ارشاد کی شمع روشن کرے گا جس سے مخلوق کے سینے منور ہوں گے اور تصوف و طریقت کے مغانے میں پھر سے بہار آجائے گی۔ یہ بچہ دین حنیف کے لئے باعث فخر و صد افتخار ہوگا تم اس بچے کا نام فخر الدین رکھو۔

سلسلہ نسب

حضرت شاہ فخر الدین والد ماجد کی جانب سے صدیقی تھے اور والدہ ماجدہ کی طرف سے سیدہ ان کی والدہ ماجدہ محترمہ سیدہ بیگم حضرت خواجہ سید محمد گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے تھیں۔ حضرت شاہ فخر الدین کا لقب مُجِبُّ النَّبِيِّ تھا۔ اس کی چریہ بیان کی جاتی ہے کہ انہوں نے خواب میں حضرت خواجہ خواجگان سید معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو اس لقب سے مخاطب فرماتے ہوئے سنا تھا۔

تعلیم و تربیت

حضرت شاہ نظام الدین اورنگ آبادی نے اپنے ہونہار صاحبزادہ کی تعلیم و تربیت کا انتظام نہایت اعلیٰ پایہ پر کیا۔ ان کے پیر و مرشد حضرت شاہ کلیم اللہ تھے کے شاندار استقبال کی بشارت دے چکے تھے پیر و مرشد ہی کے ایما پر انہوں نے وقت کے مشہور اور قابل ترین علماء سے ان کی تعلیم کی تکمیل کرائی۔

حضرت شاہ فخر الدین صاحب نے مخصوص بالحکم۔ صدر شمس بازند وغیرہ کتابیں میاں محمد جان سے پڑھیں اور باری مولانا عبدالحکم سے پڑھا۔ شاہ صاحب نے بعض کتابیں اپنے والد ماجد سے پڑھیں جن میں شرح وقایہ مشارق الانوار، نعمات الانس وغیرہ شامل ہیں۔ حدیث کی سند انہوں نے دکن کے مشہور محدث مولانا حافظ اسعد الانصاری المکی سے حاصل کی۔ درسی کتابوں کے علاوہ شاہ صاحب نے دیگر علوم و فنون سے بھی واقفیت حاصل کی۔ طب اور تیر اندازی کے متعلق کتابیں پڑھیں اور فنون سپہ گری میں مہارت حاصل کی۔

بیعت و خلافت

حضرت شاہ نظام الدین بیٹے کی اصلاح باطن کے بے خصوصی توجہ فرماتے تھے بچپن میں انہیں مرید کر لیا تھا جب نظام الدین کا وقت آخرا آیا تو اپنے داماد قاضی کریم الدین خان کو حکم دیا کہ مولانا فخر الدین کو بلاؤ۔ وہ آئے تو حضرت شاہ نظام الدین نے انہیں اپنے سینے سے پٹا لیا۔ اور اپنی تمام باطنی نعمتیں ان کے سینے میں منتقل کر دیں۔ اس کے بعد ان کی رُوح پر فتوح عالم فانی سے عالم باقی کی طرف پرواز کر گئی۔ حضرت شاہ فخر الدین کی عمر اُس وقت سولہ سال تھی انہوں نے اپنے علوم کی تکمیل ابھی نہیں کی تھی۔ والد ماجد کے وصال کے تین سال بعد تک انہوں نے سلسلہ تعلیم جاری رکھا اور علوم کی تکمیل کی۔

دہلی میں درودِ مسعود

آخر سالہ میں اپنے دو خالوں قاسم حسینی اور محمد حیات کے ساتھ پایادہ دہلی کی طرف چل پڑے۔ دہلی میں ایک بڑھیلے آپ کو اپنے ہاں ٹھہرایا۔ بڑھیا کے مکان کے قریب ایک بُت خانہ تھا۔ شاہ

صاحب کے قیام سے بُت خانہ کی زد نفع ختم ہو گئی اور ہندو آپ کی عقیدت کا دم بھرنے لگے یہاں سے آپ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس پر حاضر ہوئے اور درگاہ شریف کی مسجد میں محفل ہو گئے۔ بزرگان سلسلہ کے مزارات پر حاضری دیتے ہوئے آپ حضرت شاہ کلیم اللہ کے مزار پر پہنچے حضرت شاہ کلیم اللہ کے فرزند نہایت محبت اور خلوص سے پیش آئے اور تین روز تک آپ کو حمان بٹھرایا۔ اس کے بعد آپ نے کٹڑہ پھیل میں ایک عویلی کرایہ پر لے لی اور درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔

حضرت شاہ فخر الدین حبیباً کمال اور صاحب عرفان و حال درویش دہلی میں غیر معروف اور گناہ کیسے رہ سکتا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے عویلی میں خلقت کا جہوم بڑھنے لگا اور بیعت و توبہ کا سلسلہ شروع ہو گیا یہیں کٹڑہ پھیل میں شہزادہ لاکان قبلہ عالم حضرت خواجہ نور محمد ہماروی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے حلقہ مریدین میں داخل ہوئے۔

تصانیف

شاہ صاحب نے تین کتابیں تصنیف فرمائیں جن کے نام یہ ہیں :-

- ۱۔ نظام العبادت (اسلام کے بنیادی عقائد پر عالمانہ بحث)
 - ۲۔ رسالہ جہیہ (حضرت سید عبدالقادر جیلانی کی مشہور کتاب فینۃ الطالبین کے ایک بیان کی شرح)
 - ۳۔ فخر الحسن (حضرت خواجہ حسن بصری کی حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے بیعت و خلافت کا علمی تاریخی ثبوت)
- مرتد نے ان کتابوں کے بارے میں اپنی رائے ظاہر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ان کا دیکھنا آپ کی ہمارے علمی پر دلیل قاطع اور برہان ساطع ہے۔

وصال

شاہ صاحب نے ۳۷ سال کی عمر میں ۲۸۔ جمادی الثانی ۹۹ھ کو وصال فرمایا۔ وصال سے ایک دن قبل زبان مبارک پر ثنوی کا یہ شعر تھا

وقت آں آمد کہ من عشیاں شوم چشم بگزارم سراسر جہاں شوم

آپ کو حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پاک کے قریب سپرد خاک کیا گیا۔

۱۰ حضرت خواجہ نور محمد ہماروی رحمۃ اللہ علیہ

حضرت خواجہ صاحب ہماروی ۱۴ رمضان المبارک ۱۲۲۲ھ کو چوہالہ میں پیدا ہوئے۔ یہ جگہ ہمارشریف سے چارکوس کے فاصلے پر مشرق کی طرف ہے۔ والد ماجد کا نام ہندال تھا جو کھل قوم سے تعلق رکھتے تھے سلسلہ نسب نوشیرواں عادل سے جا ملتا ہے۔

ذریعہ غازی خان میں کچھ عرصہ قیام کرنے کے بعد خواجہ صاحب لاہور آئے۔ وہاں سے تحصیل تعلیم کے لئے دہلی تشریف لے گئے۔ اُس زمانے میں وہاں نواب غازی الدین خان کے مدرسے کی بڑی شہرت تھی۔ آپ اس مدرسہ میں داخل ہو گئے اور حافظہ پر غور و ارجحی سے کافیہ پڑھنا شروع کیا۔ ابھی آپ قطبی پڑھ رہے تھے کہ حافظہ صاحب کو دہلی سے باہر لپے گھر جانا پڑا جس سے آپ کی تعلیم کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کو شاہ فخر کی خدمت میں ماضی کی سعادت نصیب ہوئی۔ شاہ فخر کے دینی تشریح لکھنے کے بعد خواجہ صاحب پہلے شخص تھے جنہوں نے ان کے دستِ حق پرست پر بیعت کا شرف حاصل کیا۔ خواجہ صاحب جب باہمی علوم کی تکمیل کر چکے تو شاہ صاحب نے فرمایا اُسے نور محمد اہلق رابا تو کار خواجہ بود۔ یہ سن کر آپ بڑے حیران ہوئے عرض کیا میں ایک کسرتن پنجابی ہوں۔ کس طرح اس اعلیٰ مرتبے کے قابل سمجھا گیا چند روز بعد شاہ صاحب نے خلافت عطا فرما کر انہیں ہمارشریف قیام کرنے کا حکم دیا۔ رخصت کرتے وقت یہ پانچ وصیتیں فرمائیں:-

- ۱۔ میری وفات کی خبر سن کر واپس دہلی نہ آنا۔
 - ۲۔ اس مکان میں ہندوستانی لباس نہ پہننا۔
 - ۳۔ کوئی شخص تمہیں تکلیف پہنچائے تو درگزر کرنا۔
 - ۴۔ علماء سادات اور بابا صاحب کی اولاد کی تعظیم کرنا۔
 - ۵۔ ایک امیر تمہارے دامنِ لطف سے وابستہ ہو گا اُس کی نگہداشت کرنا۔
- خواجہ صاحب کو اپنے مرشدِ کریم سے غایت درجہ عشق تھا۔ ۱۹۹ھ میں حضرت شاہ فخر صاحب کا وصال ہوا تو ان پر اس کا بے حد اثر ہوا۔ شاہ صاحب کے وصال کے بعد چھ برس زندہ رہے مگر کسی

طرح طبیعت کبھی بحال اور خوش مزہبی۔ مُرشد کے وصال کے فوراً بعد ان کو کاست بدنی کی شکایت ہو گئی۔ اسی اشارہ میں ان کے عزیز مُرید اور غلیظہ حضرت نور محمد صاحب نارووال نے وصال فرمایا تو یہ صدہ دو چند ہو گیا۔ آخر ۳۰ ذی الحجہ ۱۲۵۰ھ کو آپ نے وصال فرمایا۔ نواب غازی الدین خان نے تاجِ وفا کہی۔

حیعت و اولیٰ جہاں بے نور گشت

۵ . ۲ . ۱ . ۵

۱۸ حضرت خواجہ شاہ سلیمان تونسوی رحمۃ اللہ علیہ

حضرت تونسوی رحمۃ اللہ علیہ ۸۳ھ کو گرگونی پہاڑ میں پیدا ہوئے۔ ابھی بچے ہی تھے کہ والد بزرگوار جناب محمد زکریا عبد الوہاب بن عمر خان رحلت فرماتے۔ ترکہ میں انہیں قسیمی اور غریبی کے سوا کچھ نہ ملا۔ دل میں علم حاصل کرنے کا بڑا شوق تھا۔ بے سرو سامانی کے عالم میں پھرتے پھرتے کوٹ مٹھن آئے۔ وہاں قاضی احمد علی رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں شامل ہو گئے۔ اس کے بعد قبلہ عالم نور محمد ہماروی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر مُرید ہوئے۔ آپ نے انہیں آداب الطالبین، فقرات، عشرہ کاملہ، لوائح، خصوصاً الجگہ وغیرہ کتابیں پڑھائیں۔ ریاضت و مجاہدات سے باطنی علوم کی تکمیل کرائی۔ اور خلوات عطا فرما کر توبہ شریف بھیج دیا۔

آپ اہل سنت و الجماعت کے ساتھ تعلق رکھنے کو بہت ضروری سمجھتے تھے اور والدین کی خدمت پر بڑا زور دیتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے کہ دین و دنیا کی کامیابی کا انحصار رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کی متابعت کے بغیر ناممکن ہے۔ حکومت بھی اس وقت مل سکتی ہے جب زندگی کے ہر شعبہ میں مکمل ترین انسان کامل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اتباع ہو۔ اور رُوح کی کمالت بھی اسی وقت ممکن ہے جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے نقش قدم پر گامزن ہو۔ سلوک و معرفت کی راہیں بغیر اتباع رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طے نہیں کی جاسکتیں۔ اعلا رکھو۔ الحق حضرت کی زندگی کا مشن تھا۔ اسد خان مالک سنگھ کے بارے میں جب لوگوں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ رعایا کے ساتھ

عدل و انصاف سے پیش نہیں آتا تو شاہ صاحب نے اُس کو ڈانٹا اور فرمایا :-

اسد خان! ظلم ترک کر دے۔ تیری حکومت میں اگر میں کوئی فائدہ ہے تو صرف یہ کہ اذانِ سننے میں آتی ہے۔ رعایا کے ساتھ عدل و انصاف کا برتاؤ کرو۔ ورنہ میں دیکھتا ہوں کہ تھوڑے دنوں ہی میں سکتوں کی فرج آنے والی ہے۔

حضرت نے کم و بیش ستر خلفاء کو خرقہ خلافت عطا فرمایا۔ ان خلفاء میں حاجی نجم الدین صاحب حافظ محمد علی خیر آبادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے زینسلسلہ کی ترویج و اشاعت میں نمایاں حصہ لیا۔

حضرت کا وصال یکم صفر ۱۲۶۶ھ جمعرات کے دن ہوا۔ تو نسہ شریفین میں حضرت کا مزار اقدس مزینِ خلافت ہے۔

۹۔ حضرت قبلہ راجہ شمس الدین خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ

حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی ۱۲۱۳ھ میں سیال شریفین میں پیدا ہوئے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ پنجاب میں سکتوں کی حکومت تھی اور مسلمانوں پر ان کا ظلم و ستم روز بروز بڑھتا جا رہا تھا۔ خود خواجہ صاحب کے والد بچہ تم میں تمہاری صاحب حق گوئی اور حریت پسندی کے باعث سکتوں کے ہاتھوں گرفتار ہوئے اور ہوش رُبا مصائب برداشت کئے۔ آپ نے سات سال کی عمر میں قرآن کریم ختم کر لیا۔ اپنے مائیں میں احمد الدین صاحب سے نام حق، اکریا وغیرہ کتب پڑھیں۔ پھر کھنڈ شریفین میں تیرہ برس قیام کر کے دینی علم کی تحصیل کی۔ وہاں سے فراغت کے بعد مولوی علی محمد صاحب کے حکم کے مطابق آپ کابل شریفین لے گئے۔ وہاں کے مشہور و مقبر عالم حافظ دراز صاحب سے ہدایہ شریفین پڑھا۔ وہاں سے فراغت کے بعد پھر کھنڈ واپس تشریف لائے۔ ان دنوں کسی اہل دل سے حضرت خواجہ شاہ سلیمان تونسوی کا شہرہ سنا۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور آپ کی خدمت میں حاضر رہنے لگے۔ ۳۶ سال کی عمر میں حضرت تونسوی نے ان کو خرقہ خلافت سے نوازا اور ہدایت فرمائی کہ نبیت کا کام پورے اہتمام سے کرتا۔ اور جو

طالب ہدایت آئے اُسے خالی نہ ٹوٹانا۔ آپ کا وصال ۲۴ صفر ۱۳۰۳ھ کو ہوا۔

آپ کے متعدد خلفائے تھے جنہوں نے بڑھتی ہوئی سلسلے کی اس سلسلے کی اشاعت کی آپ کے خلفائے میں پیر سید حیدر علی شاہ جلال پوری، پیر سید بہر علی شاہ صاحب گولڑوی خاص طور پر بہت مشہور ہیں۔ آپ کے ایک خلیفہ سید محمد شاہ غزنوی نے خراسان کے علاقہ میں اس سلسلہ کو بہت پھیلا یا۔ آپ کے وصال کے بعد آپ کے صاحبزادہ خواجہ محمد الدین صاحب سیالوی سجادہ نشین ہوئے۔

حضرت ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ

بھیرہ شریف (ضلع سرگودھا) میں سلسلہ عالیہ نظامیہ کی بنیاد حضرت خواجہ شمس العارفین کے خلیفہ حضرت امیر السالکین پیر امیر شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے رکھی۔ ۱۹۲۵ء میں حضرت پیر محمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے جانشین ہوئے اور ۱۹۵۷ء میں حضرت ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ مندرجہ آرائے خلافت ہوئے۔ اپنے والد گرامی کے حسن تربیت کی بدولت قدیم وجدید اور ظاہری و باطنی علوم کے جامع ہوئے۔ حضرت خواجہ ضیاء الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے اور ان کے وصال کے بعد حضرت محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ سے تجدید بیعت کے بعد فرقہ خلافت حاصل کیا۔ ۱۹۵۷ء میں ارا العلوم محمدیہ غوثیہ کی نشاۃ ثانیہ فرمائی اور روحانی المزاج علماء کی ایک شیرکھامت تیار فرمائی آپ کے فیضان سے خانقاہی سلسلہ میں علمی دم توڑتی ہوتی روایت دوبارہ زندہ ہو گئی۔ آپ کی بھرپور کمال اور مکمل شخصیت کی وجہ سے سلسلہ تصوف کو وقار اور اعتماد حاصل ہوا۔ روحانیت میں رضائے الہی کا ہمہ دم خیال جناب رسول اللہ ﷺ کا احترام اور استقامت آپ کا نشان امتیاز ہے۔ کشف و کرامت کے انہماک سے ہمیشہ غفور ہے۔ فقرائے زمانہ نے آپ کی غوثیت اور مجددیت کو تسلیم کیا۔ نبی پاک ﷺ کی بارگاہ سے آپ کی قبولیت اور محبوبیت کے شواہد ہوتے آتے۔ بغضہ تجالیہ رضائے ربینہ تلامذہ، علم، روحانیت، خلوص اور محبت سے معمور تصانیف کی صورت میں آپ کا فیضان کائنات علم میں پھیل رہا ہے (عید قربان) ۱۰ ذوالحجہ ۱۳۱۹ھ (منگل بدھ) کی دو سانی رات وصال الہی سے شاد کام ہوئے۔

رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ هُوَ أَجْمَعِينَ

مُسَبَّحَاتِ عَشْرَہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

سب تعریفیں اللہ کے لئے جو مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے سارے جہانوں کا بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا

مَلِكِ یَوْمِ الدِّیْنِ ۝ اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَاِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ ۝

ملک ہے روز جزا کا تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ

چلا ہم کو سیدھے راستے پر راستہ ان کا جن پر تو نے انعام

عَلَيْهِمْ ۝ غَیْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَكَالضَّالِّیْنَ ۝ ۴ بار

فرمایا نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ گمراہوں کا (سات بار)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝ مَلِكِ النَّاسِ ۝ اِلٰهِ

اے حبیب! عرض کیجئے میں پناہ لیتا ہوں سب انسانوں کے پورے کار کی سب انسانوں کے پورے شاہ کی سب انسانوں کے

النَّاسِ ۝ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ۝ الَّذِينَ

میبود کی بار بار وسوسہ ڈالنے والے بار بار پسپا ہونے والے کے شر سے جو وسوسہ

يُوسِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ۝ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۝ ۱۰۰ بَار

ڈالتا رہتا ہے لوگوں کے دلوں میں خواہ وہ جنت میں سے ہو یا انسانوں سے (سات بار)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝ وَمِنْ

آپ عرض کیجئے میں پناہ لیتا ہوں صبح کے پردگاری کی ہر اس چیز کے شر سے جس کو اس نے پیدا کیا اور (خصوصاً)

شَرِّ عَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ۝ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ۝

رات کی تارکی سے جب وہ چھا جائے اور ان کے شر سے جو پھونکیں مارتی ہیں گڑبوں میں

وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ۝ ۱۰۱ بَار

اور اس پناہ مانگتا ہوں حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے (سات بار)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ

اے صبیح! فرمادیجئے وہ اللہ ہے کیا اللہ صمد ہے اس نے کسی کو جنم اور نہ وہ

يُؤَلَّدُ وَلَا يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝ ۷ بار

جنگا گیا اور نہ ہی اُس کا کوئی ہمسر ہے (سات بار)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكٰفِرُونَ ۝ لَا اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۝ وَلَا

آپ فرما دیجئے اے کافر! میں پرستش نہیں کیا کرتا ان بتوں کی جن کی تم پرستش کرتے ہو اور نہ ہی

اَنْتُمْ عِبِدُونَ مَا اَعْبُدُ ۝ وَلَا اَنَا عَابِدٌ مِّمَّكُمْ ۝

تم عبادت کرنے والے ہو اُس خدا کی جس کی میں عبادت کیا کرتا ہوں اور نہ ہی میں کبھی عبادت کرنے والا ہوں جن کی تم

وَلَا اَنْتُمْ عِبِدُونَ مَا اَعْبُدُ ۝ لَكُمْ دِیْنُكُمْ وَلِي دِیْنِ ۝ ۷ بار

پرستش کرنے والے ہو اور نہ تم اُس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کیا کرتا ہوں تم اپنے بے شمار بتوں سے اور مجھے میرے بتوں سے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے

اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۝ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا

مشغولہ کوئی عبادت کے وقت نہیں بغیر اُس کے زنجیر سے سب کو زندہ رکھے وہ ہے نہ اُس کو اور غم آتی ہے اور نہ

نَوْمٌ ۝ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ ۝ مَنْ ذَا الَّذِیْ

خیند اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے کون ہے جو

يَشْفَعُ عِنْدَ رَبِّهِ يُعَلِّمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ

سزا کر کے اس کے پاس بغیر اس کی اجازت کے جانتا ہے جو ان سے پہلے (جو پہلے) نور جو ان کے بعد (جو ان کے بعد) ہے

وَالْحَيُّونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ

اُورڈہ نہیں گھر کئے کسی چیز کو اس کے علم سے مگر جتنا وہ چاہے سارا کھا ہے اس کی کرسی نے

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ

آسمانوں اور زمین کو اور نہیں تھکانا اُسے زمین آسمان کی حفاظت اور وہی ہے سب بزرگ

الْعَظِيمُ ۝ لَا إِلَهَ إِلَّا فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ

عظمت والا کوئی زبردستی نہیں ہے دین میں بے شک بے شک واضح ہو گئی ہے ہدایت گمراہی

الْغَىِّ ۚ فَمَنْ يُكْفِرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ

سے توجہ انکار کرے شیطان کا اور ایمان لائے اللہ کے ساتھ تو اس نے

اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ

پکڑ لیا مضبوط حلقہ جو ٹوٹنے والا نہیں اور اللہ تعالیٰ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ

سب کو کھینچنے والا جاننے والا ہے اللہ اور وہ ہے ایمان والوں کا نکال لے جاتا ہے انہیں اندھیروں سے

إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ

نور کی طرف اور جنہوں نے کفر کیا ان کے ساتھی شیطان ہیں نکال لے جاتے ہیں

مَنْ التَّوَرَّأَ إِلَى الظُّلْمِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا

انہیں نور سے اندھیروں کی طرف یہی لوگ دوڑتی ہیں وہ اس میں

خِلْدَانٌ ○ بار

ہمیشہ رہنے والے ہیں (سات بار)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ

پاک ہے اللہ تعالیٰ ہر عیب سے، سب تعریفیں اللہ کے لئے، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ سب سے بڑے

وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ (سبع مرات)

نہیں گناہ سے بچنے کی طاقت اور نہ نیکی کی قوت مگر اللہ کی قوتوں سے جو برتر اور عظیم ہے۔ (سات مرتبہ پڑھے)

عَدَدَ مَا عَدَّ اللّٰهُ وَزِنَةَ مَا عَدَّ اللّٰهُ وَمِلَامَ مَا عَدَّ اللّٰهُ

بشموار اس کے جسے جانتا ہے اللہ تعالیٰ بمقدار اس کے جسے جانتا ہے اللہ تعالیٰ بہ پوری اس کے جسے جانتا ہے اللہ تعالیٰ

(ثلاثاً) تَبَرَّأْتُ مِنْ حَوْلِي وَقُوَّتِي وَالْجِبَاتِ إِلَى حَوْلِ اللّٰهِ

(تین مرتبہ پڑھے) برادرت کا انہما کرنا ہوں میں اپنی طاقت و قوت سے اور پناہ پکڑنا ہوں اللہ کی طاقت کے ساتھ

وَقُوَّتِي فِي جَمِيعِ أُمُورِي (مترۃ واحده)

اوداس کی قوت کے ساتھ اپنے تمام کاموں میں (ایک مرتبہ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَجِیْبِكَ وَ

اے اللہ! درود بھیج ہمارے آقا محمدؐ پر جو تیرے بندے، تیرے نبی، تیرے حبیب اور

رَسُولِكَ النَّبِيِّ الرَّحْمٰنِ وَعَلٰی اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ وَبَارِكْ

تیرے رسول ہیں نبی اُمتی ہیں اور آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر اور برکت دے

وَسَلِّمْ ۝ بار

اور سلام بھیج (سات مرتبہ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے

اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدِيْ وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَانِيْ

اے اللہ بخش دے مجھے اور میرے والدین کو اور رحم فرما ان پر جس طرح پالا تھا بہت مجھے

صَغِيْرًا وَاغْفِرِ اللّٰهُمَّ لِجَمِيْعِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ

جبکہ میں چھوٹا تھا بخش دے اے اللہ تمام مومن مردوں

وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمٰتِ الْاَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْاَمْوَاتِ

اور تمام مسلمان مردوں عورتوں کو جو زندہ ہیں ان سے اور جو مُردہ ہیں

بِرَحْمَتِكَ يَا رَحُومَ الرَّاحِمِينَ ○ (سبع مرتبات)

اپنی رحمت سے آسے ارحم الراحمین (سات مرتبہ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ○

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے

اللَّهُمَّ يَا رَبِّ افْعَلْ بِيْ وَبِهِمْ عَاجِلًا وَّاجِلًا فِي الدِّينِ

اے اللہ آسے میرے سب سلوک کر میرے ساتھ اور ان کے ساتھ جلدی اور آہستگی سے دین

وَالدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ مَا أَنْتَ لَهُ أَهْلٌ وَلَا تَفْعَلْ بِنَا يَا مَوْلَانَا

دُنیا اور آخرت میں ایسا سلوک جو تیری شان کے شایاں ہے اور نہ معاملہ کر جو ہائے ساتھ آئے ہائے مولیٰ

مَا نَحْنُ لَهُ أَهْلٌ إِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ جَوَادٌ كَرِيمٌ مَلِكٌ

جس کے ہم لائق ہیں بے شک تو بہت بخشنے والا ، علم والا ، سنی ، کریم ، بادشاہ ،

بِكْرَةٌ رَّعُوفٌ رَّحِيمٌ ○ (سات مرتبات) اللَّهُمَّ اهْدِنِيْ بِرَأْفَتِكَ يَا نَافِعُ

احسان کرنے والا ، بہت مہربان ، ہمیشہ غفر کرنے والا ہے (چوتھی) اے اللہ! ہدایت سے مجھے اپنی مہربانی سے آسے نفع دینے والے

وَرَافِعُ تَوْفَنِيْ مُسْلِمًا وَّالْحَقِّقِيْ بِالصُّلْحَيْنِ ○ (سبع مرتبات)

اوپر بلندی دینے والے وفات سے مجھے مسلمان بنا کر اور ملاوے مجھے نیکوں کے ساتھ (ساتھ مرتبہ)

يَا جَبَّارُ (احد او عشرون مرة)

اے قوتیوں کو جوڑنے والے (۲۱ مرتبہ)

هَذِهِ الْأَسْمَاءُ السَّبْعُ مِنْ أَوْرَادِ الشَّيْخِ عَبْدِ الْقَادِرِ

یہ سات اسماء حسنی حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے اوراد میں سے ہیں

الْجِبَالِي مَعَ تَوَجُّهَاتٍ

اور اس کے ساتھ ہی ان کی توجہات مذکور ہیں

آن حضرت پابندی سے ان کا ذکر فرمایا کرتے اور ہر اسم مبارک کے لئے خاص توجہ رقم فرمائی۔ اس توجہ کو اس اسم کے ایک سو بار یا پانچ سو بار ورد کرنے کے بعد پڑھا جاتا ہے اس کی برکتیں ظاہر اور عیاں ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے

الْإِسْمُ الْأَوَّلُ (پہلا نام) — لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

اسے ایک کھار پڑھنا چاہیے اور ایک سو بار پانچ سو بار پڑھنے کے بعد یہ توجہ یعنی چاہیے جو ایک بہترین دعا ہے

إِلَهِي أَظْهَرْ عَلَي ظَاهِرِي سُلْطَانَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ

إِلَهِي بِمِيرِ ظَاهِرِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَاغْلِبِ ظَاهِرِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ

إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحَقِّقْ بَاطِنِي بِحَقَائِقِ

إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَوْ مِيرِ بَاطِنِي بِحَقَائِقِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَاغْلِبِ بَاطِنِي بِحَقَائِقِ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَعْرِقْ

مُتَّحِقًا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَاغْلِبِ بَاطِنِي بِحَقَائِقِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَاغْلِبِ بَاطِنِي بِحَقَائِقِ

فِيكَ ظَاهِرِي بِحَاطَةِ لآلِهِ الْإِلَهِ الْإِلَهِ الْإِلَهِ

اصطلاح سے میرے ظاہر کو اپنی ذات میں مستغرق فرما لآلِ الْإِلَهِ الْإِلَهِ الْإِلَهِ الْإِلَهِ

لآلِ الْإِلَهِ الْإِلَهِ وَاحْفَظْنِي اللَّهُ بِكَ لَكَ فِي مَرَاتِبِ

لآلِ الْإِلَهِ الْإِلَهِ اور میری حفاظت فرما اے اللہ اپنے ساتھ اپنے لئے اپنے وجود

وَجُودِكَ وَشُهُودِكَ حَتَّى لَا أَشْهَدَ غَيْرَ أَعْمَالِكَ

اور شہود کے مراتب میں یہاں تک کہ نہ مشاہدہ کروں میں بجز تیرے اعمال

وَصِفَاتِكَ بِوَجْهِ الْحَقِّ الَّذِي لآلِ الْإِلَهِ الْإِلَهِ

اور صفات کے بجز مت اس پتھاری کے جو یہ ہے لآلِ الْإِلَهِ الْإِلَهِ الْإِلَهِ

الْإِلَهِ الْإِلَهِ الْإِلَهِ

الْإِلَهِ الْإِلَهِ الْإِلَهِ

الْإِسْمُ الثَّانِي (دوسرا اسم مبارک) — اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

یہ ایک لاکھ بار پڑھے اور اس کی توجیہ ہے۔ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ دُلْنِي بِكَ عَلَيْكَ وَارْزُقْنِي

اے اللہ اے اللہ اے اللہ راہنمائی فرما میری اپنے ذریعہ سے اپنی ذات کی طرف اور

الثَّبَاتَ عِنْدَ وَجُودِكَ مَا كُونُ مُتَدَابِّرِينَ

ثبیب فرما مجھے ثابت قدمی اپنے وجود کے حضور میں یہ کہ ہو جاؤں میں سراپا ادب تیری

نُورِ حَيَاتِكَ فِي حَيَاتِي يَا حَيُّ يَا حَيُّ يَا حَيُّ اَللهُمَّ اَحْيِ

کے نور کو میری زندگی میں ظاہر کر دے یا حئی یا حئی یا حئی اے الہی میری رُوح کو

رُوحِي حَيَاةً اَبَدِيَّةً وَ مَتَّعْ سِرِّي بِبِرِّكَ فِي الْحَضْرَاتِ

ابدی زندگی عطا فرما اور میرے راز کو اپنے سر نہاں سے اپنے شہود کی

الشُّهُودِيَّةِ وَ اَمْلَأْ قَلْبِي بِالْمَعَارِفِ الرَّبَّانِيَّةِ وَ اَطْلِقْ

بارگاہوں میں بہرہ مند فرما اور بھر دے میرے دل کو معارفِ ربانی سے اور میری زبان کو

لِسَانِي بِالْعُلُومِ الدِّينِيَّةِ يَا حَيُّ يَا حَيُّ يَا حَيُّ

علومِ دینیہ کے ساتھ گویا فرما دے یا حئی یا حئی یا حئی

اَلْاِسْوَالِ الرَّابِعُ (چوتھا اسمِ مبارک) وَاِحِدٌ وَاِحِدٌ وَاِحِدٌ

یہ بھی ایک کھ بار ورد کرنا چاہیے سوم تہ یا پانچ سوم تہ ورد کرنے کے بعد یہ توجہ (دُعا) پڑھنی چاہیے۔

يَا وَاِحِدٌ يَا وَاِحِدٌ يَا وَاِحِدٌ اَجْعَلْنِي مُوَحِّدًا بِنُورِ

اے واحد اے واحد اے واحد بنا دے مجھے توحید والوں سے اپنی

وَ حِدَانِيَّتِكَ مُوَيِّدًا بِشُهُودِ فِرْدَاوَسِيَّتِكَ يَا وَاِحِدٌ

وحدانیت کے نور کے ساتھ اور میری مدد فرما اپنی یکتائی کے شہود سے یا واحد

يَا وَاِحِدٌ يَا وَاِحِدٌ اَللهُمَّ اَنْتَ الْمُتَّوَحِّدُ فِي ذَاتِكَ

یا واحد یا واحد اے اللہ تو ہی واحد ہے اپنی ذات میں

بِالْوَهِيَّتِكَ يَا وَاحِدٌ يَا وَاحِدٌ يَا وَاحِدٌ

اپنی الوہیت کے ساتھ یا واحد یا واحد یا واحد

الْاِسْمُ الْخَامِسُ (پانچواں اسم مبارک) عَزِيْزٌ عَزِيْزٌ عَزِيْزٌ

اس کا مکمل وظیفہ ایک لاکھ بار ہے اور اس کی توجہ (دُعا) یہ ہے۔

يَا عَزِيْزُ يَا عَزِيْزُ يَا عَزِيْزُ اجْعَلْنِيْ بِعِزَّتِكَ بَيْنَ

یا عزیز یا عزیز یا عزیز کر دے مجھے اپنی عزت کے ساتھ ان معززین میں

الْاَعَزِيْنَ بَيْنَ يَدَيْكَ يَا عَزِيْزُ يَا عَزِيْزُ يَا عَزِيْزُ

سے جو تیری جناب میں معزز ہیں یا عزیز یا عزیز یا عزیز

اسْتَعْمِلْنِيْ بِاَعْمَالِ الْاَعَزِيْنَ لَدَيْكَ يَا عَزِيْزُ

اور مجھے ان لوگوں کے اعمال کی توفیق بخش جو تیری بارگاہ میں معزز ہیں یا عزیز

يَا عَزِيْزُ يَا عَزِيْزُ اَللّٰهُمَّ اَعِزَّنِيْ بِعِزَّتِكَ يَا عَزِيْزُ يَا عَزِيْزُ

یا عزیز یا عزیز اے اللہ اپنی عزت کے ساتھ مجھے عزت عطا فرما یا عزیز یا عزیز

يَا عَزِيْزُ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنْ عِبَادِكَ الْاَعَزِيْنَ

یا عزیز اے اللہ بنا دے مجھے اپنے بندوں میں سے جو معزز ہیں

يَا عَزِيْزُ يَا عَزِيْزُ يَا عَزِيْزُ

یا عزیز یا عزیز یا عزیز

الْإِسْوَالِ السَّادِسُ (چھواں مبارک) وَهَابُ وَهَابُ وَهَابُ

اس کا درجہ بھی ایک لکھ بار ہے۔ ہر سو یا پانچ سو بار کے بعد اس کی مخصوص توجہ (دعا کرے)

يَا وَهَابُ يَا وَهَابُ يَا وَهَابُ هَبْ لِي مِنْ جَزِيلٍ

اے بلند بخشنے والے اے بلند بخشنے والے اے بلند بخشنے والے عطا فرما مجھے اپنے بہترین عطیات سے

هَبَاتِكَ مَا يَبْلُغُنِي إِلَى مَرْضِيَّتِكَ يَا وَهَابُ يَا

جو پہنچا دے مجھے تیری خوشنودیوں کی طرف اے بلند بخشنے والے اے

وَهَابُ يَا وَهَابُ إِلَهِي هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً

بلند بخشنے والے اے بلند بخشنے والے اے اللہ عطا فرما مجھے اپنی بارگاہ سے رحمت

إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ يَا وَهَابُ يَا وَهَابُ يَا وَهَابُ

بے شک تو ہی حساب عطا فرمانے والا ہے یا وہاب یا وہاب یا وہاب

إِلَهِي يَا وَهَابَ الْأَسْرَارِ هَبْ لِي مِنْ أَسْرَارِكَ فَيْضًا

اے رازوں کے عطا فرمانے والے عطا فرما مجھے اپنے رازوں سے ایسا فیض بخش

بِمَجْعَلِنِي بِهِ دَائِمًا مُسْتَحْفَظًا بِمَوَاهِبِكَ يَا وَهَابُ

کر بنا دے تو مجھے اس کے ساتھ ہمیشہ حفاظت کرنے والا اپنے عطیات کا یا وہاب

يَا وَهَابُ يَا وَهَابُ اللَّهُمَّ حَقِّقْنِي بِمَوَاهِبِ

یا وہاب یا وہاب اے اللہ متحقق کر دے مجھے

حَقِيقَةُ حَقِيقَتِكَ يَا وَهَّابُ يَا وَهَّابُ يَا وَهَّابُ

اپنی حقیقت کی حقیقت کے عطیات کے ساتھ یا وہاب یا وہاب یا وہاب

إِلَهِي كُونِي شَاهِدًا عَلَيَّ بِالْإِفْتِقَارِ إِلَى غِنَاكَ الْمُطْلَقِ

اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں اپنی ذات پر کہ میں محتاج ہوں تیری غنا کی طرف جو مطلق اور

الْكَامِلِ بِالذَّاتِ فَأَمِّنْ عَلَى عَبْدِكَ الضَّعِيفِ

کامل بالذات ہے پس احسان فرما اپنے کمزور بندے پر

بِعَنِّي أَكُونُ بِهِ غَنِيًّا مُغْنِيًّا مَنْ شَدَّتْ غِنَاهُ بِوَصْفِ

اپنی غنا کیساتھ تاکہ میں اس کے ساتھ بھی غنی ہو جاؤں اور دوسروں کو بھی غنی کر دوں جس کو غنی کرنے کا تو ارادہ

الْفَقْرِ بَيْنَ يَدَيْكَ أَنْتَ الْغَنِيُّ الْوَهَّابُ يَا وَهَّابُ

فرمائے اور میں تیری بارگاہ میں وضع فقر سے تصف ہوں تو ہی غنی ہے اور بہت بخشنے والا ہے یا وہاب

يَا وَهَّابُ يَا وَهَّابُ

یا وہاب یا وہاب

الْإِسْمُ السَّابِعُ (ساتواں اسم مبارک) وَدُودٌ وَدُودٌ وَدُودٌ

اس کے ذمیفہ کی تعداد بھی ایک کہ ہے سو بار یا پانچ سو بار اس اسم کا ورد کرنے کے بعد یہ خاص توجہ (دعا) پڑھئے

يَا وَدُودٌ يَا وَدُودٌ يَا وَدُودٌ اجْعَلْ قَلْبِي وَادًّا لَكَ يَا وَدُودٌ

میں بہت محبت کرنے والے یا ودود یا ودود بنا دے دل کو کہ محبت کرنے لگے تجھ سے یا ودود

يَا دُوْدُ يَا دُوْدُ اَللّٰهُ اَعْطِنِيْ وَدِّ اِنِّيْ قَلُوْبِ عِبَادِكَ

یا دودو یا دودو آے اللہ میری محبت اپنے مومن بندوں کے دلوں میں

اَلْمَوْمِنِيْنَ يَا دُوْدُ يَا دُوْدُ اَللّٰهُ اَلْكَفِيْ سَرِّ

ڈال دے یا دودو یا دودو یا دودو آے میرے اللہ مجھے اس شخص کے

مَنْ كَفَايْتَهُ بِسِدِّكَ يَا دُوْدُ يَا دُوْدُ يَا دُوْدُ

شر سے بچا جس کے شر سے بچانا تیرے دستِ قدرت میں ہے یا دودو یا دودو یا دودو

تمام شد صفات الاسماء



دُعَاةٌ سُنَّتِ عَصْرُ

دُعَاةٌ سُنَّتِ عَصْرُ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے

يَا اَدَامُ الْفَضْلُ عَلَي الْبَرِيَّةِ يَا بَاسِطَ الْيَدَيْنِ بِالْعُطِيَّةِ وَيَا

اے اپنی مخلوق پر ہمیشہ فضل فرمانے والے اے اپنے انعامات کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھ پھیلانے والے

صَاحِبَ الْمَوَاهِبِ السَّنِيَّةِ وَيَا دَافِعَ الْبَلَاءِ وَالْبَلِيَّةِ صَلِّ

شاندار مہربانیوں کے مالک اے آزمائش اور مصیبتوں کے ڈر کرنے والے درود صحیح

عَلَى مُحَمَّدٍ خَيْرِ الْوَرَى السَّجِيَّةِ وَعَلَىٰ اٰلِ الْبِرَّةِ النَّقِيَّةِ

(اپنے حبیب) محمد پر جو تمام مخلوقات سے بہترین ہیں اور آپ کی آل پر جو نیک اور پاک ہیں

وَاعْفِرْ لَنَا يَا ذَا الْهُدَىٰ لَعَلَّ فِي هَذَا الْعَصْرِ وَالْعَسِيَّةِ رَبَّنَا

اور بخش دے ہمارے لئے اے بلند ہدایت کے مالک اس عصر اور دشمنی کے وقت میں اے ہمارے رب

تَوْفِقْنَا مُسْلِمِينَ وَالْحَقْنَ بِالصَّالِحِينَ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ

وفات دے ہمیں اس حال میں کہ ہم مسلمان ہوں ملائے ہمیں نیکوں کے ساتھ درود صحیح (اپنے حبیب) محمد پر

وَعَلَىٰ اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

اور آپ کی آل پر آپ کے تمام اصحاب پر اپنی رحمت سے یا ارحم الراحمین

دُرُودِ كِبْرِيَّتِ أَحْمَرَ شَرِيفٍ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے

اللَّهُمَّ اجْعَلْ أَفْضَلَ صَلَوَاتِكَ عِدَّةً أَوْ أُنْسِي

اے اللہ! عدد کے لحاظ سے تیرے بہترین دُرُود ہمیشہ رہنے

بَرَكَاتِكَ سَرْمَدًا، وَأَزْكِ تَحِيَّاتِكَ فَضْلًا وَمَدَدًا

والی تیری روز افزوں برکتیں فضل و مدد کے اعتبار سے تیرے پاکیزہ سلام

عَلَى أَشْرَفِ الْحَقَائِقِ الْإِنْسَانِيَّةِ وَمَعْدِنِ

اُس ذاتِ اقدس پر ہوں جو حقائقِ انسانیت میں سے اشرن ترین، ایسان کی

الدَّقَائِقِ الْإِيمَانِيَّةِ وَطُورِ التَّجَلِّيَّاتِ الْإِحْسَانِيَّةِ

لطفوں کا معدن تجلیاتِ احسانیت کا کوہِ طور

وَمَهَبِطِ الْأَسْرَارِ الرَّحْمَانِيَّةِ وَوَأَسْطَةِ عِقْدِ

اسرارِ رحمانیت کے نزول کا مقام جو انبیاء کے بار کا

النَّبِيِّينَ وَمُقَدَّمَةَ جَيْشِ الْمُرْسَلِينَ وَأَفْضَلَ

درمیانی موتی جو رسولوں کے لشکر کا پیش رو اور ہر نوع

الْخَلَائِقِ أَجْمَعِينَ ۝ حَامِلِ لَوَاءِ الْعِزِّ الْأَعْلَى

کی تمام مخلوق سے افضل ہے جو اعلیٰ عزت کا علم بردار ہے

وَمَالِكِ أَرْمَةِ الشَّرَفِ الْأَسْنَى شَاهِدِ اسْرَارِ الْأَزَلِ

جو بلند ترین بزرگی کی باگوں کا مالک ہے ازل کے اسرار کا گواہ

وَمُشَاهِدِ انْوَارِ السَّابِقِ الْأَوَّلِ وَتَرْجَمَانِ لِسَانِ

اور اولین انوار کا مشاہدہ کرنے والا ہے جو قدم و دوام کی زبان کا

الْقَدَمِ وَمَنْبَعِ الْعِلْمِ وَالْحِلْمِ وَالْحِكْمِ وَمُظْهِرِ سِرِّ

سچا ترجمان ہے جو علم، حلم اور حکمتوں کا سرچشمہ ہے جو جُزئی

الْجُودِ الْجُزْئِيِّ وَالْكُلِّيِّ وَانْسَانِ عَيْنِ الْوُجُودِ الْعُلُويِّ

اور کئی سخاوتوں کے راز کا مظہر ہے جو علوی اور سفلی موجودات کی آنکھ کی

وَالسَّفَلِيِّ وَرُوحِ جَسَدِ الْكُونِيِّنَ وَعَيْسِ حَيَاتِ

پتلی ہے جو کونین کے وجود کی رُوح ہے جو دارین کی زندگی کا چشمہ

الدَّارَيْنِ الْمُتَخَلِّقِ بِأَعْلَى رُتَبِ الْعُبُودِيَّةِ الْمُتَحَقِّقِ

ہے جو بندگی کے اعلیٰ ترین مراتب سے متعصّف ہے جو ربوبیت

بِأَسْرَارِ الرُّبُوبِيَّةِ ○ صَاحِبِ الْمَقَامَاتِ الْإِصْطِفَائِيَّةِ

کے اسرار سے مزین ہے جو منتخب شدہ مقامات اور

وَالْكَرَامَاتِ الْإِذْتِصَابِيَّةِ سَيِّدِ الْأَسْرَافِ وَجَامِعِ

پسندیدہ عزت افزائیوں کا مالک ہے جو سارے بزرگوں کا سردار اور جملہ

الْأَوْصَافِ الْخَلِيلِ الْأَعْظَمِ وَالْحَبِيبِ الْأَكْرَمِ

اوصاف کمال کا جامع ہے جو (اپنے رب کا) بخلیل اعظم اور محبوب مکرم ہے

الْمَخْصُوصِ بِأَعْلَى الْمَرَاتِبِ وَالْمَقَامَاتِ وَالْمُؤَيَّدِ

بلند ترین مراتب اور مقامات جس کے لئے مخصوص کر دیئے گئے ہیں جس کی تائید

بِأَوْصَافِ الْبُرَاهِينِ وَالذَّلَالَاتِ الْمَنْصُورِ بِالرُّعْبِ

روشن دلائل اور شواہد سے کی گئی ہے جس کو رُعب اور معجزات سے غالب اور

وَالْمُعْجَزَاتِ ○ وَالْجَوْهَرِ الشَّرِيفِ الْإِبْدِيِّ وَالنُّورِ

منصور بنایا گیا ہے سارے درود و سلام ہوں عز و شرف والے ابدی موتی

الْقَدِيمِ مُحَمَّدِي السَّرْمَدِيِّ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا

اور نور قدیم محمدی پر جو سرمدی ہے (یعنی) ہمارے سردار اور آقا

مُحَمَّدِ الْمَحْمُودِ فِي الْإِبْجَادِ وَالْوُجُودِ الْفَاتِحِ لِكُلِّ

محمد پر جو مقام ایجاد و وجود میں محمود (یعنی ستائش کئے گئے) ہیں۔ ہر شاہد اور مشہود

شَاهِدٌ وَمَشْهُودٌ وَحَضْرَتِ الْمَشَاهِدَةِ وَالشُّهُودِ

کے لئے درجعت کھولنے والے ہیں مشاہدہ اور شہود کی بارگاہ ہیں

نُورِ كُلِّ شَيْءٍ وَوَهْدُهُ وَسِرِّ كُلِّ سِرٍّ وَسَنَاةُ الَّذِي

ہر شے کی حقیقت اور اُس کے لئے نُورِ ہدایت ہیں ہر راز کا ستر نہاں اور اُس کی ایسی

سَقِّتٌ مِنْهُ الْأَسْرَارُ وَأَنْفَلَقَتْ مِنْهُ الْأَنْوَارُ

چمک جس سے رازوں کے پردے چاک کئے گئے ہیں جس سے ہر قسم کے نور ظہور پذیر ہوئے ہیں

السِّرِّ الْبَاطِنِ وَالنُّورِ الظَّاهِرِ السَّيِّدِ الْكَامِلِ لِفَاتِحِ

رازِ نہاں ، نُورِ عیاں سب کا آقا، ہر لمحے سے کامل، مَنجِ نِعْمَتِ کھولنے والا،

الْخَاتَمِ الْأَوَّلِ الْأَخِيرِ الْبَاطِنِ الظَّاهِرِ الْعَاقِبِ

سلسلہ نبوت کا خاتمہ خاتمِ حق میں سب سے اول، ظہور میں سب سے آخر، (مکملہ غرض) مخفی (مکملہ) و عقیقہ پر آشکار، سب سے پہلے

الْحَاشِرِ النَّاهِي الْأَمْرِ النَّاصِحِ النَّاصِرِ الصَّابِرِ

مُؤَمَّرِ صِدْقِ مَن حَشَرَ بِكَرْنِيهِ الْإِبْرَاهِيمَ سَخَّرَ كَرْنِيهِ الْيَسْمَعَ كَأَعْيُنِيهِ الْوَيْصِيَّتِ كَرْنِيهِ الْوَالِدِ الْوَالِدِ الْوَالِدِ

السَّائِرِ الْقَانِتِ الذَّاكِرِ الْمَاحِي الْمَاجِدِ الْعَزِيزِ

شکر کرنے والا، فرط نیاز سے بچنے والا، ہر لحظہ اپنے سب کو یاد کرنے والا، ہر جمل کو مٹانے والا، بہت بزرگ، بڑی عزت والا،

الْحَامِدِ الْمُؤْمِنِ الْعَابِدِ الْمُتَوَكِّلِ الزَّاهِدِ الْقَائِمِ

اپنے حق کی حمد کرنے والا، اس پر ایمان لےنے والا، عبادت گزار اپنے سب پر مومن کرنے والا، تڑپتی تڑپتی سے وسیع کرنے والا، ہر لمحہ اپنے حق کو یاد کرنے والا،

القَاعِدِ الرَّائِعِ السَّاجِدِ التَّابِعِ الشَّهِيدِ الوَلِيِّ

بیشے والا، رکوع اور سجدہ کرنے والا، اُس کا ہر علم ماننے والا، گواہی دینے والا، مددگار،

الحَمِيدِ الْبُرْهَانَ الْحُجَّةِ الْمُطَاعِ الْمُخْتَارِ

خوبیوں سراب، توحید باری کی بُرہان، دلیل قاطع، ساری کائنات کا مخدوم، صاحب اختیار،

الْخَاضِعِ الْخَاشِعِ الْبَرِّ الْمُسْتَنْصِرِ الْحَقِّ الْمُبِينِ

بارگاہِ الہی میں عاجزی کرنے والا، سچھکانے والا، نیکوکار، شہرت طلب کرنے والا، سزا یافتہ، سچ خاہر کرنے والا،

طَهُ وَنِيسِ الْمُرْمِلِ الْمُدَّثِرِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ

پردہ پوش کا چاند، رسولوں کا سردار، کبیل پوش، چادر اوڑھنے والا، سب رسولوں کا سردار،

وَأَمَامِ الْمُتَّقِينَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّينَ وَجَبِيْبِ رَبِّ

تمام متقیوں کا امام، خاتمِ النبیین، حبیبِ رب

الْعَالَمِينَ النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى وَالرَّسُولِ الْمُجْتَبَى الْحَكِيمِ

عالمین، چننا ہوا نبی، چننا ہوا رسول، فیصلہ کرنے والا،

الْعَدْلِ اللَّطِيفِ الْخَبِيرِ الْحَكِيمِ الْعَلِيمِ الْعَزِيزِ

عدل کرنے والا، لطف فرمانے والا، (اسرارِ حیات) باخبر، بہت فرزاند، وسیع علم والا، دائمی عزت والا،

الرَّعُوْفِ الرَّحِيمِ الْغَفُوْرِ الشَّكُوْرِ الْعَلِيِّ الْكَرِيْمِ

بڑا مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا، بہت پردہ پوش، بڑا قدر دان، بہت بلند، بڑا کریم،

نُورِكَ الْقَدِيوِ وَصِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ مُحَمَّدٍ

تیرا نور قدیم ، تیری طرف لے جانے والا سیدھا راستہ جس کا نام نامی محمد ہے

عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَصَفِيكَ وَخَلِيكَ وَجَبِيكَ

تیرا بندہ ، تیرا رسول ، تیرا چنا ہوا ، تیرا خلیل ، تیرا حبیب ،

وَوَلِيِّكَ وَنَبِيِّكَ وَآمِينِكَ وَدَلِيلِكَ وَنَجِيكَ

تیرا دوست ، تیرا نبی ، (تیرے اسرار کا) امین ، تیری طرف رہنما ، تیرا ہمدراز ،

وَمُحِبِّكَ وَذَخِيرَتِكَ وَخَيْرَتِكَ وَامَامِ الْخَيْرِ

تیرا پسندیدہ تیری رحمت کا سرمایہ ، تیرا برگزیدہ ، ہر کارِ خیر میں پیشوا ،

وَقَائِدِ الْخَيْرِ وَرَسُولِ الرَّحْمَةِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ

ہر کارِ خیر میں رہنما ، رحمت والا رسول ، نبی ، اُمّی ،

الْعَرَبِيِّ الْقُرَشِيِّ الْهَاشِمِيِّ الْأَبْطَحِيِّ الْمَكِّيِّ

عربی ، قریشی ، ہاشمی ، ابطلی ، مکی ،

الْمَدَنِيِّ الْتِهَامِيِّ الشَّاهِدِ الْمَشْهُودِ الْوَلِيِّ الْمُقَرَّبِ

مدنی ، تہامی ، ہر سچائی کا گواہ جس کی گواہی کی تو نے صدیق کی ، (تیرا) دوست

الْعَبْدِ الْمَسْعُودِ الْحَبِيبِ الشَّفِيعِ الْحَسِيدِ

المقرب ، تیرا بندہ سعادت مند ، تیرا حبیب ، گنہگاروں کا شفیع ، عالی حسب ،

الرَّفِيعِ الْمَلِيحِ الْبَدِيعِ الْوَاعِظِ الْبَشِيرِ النَّذِيرِ

بہت اُدنچا، دلربا، بے مثال حسین، وعظ فرماتے والا خوشخبری دینے والا بروقت

الْعُطُوفِ الْحَلِيْمِ الْجَوَادِ الْكَرِيْمِ الطَّيِّبِ الْمُبَارَكِ

متنبہ کرنے والا، بہت مہربان، بردبار، سخی، کریم، پاک، سراپا برکت،

الْمَكِيْنِ الصَّادِقِ الْمُصْذَوِّقِ الْاٰمِيْنِ الدَّاعِي

راہق پر شایستہ قدم، سچا، جس کی سچائی تسلیم کی گئی ہے، امین، تیری توفیق سے تیری طرف

الَّذِي يٰ اذْنِكَ السِّرَاجُ الْمُنِيرُ الَّذِي اَدْرَكَ

بلانے والا، وہ روشن آفتاب جس نے احاطہ کر لیا

الْحَقَائِقَ بِجُمَّتِهَا وَفَاذْوَاقَ الْخَلَائِقِ بِرُمَّتِهَا

حقیقتوں کا اور کامیاب ہو گیا اور ہر نوع کی مخلوق پر فوقیت لے گیا

وَجَعَلْتَهُ حَبِيْبًا وَنَاجِيْتَهُ قَرِيْبًا وَاَدْنَيْتَهُ رَقِيْبًا

اور جس کو تو نے اپنا حبیب بنا یا جس کو اپنے قریب بلا کر راز کی باتیں کیں جسے اپنے نزدیک کر کے تمہارا بنا یا

وَحَخَمْتُمْ بِهٖ الرِّسَالَةَ وَالذَّلٰلَةَ وَالْبُسْرٰةَ وَالنَّذٰرَةَ

جس کی آمد پر تو نے رسالت، دلالت، بشارت، نذارت

وَالنَّبُوۡةَ وَنَصْرَتَهُ بِالرُّعْبِ وَظَلَمْتَهُ بِالسُّحْبِ

اور نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا، رعب عطا کر کے تو نے اس کی نصرت فرمائی، بالمول سے تو نے اس پر سایہ کیا

وَرَدَدَتْ لَهٗ الشَّمْسُ وَشَقَقَتْ لَهٗ الْقَمَرَ وَاَنْطَقَتْ

سایہ کیا، ڈوبے ہوئے سورج کو تو نے اُس کے لئے لوٹایا، اُس کے لئے چاند کا سینہ شق کیا، اُس کے

لَهٗ الضَّبَّ وَالظَّبْيَ وَالذَّبَّ وَالْجَدْعَ وَالذَّرَاعَ

لئے گوہ (ضب)، ہرن، بھیڑیے، خشک کھجور کے ٹڈھ، بگری کے بھنے ہوئے بازو،

وَالْجَمَلَ وَالْجَبَلَ وَالْمَدْرَ وَالشَّجَرَ وَالْحَجَرَ

اُونٹ، پہاڑ، مٹی کے ڈھیلے، درخت اور پتھر کو تو نے گویا کیا

وَاَنْبَعَتْ مِنْ اَصْبَاعِهِ الْمَاءُ الزُّلَّالَ وَاَنْزَلَتْ

جس کی انگلیوں سے تو نے بیٹھا پانی جاری کیا، خشک سالی

مِنَ الْمُرْنِ يَدْعُوْتِهٖ فِي عَامِ الْمَحْلِ وَالْجَدْبِ

اور قحط کے زمانہ میں جس کی دعا سے تو نے بادلوں سے

وَاِبِلَ الْغَيْثِ وَالْمَطْرِ فَاَعْسَوْسَبَ مِنْهُ الْقَفْرُ

موسلا دھار بیٹھ برسایا پس چٹیل میدان،

وَالصَّخْرَ وَالْوَعْرَ وَالسَّهْلَ وَالرَّمْلَ وَالْحَجَرَ

چٹانیں، پتھر بے علاقے، ہموار میدان، ریگستان، پتھر اور مٹی کے ٹیلے سرسبز

وَالْمَدْرَ وَاَسْرَيْتَ بِهٖ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

شاہاب ہو گئے اور تو نے رات کے وقت اُسے مسجد حرام سے

إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى إِلَى السَّمَوَاتِ الْعُلَى إِلَى

مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی، وہاں سے بلند آسمانوں تک وہاں سے

سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى إِلَى قَابِ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ وَ

سدرة المنتہیٰ تک، وہاں سے مقام قاب قوسین تک بلکہ اس سے بھی قریب

أَرَبِّتَهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ وَأَنْتَهُ الْغَايَةُ الْقُصْوَىٰ

کیا اور تو نے اسے اپنی سب سے بڑی نشانی دکھائی اور انتہائی بلند مرتبہ پر فائز کیا

وَأَكْرَمْتَهُ بِالْمُخَاطَبَةِ وَالْمُرَاقَبَةِ وَالْمُشَافَهَةِ

نیز اپنے خطاب، مراقبہ، رُؤ بَرُؤ گفتگو،

وَالْمُشَاهَدَةِ وَالْمُعَايَنَةَ بِالْبُصْرِ ۝ وَخَصَّصْتَهُ

مشاہدہ اور چشمِ ظاہر سے اپنے دیدار کا شرف بخشا تو نے اُس کے لئے

بِالْوَسِيلَةِ الْعُظْمَىٰ وَالشَّفَاعَةَ الْكُبْرَىٰ يَوْمَ الْفِرْعَ الْأَكْبَرِ

وسیلہ عظمیٰ اور شفاعت کبریٰ کے منصبِ جلیل کو مقرر کے دن کے لئے

فِي الْمَحْشَرِ ۝ وَجَمَعْتَ لَهُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَجَوَاهِرَ

مخصوص فرما دیا جو بڑی گھبراہٹ اور اضطراب کا دن ہوگا اور تو نے اُس کے لئے کلام کی

الْحِكْمِ وَجَعَلْتَ أُمَّتَهُ خَيْرَ الْأُمَمِ وَغَفَرْتَ لَهُ مَا

جامعیت و بلاغت کے ساتھ معافی کے تانہہ موتیوں کو بھی جمع کر دیا ان کی اُمت کو تو نے خیر الائمہ بنایا

تَقَدَّرَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ ۝ الَّذِي بَلَغَ الرِّسَالَةَ

اور ہم انکے اگلے کھلے گناہوں سے اپنی حفاظت میں لے لیا وہ جس نے تیرا پیغام پہنچایا،

وَأَدَّى الْأَمَانَةَ وَنَصَحَ الْأُمَّةَ وَكَشَفَ الْغُمَّةَ وَ

امانت کا حق ادا کر دیا، اُمت کو نصیحت کی، تکلیف کو دور کیا،

وَجَلَّى الظُّلْمَةَ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَعَبَدَ رَبَّهُ

تاریکی کو روشن کیا اور راہِ حق میں جہاد کیا اور تادمِ واپس

حَتَّى أَنَّهُ الْيَقِينُ ۝ اللَّهُمَّ ائْتِنَا بِمَقَامِ مُحَمَّدًا

اپنے رب کی عبادت کرتا رہا اے اللہ! انہیں مقامِ محمود پر فائز فرما

يَغْبِطُهُ فِيهِ الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ ۝ اللَّهُمَّ عَظِّمُهُ

تاکہ اگلے اور پچھلے سارے اُن کے ساتھ رشک کریں اے اللہ! تو اُن کے

فِي الدُّنْيَا بِأَعْلَى ذِكْرِهِ وَإِظْهَارِ دِينِهِ وَإِبْقَاءِ شَرِيْعَتِهِ

ذکر کو بلند کر کے اُن کے دین کو غلبہ دے کر اور اُن کی شریعت کو تابہائی رکھ کر انہیں دُنیا میں عظیم اور اُنی فرما

وَفِي الْآخِرَةِ بِشَفَاعَتِهِ فِي أُمَّتِهِ وَأَجْزَلُ أَجْرَهُ

اور آخرت میں اُمت کے لیے میں اُن کی شفاعت قبول کر کے ان کی شان کو بلند کر، ان کو بہت سے اجر

وَمَثُوبَتَهُ وَأَبَدُ فَضْلِهِ لِلأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ

اور ثواب رحمت فرما، مقامِ محمود پر ان کے فضل کو اولین اور آخرین

بِالْمَقَامِ الْحَمُودِ وَتَقْدِيمَهُ عَلَى كَافَّةِ الْمُقَرَّبِينَ

کے لئے آشکارا کر دے نیز تمام مقربین بالشہود پر ان کو

بِالشَّهَادَةِ ۝ اللَّهُ تَقْبَلُ شَفَاعَتَهُ الْكُبْرَى وَارْفَعُ

مقام کر اے اللہ ان کی شفاعت کبریٰ کو قبول فرما اور ان کے

دَرَجَتَهُ الْعُلْيَا وَأَعْطِهِ سُؤْلَهُ فِي الْآخِرَةِ وَالْأُولَى

درجے کو مزید بلند فرما نیز آخرت اور دنیا میں جو کچھ انہوں نے مانگا ہے انہیں عطا فرما

كَمَا أَعْطَيْتَ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى ۝ اللَّهُ اجْعَلْهُ

جس طرح تو نے (اپنے خلیل) ابراہیم اور (اپنے کلیم) موسیٰ کو عطا فرمایا تھا اے اللہ! تو انہیں ان

مِنْ أَكْرَمِ عِبَادِكَ عَلَيْكَ شَرَفًا وَكَرَامَةً وَمِنْ

بندوں میں سے کہ جو شرف و کرامت کے لحاظ سے تیری بارگاہ میں بڑے معزز اور محترم ہیں

أَرْفَعِهِمْ عِنْدَكَ دَرَجَةً وَمِنْ أَعْظَمِهِمْ عِنْدَكَ

اور جن کا درجہ تیری جناب میں بہت اونچا ہے اور جن کی تیرے نزدیک بڑی

خَطْرًا وَمِنْ أَمْكِنِهِمْ عِنْدَكَ شَفَاعَةً ۝ اللَّهُمَّ

قدر و منزلت ہے اور جن کی شفاعت تیری بارگاہ میں بڑی قوی ہے اے اللہ!

عَظْمُ بُرْهَانِهِ وَأَفْلَحُ مِحَّتِهِ وَأَبْلَغُهُ مَأْمُولِهِ فِي

ان کی دلیل کو عظمت بخش اور ان کی محنت کو روشن فرما اور اپنے اہل بیت اور اپنی اولاد

أَهْلَ بَيْتِهِ وَذُرِّيَّتِهِ اللَّهُمَّ اتَّبِعْهُ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ

کے بارے میں آپ کی آرزو کو پورا فرما اے اللہ! آپ کی اولاد اور آپ کی امت کو

وَأُمَّتِهِ مَا تَقْرِيهِ عَيْنُهُ وَأَجْرُهُ عَنَّا خَيْرَ مَا

آپ کی پیروی نصیب فرما جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں ہر نبی کو اپنی امت کی طرف سے

جَزَيْتَ بِهِ نَبِيًّا عَنْ أُمَّتِهِ وَأَجْرُ الْأَنْبِيَاءِ كُلِّهِمْ

جو جزا تو نے دی ہے ہم غلاموں کی طرف سے ہمارے آقا کو اس سے بھی بہتر ان جزا عطا فرما اور جملہ

خَيْرًا ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

انبیاء کو جو خیر ہے اے اللہ! صلوات و سلام بھیج ہمارے آقا محمد پر اتنی تعداد میں

عَدَدَ مَا شَهِدَتْهُ الْأَبْصَارُ وَسَمِعَتْهُ الْأَذَانُ

جتنی آنکھوں نے آپ (کے رُخِ انور) کو دیکھا اور جتنے کانوں نے (آپ کا کلام) سنا۔

وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ عَدَدَ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ وَصَلِّ

آپ پر صلوات و سلام بھیج اتنی تعداد میں جتنے لوگوں نے آپ پر دُرُود

وَسَلِّمْ عَلَيْهِ عَدَدَ مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ وَصَلِّ وَسَلِّمْ

بھیجا آپ پر صلوات و سلام بھیج اتنی تعداد میں جتنے لوگوں نے آپ پر دُرُود نہیں بھیجا

عَلَيْهِ كَمَا تَحِبُّ وَتَرْضَى أَنْ يُصَلِّ عَلَيْهِ وَصَلِّ

آپ پر صلوات و سلام بھیج جس طرح تو پسند کرتا ہے اور راضی ہوتا ہے کہ آپ پر دُرُود بھیجا جائے

وَسَلِّمْ عَلَيْهِ كَمَا مَرَّتَانِ تُصَلِّي عَلَيْهِ وَصَلِّ

آپ پر صلاۃ و سلام بھیج جس طرح تو نے حکم دیا ہے کہ ہم آپ پر دُرُود بھیجیں آپ پر

وَسَلِّمْ عَلَيْهِ كَمَا يَنْبَغِي أَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ يَا اللَّهُمَّ

صلاۃ و سلام بھیج جس طرح آپ پر دُرُود بھیجنا آپ کی شایان شان ہے اے اللہ!

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ عَدَدَ نِعْمَاتِ اللَّهِ تَعَالَىٰ

صلاۃ و سلام بھیج آپ پر اور آپ کی آل پر جتنی تعداد میں تو نے ان پر انعام فرمایا

وَافْضَالِهِ يَا اللَّهُ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور فضل و کرم کیا اے اللہ! صلاۃ و سلام بھیج ہمارے آقا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَوْلَادِهِ وَأَحْفَادِهِ وَأَزْوَاجِهِ

آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر، آپ کی اولاد پر، آپ کے نواسوں پر، آپ کی

وَذُرِّيَّتِهِ وَأَهْلَ بَيْتِهِ وَعِثْرَتِهِ وَعَشِيرَتِهِ وَأَطْهَارِهِ

ازواج پر، آپ کی ذُرِّيَّات پر، آپ کے اہل بیت الہما پر، آپ کی عِثْرَت پر، آپ کے قبیلہ کے پاک

وَأَصْهَارِهِ وَأَخْتَانِهِ وَأَحْبَابِهِ وَاتَّبَاعِهِ وَأَشْيَاعِهِ

نفس پر، آپ کے سلسلہ النوں پر، آپ کے اماموں پر، آپ کے احباب پر، آپ کے قبیعین پر، آپ کے

وَأَنْصَارِهِ خَزَنَةَ أَسْرَارِهِ وَمَعَادِنِ أَنْوَارِهِ كُنُوزِ

کائناتوں پر، آپ کے نگاروں پر، جو آپ کے اسرار کے مخزن اور آپ کے انوار کے معدن تھے اور میں جو حقائق

الْحَقَائِقُ وَهُدْيَةِ الْخَلَائِقِ نَجُومِ الْاِهْتِدَاءِ لِمَنِ

کے خزانے ، مخلوق کے رہبر اور اپنی پیروی کرنے والوں کے لئے ہدایت کے

اِقْتَدَى بِهِمْ وَسَلَمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا اِدَائِمًا اَبَدًا وَاَرْضَ

ستارے تھے اور اُن پر ہمیشہ ہمیشہ کثرت سے سلام بھیج - (الہی) تمام

عَنْ كُلِّ الصَّحَابَةِ رَضِيَ سَرْمَدًا عَدَدَ خَلْقِكَ

صحابہ کرام سے ہمیشہ کے لئے اتنا راضی ہو جا جتنی تیری مخلوق کی تعداد ہے

وَزِينَةَ عَرْشِكَ وَرِضَاءَ نَفْسِكَ وَمِثْلَ دِكْمَاتِكَ

جس قدر تیرے عرش کا وزن ہے اتنا تمنا تو خوش ہو جائے اور اس قدر راضی ہو جتنی قدر تیرے کلمات کے لکھنے کے لئے سب کی تعداد

كَلِمًا ذَكَرَكَ الذَّاكِرُونَ وَغَفَلَ عَنِ ذِكْرِكَ الْغَافِلُونَ

صلوات و سلام کا سلسلہ جاری ہے جب تک ذکر کرنے والے تیرا ذکر کرتے رہیں اور جب تک غافل تیرے ذکر سے غافل ہیں

صَلَاةٌ تَكُونُ لَكَ رِضَاءً وَلِحَقِّهِ اِدَاءً وَلِنَا صِلَاحًا

ایسا درود بھیج جو تیری رضا، تیرے نبی کے حقوق کی ادائیگی اور ہماری صلح و فلاح کا سبب بنے

وَاتِهِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَالذَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ

انہیں مقام و وسیلہ اور فضیلت اور بلند و ارفع درجہ پر فائز فرما

الرَّفِيْعَةَ وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ وَاللِّوَاءَ الْمَعْقُودَ

الہی! آپ کو مقام محمود پر مبعوث فرما، آپ کو وہ جھنڈا (الوار الاحمر) جو تو نے باندھا ہے

وَالْحَوْضَ الْمُرْوُودَ وَصَلَّ يَارَبِّ عَلَى جَمِيعِ إِخْوَانِهِ

اور وہ حوض جس پر سارے پیالیے جمع ہوں گے رحمت فرما۔ اے میرے پروردگار درود بھیج آپ کے بھائیوں

مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَالْأَوْلِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ

نبیوں اور رسولوں پر نیز اولیاءِ امت، صالحین اور

وَمَلَائِكَتِكَ الْمُقَرَّبِينَ رُوِيَ عَلَى سَيِّدِنَا الشَّيْخِ

مقرب فرشتوں پر اور ہمارے سردار شیخ

مُحَمَّدِ الدِّينِ أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ الْقَادِرِ الْمَكِينِ الرَّامِيْنَ

محمدی الدین ابو محمد عبدالقادر پر جو مقامِ قرب پر متمکن ہیں اور اسرارِ الہیہ

صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

کے امین ہیں ان سب پر اللہ تعالیٰ کے درود ہوں اے اللہ اور درود بھیج ہمارے آقا

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ السَّابِقِ

مستقدم پر اور ہمارے آقا محمد کی آل پر جن کا نوز

لِلْخَلْقِ نُورٌ وَأَرْحَمَةٌ لِلْعَالَمِينَ ظُهُورُهُ عَدَدُ مَا

سب مخلوق سے پہلے پیدا ہوا اور جس کا ظہور سارے جہانوں کے لئے رحمت ہے اتنی تعداد

مَضَىٰ مِنْ خَلْقِكَ وَمَا بَقِيَ وَمَنْ سَعِدَ مِنْهُو

میں جتنی تیری مخلوق گزر چکی ہے اور جتنی ابھی باقی ہے جس قدر ان میں سے سعید ہوئے ہیں اور

۱۔ یہ الفاظ حدیثِ شریفہ میں مذکور ہیں۔ کتبِ قدسیہ میں بھی مذکور ہیں۔

مَنْ شَقِيَ صَلَوةً سَتَغْرُقُ الْعَدُوَّ وَتُحِيطُ بِالْحَدِّ

یعنی بد بخت ہوتے ہیں ایسا درود جو ساری گنہگاروں کا احاطہ کر لے اور ساری حدوں کو گھیرے

صَلَوةً لِأَغَايَةِ لَهَا وَلَا انْتِهَاءً وَلَا أَمْدًا لَهَا

میں لے لے۔ ایسا درود جس کی کوئی انتہا نہ ہو۔ نہ جس کے لئے کوئی مبیعہ مقرر ہو اور

لَا انْقِصَاءَ لَهَا صَلَوةً اِتِّقِ الَّتِي صَلَّيْتَ عَلَيْهِ صَلَوةً

نہ وہ اختتام پذیر ہو تیرے وہ درود جو تو نے اُن پر بھیجے ہیں

مَعْرُوضَةً عَلَيْهِ مَقْبُولَةٌ لَدَيْهِ مَحْبُوبَةٌ إِلَيْهِ

اور ایسا درود جو بارگاہ نبوت میں پیش کیا جاتا ہے جو بارگاہ عالی میں مقبول بھی ہے اور نبی مکرم

صَلَوةً دَائِمَةً بَدَا مَكَ وَبَاقِيَةَ بِبَقَائِكَ لَا مَنَهَى

کو پورا بھی ہے ایسا درود جو تیرے دام کے ساتھ دائم ہے اور تیری بقا کے ساتھ باقی ہے تیرے علم

لَهَا دُونَ عِلْمِكَ صَلَوةً تَرْضِيكَ وَتَرْضِيهِ وَ

کے بغیر اس کی کوئی انتہا نہ ہو (اللہ!) ایسا درود جو تجھے راضی کرنے جو تیرے حبیب کو خوش

تَرْضَى بِهَا عَنَا صَلَوةً تَمَلَأُ الْأَرْضَ وَالسَّمَاءَ صَلَوةً

کرنے اور اُس کی برکت سے تو ہم پر بھی راضی ہو جائے ایسا درود جس سے زمین پر ہو جائے اور آسمان

تَسْتَجِيبُ بِهَا دُعَاءَنَا وَتُرْزِقُنِي بِهَا نَفْسًا وَتُحْيِي

پر ہر چیز جو جائے ایسا درود جس کی برکت سے تو ہماری مائیں قبول فرمائے اور وہ نفسوں کو پاک کرنے اور جانے

بِهَاقِلُوبِنَاوَتَحَلُّ بِهَا الْعُقَدَ وَتَفْرِجُ بِهَا الْكُرْبَ

مژدہ دلوں کو زندہ کر دے جس کی برکت سے تو ہمارے عقدوں کو حل کرے اور آلام و مصائب کو دور کر دے

وَيَجْرِئِي بِهَا الطُّفْكَ فِي أَمْرِي وَأُمُورِ الْمُسْلِمِينَ

جس کے طفیل تیرا ٹھٹھ میرے کام اور سارے مسلمانوں کے کاموں میں کار فرما رہے

وَبَارِكْ لَنَا عَلَى الدَّوَامِ وَعَافِنَا وَاهْدِنَا وَامْدُدْنَا

اللہ تعالیٰ ہم پر ہمیشہ عطا فرماتا رہے، ہم سے رازگد فرماتا رہے، ہمیں روہ راست پر ثابت قدم رکھے اور ہماری مدد فرما

وَأَجْعَلْنَا آمِنِينَ وَيَسِّرْ لَنَا أُمُورَنَا مَعَ الرَّاحَةِ

اور ہمیں امن سے رکھے ہمارے دلوں اور جسموں کی راحت و آرام کیلئے ہمارے

لِقُلُوبِنَا وَأَبْدَانِنَا وَالسَّلَامَةَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِنَا

لئے ہمارے امور آسان کر دے ہمارے دین میں

وَدُنْيَانَا وَآخِرَتِنَا وَتَوْفِقَنَا عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ

ہماری دنیا میں اور ہماری آخرت میں ہمیں سلامتی اور عافیت مرحمت فرما ہماری فہمات کتاب و سنت پر ہو

وَأَجْمَعْنَا مَعَهُ فِي الْجَنَّةِ مِنْ غَيْرِ عَذَابٍ

کسی سخت عذاب میں مبتلا کیئے بغیر تو ہمیں اپنے حبیب کے ساتھ جنت میں بشکاک و رازح علیہ

بِئْسَ وَأَنْتَ رَاضٍ عَنَّا غَيْرَ غَضَبَانَ وَلَا تَمُكِّرْ بِنَا

تو ہم پر راضی ہو ناراض نہ ہو اپنی مہربانی سے

وَ اٰخِرُ لَنَا مِنْكَ بِخَيْرٍ وَ عَافِيَةٍ بِرَاحِمَتِهِ اَجْمَعِينَ

بغیر کسی تکلیف کے خیر و عافیت کے ساتھ ہم سب کا خاتمہ کر

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۝ وَ سَلَامٌ

آئے حبیب! تیرا رب جو عزت والا رب ہے ان تمام خرافات سے پاک ہے جو کفار و مشرکین

عَلَى الْمُرْسَلِينَ ۝ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

بیان کرتے ہیں اور سلام ہوں اللہ کے فرستادوں پر۔ سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لئے ہیں

بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ط

آئے رحم الراحمین اپنی رحمت سے ہمارے دُرُودِ و سلام کو قبول فرما

نوٹ

میں دارالکمال الاسلامی کے اجتماع میں شرکت کے لئے ۱۸ اگست کو جنیوا پہنچا۔ ۱۹، ۲۰ اگست کو اجتماع میں شرکت کی بعد اور سعودی عرب کے وزیروں کے لئے درخواست کی۔ انہوں نے سووار کو وزیروں سے دینے کا وعدہ کیا۔ اس لئے لاچار مجھے دو دن مزید یہاں رکنا پڑا۔ ان وقت کے اوقات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے دُرُودِ کَبْرِئِيَةِ اَحْمَرَشِيَّيْنِ کا ترجمہ کیا جس کا مدت سے ارادہ کئے ہوئے تھا، لیکن وقت کے لمحات پاکستان میں پیشہ آگے اور اس کام میں التوا رہتا رہا۔ اللہ تعالیٰ منظور فرمائے تو اس ترجمہ کی بدولت یہ دو دن (۲۱، ۲۲ اگست ۱۹۸۲ء) میری زندگی کے یادگار دن بن گئے ہیں۔

رَبَّنَا اَنْتَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَ تَنْتَ عَلَيْنَا اَنْتَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى جِبْرِائِلَ الْكَرِيمِ وَ عَلٰى آلِهِ وَ صَحْبِهِ اَجْمَعِينَ

الْعبد المسكين

محمد کرم شاہ

۲۲ اگست ۱۹۸۲ء

بوقت ۱۲-۲۵ بجے دن

رجمانہ ہوسل، مکہ ۲۱۵

جنیوا۔ سوئٹزرلینڈ

دُعائے ماثورہ از جواہر القرآن

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بخشنے والا ہے مہربان

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا

اُسے ہمارے رب! عطا فرما ہمیں دُنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی اور بچائے ہمیں

عَذَابَ النَّارِ اِنَّ رَبَّنَا اَفْرَغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبَّتْ اَقْدَامَنَا

آگ کے عذاب سے اُسے ہمارے رب! اتار ہم پر صبر اور جمانے رکھ ہمارے قدموں کو

وَاَصْرُنَا عَلٰی الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ۝ رَبَّنَا لَا تَاْخِذْنَا اِنْ

اور نفع دے ہم کو قوم کفار پر اُسے ہمارے رب! نہ پکڑ ہم کو اگر ہم

نَسِيْنَا اَوْ اَخْطَا نَارَ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اَصْرًا

بھولیں یا خطا کر بیٹھیں اُسے ہمارے رب! نہ ڈال ہم پر بھاری بوجھ

كَمَا حَمَلْتَهُ عَلٰی الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا

جیسے تو نے ڈالا تھا اُن پر جو ہم سے پہلے گزرے ہیں اُسے ہمارے رب! نہ ڈال ہم پر بوجھ

مَّا لَطَاقَتْ لَنَا بِهٖ وَاَعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا

جس کے اٹھانے کی ہمیں قوت نہیں اور درگزر فرما ہم سے اور بخش دے ہم کو اور رحم فرما ہم پر

أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۱

تو ہی ہمارا دوست اور مددگار رہیں تو مدد فرما ہماری، قوم کفار پر

۳۔ رَبَّنَا لَا تَزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ

اے ہمارے رب! نہ مڑھے کرہائے دل بعد اس کے کہ تو نے ہدایت دی ہمیں اور عطا فرما

لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ۴

ہمیں اپنے پاس سے رحمت بے شک تو ہی سب کچھ بہت زیادہ دینے والا ہے

۲۔ رَبَّنَا إِنَّا أَمْنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

اے ہمارے رب! یقیناً ہم ایمان لائے تو معاف فرمائے ہمارے لیے ہمارے گناہ اور پچالے ہمیں آگ کے عذاب سے۔

۵۔ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَأَسْرَفَانَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ

اے ہمارے رب! بخش دے ہمارے گناہ اور جو زیادتیاں کہیں ہم نے اپنے کام میں اور ثابت قدم

أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۶۔ رَبَّنَا

رکھ ہمیں اور فتح دے ہم کو قوم کفار پر اے ہمارے مالک!

فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكْفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَقَّنَا مَعَ الْآبِرَارِ

پس بخش دے ہمارے گناہ اور مٹا دے ہم سے ہماری برائیاں اور اپنے کرم سے موت دے ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ

۷۔ رَبَّنَا وَاتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ

اے ہمارے رب! عطا فرما ہمیں جو وعدہ کیا تو نے ہمارے ساتھ اپنے رسولوں کے ذریعہ اور نہ رسوا کر ہمیں قیامت

الْقِيَمَةِ إِنَّكَ لَا تَخْلِفُ أَلْعِيَادَ ۝۵ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً

کے دن بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا آسے پروردگار آتار ہم پر خوان

مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عَيْدًا لِأَوْلَادِنَا وَإِحْرَانًا وَآيَةً

آسمان سے ہم جلتے ہم سب کے لئے خوشی کا دن ہماری لڑکیوں کے لئے بھی اور بچوں کے

مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّزُقِينَ ۝۹ رَبَّنَا

ہمیں اور جو بچے ہیں تیری طرف سے اور رزق دے میں اور تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے ہماری پڑھ گار

ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ

ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر اور اگر نہ بخشش فرمائے تو ہمارے لئے اور نہ رحم فرمائے ہم پر تو یقیناً ہم

مِنَ الْخُسِرِينَ ۝۱۱ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ

نقصان اٹھانے والوں سے ہو جائیں گے۔ اسے میرے رب بنا دے مجھے نماز کو قائم کرنے والا

وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي

اور میری اولاد کو بھی اسے ہماری رب امیری یہ التماس قبول فرما آسے ہماری رب بخش دے مجھے

وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ۝

اور میرے ماں باپ کو اور سب مومنوں کو جس دن حساب قائم ہوگا۔

تَمَامُ مَشْوَرَةٍ دَعَاةٍ مَّا شَوْرَةٌ

ہر کس کو بعد ہر نماز میں آیات مانگو اور بعد از خواندن باتمائے دلی و عائد انتشار اللہ مقبول خواہد شد

دُعائے ماثورہ از احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم

حسن حسین نوٹ لکھ امام محمد بن محمد بن محمد بن الجوزی الشافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف لطیف ہے انہوں نے اس کتاب میں اُمتِ مسلمہ کی بھلائی کے لئے مستند کتب حدیث سے ایسی دُعائیں نقل کر دی ہیں جن کی صحت کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہیں نے اس معتبر کتاب سے وہ دُعائیں منتخب کر کے یہاں جمع کر دی ہیں جن کی اس والاہم میں زندگی بسر کرنے کے لئے ہر شخص کو کم و بیش ضرورت رہتی ہے۔ ان دُعائوں کی عربی عبارات پر اعراب لگا دیے گئے ہیں اور کتابت کی صحت کا پوری طرح اہتمام کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی اس کا اردو ترجمہ بھی لکھ دیا گیا ہے تاکہ ہر شخص ضرورت کے مطابق ان دُعائوں میں سے کوئی دُعائیں لے اور اس کو جب بارگاہِ الہی میں عرض کرے تو صحت و حفظ کے ساتھ ساتھ اس کے معانی سے بھی وہ واقف ہو تاکہ پورے خشوع و خضوع کے ساتھ اپنے خداوند کریم ﷺ کی بارگاہِ عالی میں اپنی معروضات پیش کرے اور تکل پائے مقصود سے اپنی جھولی بھر سکے۔ یہ دُعائیں مجبوتہ و ظالمت میں درج نہیں۔ یہ اس احقر کا اضافہ ہے۔ اُمید ہے اُمتِ مسلمہ کے لئے یہ باعثِ خیرات و برکات ہوگا۔ اور قارئین کرام اس سے دل کھول کر استفادہ کریں گے۔ اگر اس ناچیز کو بھی دُعائے خیر میں یاد فرمائیں تو بعید از کرم نہ ہوگا۔

محمد کرم شاہ

سجادہ نشین بھیرہ

اب یہاں چند وہ دُعائیں اور اوراد ذکر کیے جاتے ہیں جو صحیح سند سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مروی ہیں۔ جو شخص ان اوراد کی پابندی کرتا ہے اس شخص کی سعادت مندی اور خوش بختی کا کیا کہنا۔

سید الاستغفار

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ
وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوؤُكَ بِنِعْمَتِكَ

عَلَىٰ وَابْتِغَاءِ مَرْضَاتِي فَاعْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ۔

ترجمہ۔ الہی تو میرا رب ہے کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے تیرے۔ تو نے مجھے پیدا کیا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ اور میں تیرے عہد اور تیرے وعدہ پر اپنی طاقت کے مطابق قائم ہوں میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس کام کے شر سے جو میں نے کیا میں اعتراف کرتا ہوں تیرے سامنے تیری ان نعمتوں کا جو تو نے مجھ پر فرمائی ہیں۔ اور اپنے گناہوں کا بھی اقرار کرتا ہوں پس تو میرے گناہ بخش دے۔ اس لئے کہ تیرے سوا کوئی گناہ نہیں بخش سکتا۔

حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص اس استغفار کو ایک مرتبہ دن میں یارات میں یقین کامل کے ساتھ پڑھے گا اگر وہ اس دن یارات میں وفات پائے گا تو وہ ضرور جنتی ہوگا۔
حدیث شریف میں اس استغفار کو سید الاستغفار (سب سے بڑے استغفار کے نام سے ذکر فرمایا گیا ہے۔

۲۔ گھر میں داخل ہونے اور گھر سے نکلنے کے وقت کی دعا

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ التَّوَلِّجِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ بِسْمِ اللَّهِ وَبِحَبْلِ جَنَّةِ اللَّهِ وَخَيْرِ جَنَّةٍ وَعَلَى اللَّهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا۔

ترجمہ۔ اے اللہ میں تجھ سے گھر میں داخل ہونے اور گھر سے نکلنے کی خیر و برکت کا سوال کرتا ہوں بسم اللہ کے نام کے ساتھ ہی گھر میں داخل ہوتے ہیں اور اللہ کے نام کے ساتھ ہی گھر سے نکلے ہیں۔ اور اپنے پروردگار اللہ جل شانہ پر ہی ہمارا بھروسہ ہے۔

حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب انسان گھر میں داخل ہونے کے وقت کھانا کھانے کے وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیتا ہے تو شیطان اپنی ذریت سے کہتا ہے کہ اس گھر میں نہ تمہارے لئے رات کا ٹھکانہ ہے اور نہ کھانا پینا چلو یہاں سے۔ اور جو شخص گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا تو شیطان اپنی ذریت سے کہتا ہے۔ اور آؤ رات کا ٹھکانہ بھی تمہیں مل گیا اور کھانا بھی ایسی گھر

۳۔ سوتے وقت یہ دُعا پڑھے

۱۔ بِاسْمِكَ وَضَعْتُ جَنْبِي فَأَغْفِرْ لِي۔

ترجمہ۔ تیرے ہی نام کے ساتھ میں لیٹا ہوں پس تو ہی میری مغفرت کر دے۔

۲۔ پچھرتیس مرتبہ سبحان اللہ، تینتیس مرتبہ الحمد للہ، چونتیس مرتبہ اللہ اکبر

یہ وہ بظہیر ترین علیہ ہے جو آتے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی چہیتی صاحبِ نادی

حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کو غلام اور کنیز کے بجائے عطا کیا۔

سوتے وقت دونوں ہاتھ لائے اور قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اور قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اور

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ پڑھ کر ان پر دم کرے۔ پھر جہاں تک ہو سکے ان کو تمام جسم پر پھیرے

سر اور چہرہ اور بدن کے سامنے کے حصے سے شروع کرے۔ اس طرح تین مرتبہ عمل کرے۔

(یہ جاؤ اور کھڑکے شر سے محفوظ رہنے کے لئے اکیس ہے)

سوتے وقت بستر پر لیٹ کر آیۃ الکرسی پڑھے۔

حدیث شریف میں آیا ہے جو جس سوتے وقت بستر پر لیٹ کر آیۃ الکرسی پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ

اُس کی اور اُس کے آس پاس کے گھروں کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اور صبح تک شیطان اُس

کے پاس نہیں آتا۔

سوتے میں اچھا یا بُرا خواب دیکھو کر آنکھ کھل جانے کے وقت کے آداب اور دُعا

حدیث شریف میں آیا ہے اگر سوتے میں کوئی اچھا خواب دیکھے اور آنکھ کھل جائے تو اس پر الحمد للہ

کہے اور اس کو بیان بھی کرے مگر انہیں لوگوں کے سامنے بیان کرے جو اس سے محبت کرتے

ہیں۔ اور اگر کوئی بُرا خواب دیکھے تو اپنی باتیں جانب تھوک دے یا پھونک مار دے اور تین تہ

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ پڑھے اور کسی سے اس کا ذکر نہ کرے تو وہ خواب

کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا اور جس کو روٹ پر سور ہاتھ اس کو بدل دے یا اٹھ کر تعجب نہ

کی نماز پڑھے۔

۶۔ سوتے میں ڈر جائے یا کوئی گھبراہٹ یا پریشانی محسوس ہو تو یہ پڑھے۔

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ
هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَخْضُرُونَ۔

ترجمہ۔ میں اللہ تعالیٰ کے کلمات تامہ کی پناہ لیتا ہوں اُس کے غضب سے، اُس کے عذاب سے، اُس کے بندوں کے شر سے اور شیاطین کے وسوسوں سے اور اس سے کہ وہ شیطان مجھے پارس بھی آئیں۔

حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما نے دعا اپنے مجھ دارچوں کو لفظ لفظ یاد کیا کرتے تھے۔ اور نا بھوجوں کے گلے میں توہید لکھ کر ڈال دیا کرتے تھے۔

۴۔ سو کر جانے کے وقت یہ دعا پڑھے :-

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

ترجمہ۔ اُس اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ہے جس نے ہمیں مارنے کے بعد جلا دیا اور اسی کی طرف مرکر جانا ہے۔

۵۔ قضائے حاجت کے لئے جانے لگے تو یہ کہے :-

بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْغُبْتِ وَالْخَبَائِثِ

اور جب فارغ ہو کر چلے تو کہے عُفْرَانُكَ۔ اے اللہ میں تجھ سے مغفرت کا طلب گزار ہوں۔

۶۔ وضو کے وقت کی دعا

وضو سے فارغ ہو کر آسمان کی طرف نظر اٹھا کر تین مرتبہ یہ دعا پڑھے :-

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ۔

ترجمہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں کوئی مجبور و مجرم اللہ تعالیٰ کے، وہ لیتا ہے اُس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ (ہمارے آقا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اُس کے بندے اور اُس کے رسول ہیں۔ اے اللہ کر دے مجھے کثرت سے توبہ کرنے والوں میں اور کر دے مجھے پاک سینے والوں میں۔

۷۔ تہجد کے وقت اٹھے تو یہ پڑھے :-

سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ -
ترجمہ۔ پاک ہے اللہ تعالیٰ جو رب العالمین ہے۔ پاک ہے اللہ تعالیٰ اور اُس کی حمد کرتے ہیں۔

۸۔ مسجد میں داخل ہونے کے وقت یہ دعا پڑھے :-

أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَوَسْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ -

ترجمہ میں عظمت و جلال کے مالک اللہ تعالیٰ اور اُس کی کریم ذات اور اُس کی لازوال سلطنت کی پناہ لیتا ہوں مردود شیطان سے اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ہمیں مسجد میں قدم رکھتا ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سلام ہو اے اللہ میرے گناہ بخش دے اور اپنی رحمت کے دروازے میرے لئے کھول دے۔

۹۔ مسجد سے نکلنے کی دعا :-

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ -
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ -

ترجمہ۔ اے اللہ تو مجھے مردود شیطان سے بچا۔ اللہ کے نام کے ساتھ نکلتا ہوں سلام ہو اللہ کے رسول پر، اے اللہ تو میرے گناہ بخش دے اور اپنے فضل کے دروازے میرے لئے کھول دے۔

۱۔ مغرب اور فجر کی نماز کے بعد پڑھنے کی دُعا

صبح کی نماز کے بعد جس طرح نمازیں بیٹھتے ہیں اسی طرح دو راتوں بیٹھے ہوئے بات کرنے سے قبل دس مرتبہ یا سو مرتبہ یہ کلمہ توحید پڑھے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ سَيِّدُ الْخَيْرَاتِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور اسی کی سب تعریفیں ہے وہی جلاتا ہے اور وہی لاتا ہے اسی کے ہاتھ میں تمام تخریر اور بھلائی ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔

اس کے بعد یہ دُعا مانگے۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ رِزْقًا طَيِّبًا وَعِلْمًا نَافِعًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا

ترجمہ: اے اللہ! میں تجھ سے حلال روزی، نفع رسا علم، مقبول عمل کا سوال کرتا ہوں۔ مغرب کی نماز کے بعد بھی یہی کلمہ دس مرتبہ پڑھے۔

۱۱۔ سفر پر جانے کے لئے دُعا

سفر پر سواری کے رکاب میں پاؤں رکھے یا سوار ہونے لگے تو کہے بِسْمِ اللّٰهِ جَبَّاس

کی پیٹھ پر بیٹھ جائے یا سوار ہو جائے تو کہے اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ اُوْرِيهِ دُعا پڑھے:-

سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرْنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقَرَّبِينَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ

اور اس کے بعد یہ دُعا مانگئے:-

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَىٰ وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَىٰ اللَّهُمَّ

هُوَ عَلَيْنَا سَفَرِنَا هَذَا وَأَطِيعْنَا بَعْدَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الصَّاحِبِ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةَ

فِي الْأَهْلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمُنْتَظَرِ وَسُوْرِ الْمُنْقَلَبِ

فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ وَالْوَالِدِ

ترجمہ: اے اللہ! ہم تجھ سے اپنے اس سفر میں نیکی کی نو بریز نگاری کی اور جو عمل تجھے پسند ہو
 اُس کی درخواست کرتے ہیں۔ اے اللہ تو ہمارے سفر ہم پر آسان کر دے۔ اس کی مسافت کو طے کرنے سے
 اے اللہ تو ہی سفر میں ہمارا رفیق اور گھر باریں ہمارا قائم مقام ہے۔ اے اللہ! میں تجھ سے سفر کی
 سختیوں سے اور سفر میں کسی تکلیف دہ منظر سے بیوی بچوں اور مال و منال میں تکلیف دہ
 واپسی سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور جب سفر سے واپس آئے تب بھی یہی دعا مانگے اور ان کلمات
 کا اضافہ کرے:-

اٰمِنُوْنَ تَاٰمِنُوْنَ عَابِدُوْنَ رَبِّنَا حَاصِدُوْنَ-

ہم اب سفر سے لوٹ رہے ہیں۔ گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ ہر حال میں اللہ کی عبادت
 کرتے ہیں اور اپنے پروردگار کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔

۱۲۔ کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھے

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ط
 شکر ہے اللہ تعالیٰ کا جس نے ہمیں کھلایا، پلایا اور ہمیں مسلمان کیا۔

۱۳۔ کھانا کھلانے والوں کے لئے دعائیں

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيْ مَا رَزَقْتَهُمْ فَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ-

اے اللہ تو نے جو رزق ان کو دیا ہے اس میں اور برکت دے پھر ان کی مغفرت فرما اور ان پر رحم کر۔

۱۴۔ سفر میں ضرورت کے وقت مدد طلب کرنے کا مجرب عمل

۱۔ اگر سفر میں سواری کا جانور چھوٹ کر بھاگ جائے بند اور چمھے اَعِيْنُوْا يَا عِبَادَ اللّٰهِ رَحِمَكُمُ
 اللّٰهُ۔ مدد کرو اے اللہ تعالیٰ کے بندو اللہ تم پر رحم فرمائے۔

۲۔ اگر کسی مددگار کو بلانا ہو تو بند آواز سے کہے يَا عِبَادَ اللّٰهِ اَعِيْنُوْنِيْ يَا عِبَادَ اللّٰهِ اَعِيْنُوْنِيْ
 يَا عِبَادَ اللّٰهِ اَعِيْنُوْنِيْ۔ اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ (تین مرتبہ کہے)

مصنف حسن حسین فرماتے ہیں کہ یہ عمل آرزو وہ ہے۔

۳۔ جب اُس شکر کو دیکھے جس میں داخل ہونا چاہتا ہے تو اُس کو دیکھتے ہی کہے۔

اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظْلَمُنَّ وَمَا أَظْلَمُنَّ
أَقْلَمُنَّ وَرَبَّ الشَّيَاطِينِ وَمَا أَضَلُّنَّ وَرَبَّ الزِّيَارِجِ وَمَا ذَرِينِ إِنَّا نَشْكُكَ
خَيْرَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ وَخَيْرَ أَهْلِهَا وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ أَهْلِهَا وَ
شَرِّ مَا فِيهَا۔

ترجمہ۔ اے اللہ ساتوں آسمانوں کے اور اس تمام مخلوق کے پروردگار جس پر یہ سایہ ظلمن میں۔ اور
ساتوں زمینوں کے اور اس تمام مخلوق کے پروردگار جس کو یہ اٹھائے ہوئے ہیں۔ اور تمام
شیطانوں کے اور اُس تمام مخلوق کے رب جن کو انہوں نے گمراہ کیا ہے اور تمام ہواؤں کے
اور اُن چیزوں کے رب جن کو ہواؤں نے بکھیر دیا ہے۔ اس گاؤں میں اور اس گاؤں کے
رہنے والوں میں جو خیر و خوبی ہے ہم تجھ سے اس کا سوال کرتے ہیں۔

۱۵۔ دشمن کے شر سے بچنے کے لئے

سورۃ لیلۃ قویٰ پڑھا کرے۔

حضرت ابوالحسن قزوینی فرماتے ہیں کہ سورۃ لیلۃ قویٰ ہر نقصان و مضرت سے

امان دینے والی ہے۔ آرزو وہ عمل ہے۔

۱۶۔ کسی بھی غم اور پریشانی آنے کے وقت یہ وظیفہ پڑھنا چاہئے

۱۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ لَا إِلَهَ إِلَّا

اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَبِيرِ

۲۔ یہ دعا بھی کثرت سے پڑھا کرے۔

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ يَا حَسْبِي اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

۳۔ یہ دُعا بھی کم از کم تین مرتبہ پڑھے۔ اللہ اللہ رَبِّیْ لَا اَشْرَکَ بِہِ شَیْئًا (یا اللہ رَبِّیْ لَا اَشْرَکَ بِہِ شَیْئًا۔

۴۔ کسی بھی رنج و غم اور مُصِیبت کے وقت یہ پڑھے اور دُعا مانگے :-

اللّٰهُوَ اِنِّیْ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ اُمَّتِكَ نَاصِیْتِیْ بِیْدِكَ مَا مِنْ رِفْقٍ حَمَلْتَهُ عَدْلٌ رَفِیْقٌ قَضَاءُكَ اَسْئَلُكَ بِكُلِّ اَشْیْءٍ هُوَ لَكَ سَمِیْتٌ بِہِ نَفْسِكَ اَوْ اَنْزَلْتَهُ فِیْ كِتَابِكَ اَوْ عَلَّمْتَهُ اَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ اَوْ اسْتَأْثَرْتْ بِہِ فِیْ عِلْمِ الْغِیْبِ عِنْدَكَ اَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ الْعَظِیْمَ رِبِیْعَ قَلْبِیْ وَنُوْرَ بَصْرِیْ وَجَلَاءً حُرِّیْ وَذَھَابًا هَتِّیْ وَعَطِیْ۔

ترجمہ۔ اے الہی! میں تیرا ہی بندہ ہوں اور تیرے ہی بندے، تیری ہی بندی کا بیٹا ہوں، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے تیرا ہر حکم میرے حق میں نافذ ہے۔ تیرا ہر فیصلہ میرے حق میں عدل سے ہے میں تیرے ہر اُس نام کے توسل سے جو تیرا ہے تو نے خود اُس کو اپنا نام رکھا یا اس کو اپنی کتاب میں نازل فرمایا یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو بتلایا۔ یا تو نے اس کو علم غیب کے خزانہ میں لانے پاس ہی محفوظ رکھا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو قرآن عظیم کو میرے دل کی بہار، نگاہ کا نور اور میرے غم کے ازالہ اور پریشانی کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔

حدیث شریف میں آیا ہے جو بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ کسی مُصِیبت یا رنج و غم میں گرفتار ہو۔ اور وہ مذکورہ بالا دُعا پڑھا کرے اللہ تعالیٰ ضرور اُس کی مُصِیبت، پریشانی اور رنج و غم کو دور فرمائے گا اور اُس کے رنج و اندوہ کو خوشی و مسرت سے بدل دے گا۔

۵۔ کسی بھی رنج و غم یا بیماری میں گرفتار ہونے کے وقت کثرت سے یہ پڑھے۔
لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ۔ حدیث میں آیا ہے جو شخص یہ پڑھتا ہے اُس کے بے یار و مددگار ہونے سے ڈکھ بیماریوں کی دوا ہے جس میں سے سب سے ہلکی بیماری بخیر و پریشانی ہے۔

۱۷۔ کسی بادشاہ یا ظالم شخص سے خوف کے وقت کی دُعا

یہ دُعا تین مرتبہ پڑھے :-

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ اعْزَمُنْ خَلْقَهُ جَمِيعًا اللَّهُ اعَزَمْنَا خَافُوا وَاحْذَرُوا عَوْدُ
بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مُسِكِّتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْأَبْدَانِ مِنْ شَرِّ
عِبْدِكَ فَلَا تَنْجُوهُ إِلَّا بِتَوَكُّلِهِ وَأَسْبَغَهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَالْإِنْسِ اللَّهُمَّ كُنْ لِي جَارًا
مِنْ شَرِّ هَوَايَ جَلَّ شَأْنُكَ وَعَزَّ جَارُكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ.

ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ اللہ اپنی تمام مخلوق سے زیادہ قوی ہے اللہ تعالیٰ اس سے
بھی زیادہ قوی ہے جس سے میں غائب ہوں اور ڈر رہا ہوں میں اُس اللہ تعالیٰ کی پناہ لیتا ہوں جس کے سوا
کوئی معبود نہیں ہے اور جس نے اپنے حکم سے آسمان کو زمین پر آنے سے روکا ہوا ہے۔ اے اللہ میں تیری
پناہ لیتا ہوں فلاں بندے کے اور اس کی فوج و لشکر کے اور اُس کے پیروؤں اور خدمت گزاروں کے شر
سے جتن ہوں یا انسان۔ اے اللہ! تو ان سب کے شر سے مجھے پناہ دینے والا بن جا۔ تیری حمد و شہادت
بڑی ہے اور تجھ سے پناہ لینے والا ہمیشہ غالب ہوتا ہے اور تیرے سوا کوئی بھی قابلِ عبادت نہیں ہے۔

۱۸۔ نماز حاجت کا طریقہ

۱۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ سے کوئی خاص حاجت ہو، کسی بندے سے کوئی خاص کام پیش آجائے تو
اُس کو چاہیے کہ دُعا کے خوب اچھی طرح پھر دو رکعت نماز حاجت پڑھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ
کی حمد و ثنا کرے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر صلوة و سلام بھیجے اس کے بعد دعا مانگے۔
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ
رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْعِصْمَةَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ
وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بَرٍّ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ لَا تَدْعُ لِي ذَنْبًا إِلَّا أَعْفَرْتَهُ وَلَا هَمًّا إِلَّا
فَرَجْتَهُ وَلَا حَاجَةً لِي فِي شَيْءٍ إِلَّا أَقْضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ۔

ترجمہ۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو بڑا ہی بڑا بارگاہِ کرم کرنے والا ہے۔ پاک ہے اللہ تعالیٰ
جو عرشِ عظیم کا سب سے سب تعریفیں ہیں اللہ رب العالمین کے لئے اے اللہ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں
تیری رحمت کے واجب کر دینے والے اسباب کا اور تیری مغفرت کو پختہ کر دینے والی نصلتوں کا اور ہر گناہ
سے حفاظت کا اور ہر نیکی کی نعمت کا اور ہر نافرمانی سے سلامتی کا۔ اے اللہ! تو میرے کسی گناہ کو بغیر تجھے رحمت

چھوڑا اور میرے کسی بکرہ پریشانی کو بغیر دُور کے سمت چھوڑا۔ اور میری کسی ایسی حاجت کو جو تیری رضا کے مطابق ہو بغیر تُوڑا کے سمت چھوڑا۔ یا رحم الراحمین۔

نمازِ حاجت کا دوسرا طریقہ

مذکورہ بالا طریقہ پر وضو کر کے نماز پڑھے۔ پھر یہ دُعا مانگے :-

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي أَتَوَجَّهُ
بِكَ إِلَى رَبِّي فِي حَاجَتِي هَذِهِ لِمَقْضَى لِي مِنَ اللَّهِ وَشَفِيعَةً لِي -

ترجمہ - اے اللہ میں تجھ سے ہی سوال کرتا ہوں اور تیری ہی طرف متوجہ ہوں۔ تیرے نبی محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نبی رحمت کے وسیلہ سے۔ اے محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) آپ کے وسیلہ سے اپنے رب کی طرف اپنی اس حاجت کے بارے میں متوجہ ہوتا ہوں اور دُعا کرتا ہوں تاکہ وہ پوری ہو جائے۔ اے اللہ تو میرے بارے میں آپ کی شفاعت قبول فرما۔

۱۹۔ پہلی کا چاند دیکھنے کے وقت کی دُعا

هَلَالَ خَيْرٍ وَرُشِدٍ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذَا الشَّهْرِ وَخَيْرِ الْقَدْرِ
أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ -

(چاند کو دیکھ کر یہ تین مرتبہ کہے)

ترجمہ - یہ خیر و برکت اور نیکی کا چاند ہے۔ اے اللہ میں تجھ سے اس ماہ کی خیر و برکت کا اور تقدیر الہی کی خیر و برکت کا سوال کرتا ہوں اور اس کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔

۲۰۔ شب قدر دیکھنے کے وقت

اور جب شب قدر دیکھنا نصیب ہو تو یہ دُعا کرے۔

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفْوٌ حَسْبُ الْعَفْوِ فَاعْفُ عَنِّي -

ترجمہ - اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے پس تو مجھے

جی نِعْمَاتِ فِرَادِے۔

۲۱۔ آئینہ دیکھنے کے وقت

اللَّهُمَّ أَنْتَ حَسَنْتَ خَلْقِي فَحَسِّنْ خُلُقِي۔

ترجمہ۔ اے اللہ! تو نے ہی میری صورت اتنی اچھی بنائی ہے پس تو ہی میرے اخلاق کو بھی خوب صورت بنا دے۔

۲۲۔ قرض میں گرفتار ہونے کے وقت کی دُعا

۱۔ اَللّٰهُمَّ اَلْفِئِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَوَامِكِ وَاعْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ۔

ترجمہ۔ اے اللہ! تو مجھے اپنا حلال بذاق دے کر حرام سے بچالے اور اپنے فضل و کرم سے اپنے ماسوا سے بے نیاز کر دے۔

ادائیگی قرض کے لئے یہ دُعا بہت بڑھاکرے۔

۲۔ اَللّٰهُمَّ مَا لَكَ الْمَلِكُ تُؤْتِي الْمَلِكُ مِنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمَلِكُ مِنْ تَشَاءُ وَتُعْزِزُ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ يَبْدِكَ الْخَيْرُ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔

رَحْمَانَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ نَعْطِيَهُمَا مَنْ تَشَاءُ وَتَمْنَعُ مِنْهُمَا مَنْ تَشَاءُ اِرْحَمْنِي رَحْمَةً تَعْنِنِي بِهَا عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ۔

ترجمہ۔ اے اللہ! تیرا ملک کے ملک تو ہی جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے اور تو ہی جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے۔ تو ہی جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور تو ہی جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ ہر طرح کی خیر و خوبی تیرے قبضہ قدرت میں ہے۔ بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے دُنیا و آخرت میں بہت بڑے راز رکھنے والے تو جس کو چاہتا ہے دُنیا و آخرت کی نعمتیں دے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اُس کو دونوں سے محروم کر دیتا ہے۔ تو مجھ پر وہ خاص رحمت فرما کہ اس کے ذریعہ تو مجھے اپنے ماسوا کی رحمت سے بے نیاز فرما دے۔

۳۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَجْوِ وَالْحُزْنِ وَاعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْكَسَلِ

وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلْبَةِ الدِّينِ وَفَقْرِ الرِّجَالِ۔
ترجمہ اسے اللہ نہیں تیری ہی پناہ لیتا ہوں ہر فکر و غم سے اور تیری ہی پناہ لیتا ہوں عاجزی اور
کاہلی سے اور تیری ہی پناہ لیتا ہوں بُزول اور بخل سے اور تیری ہی پناہ لیتا ہوں قرض کے غلبہ اور لوگوں کے
زور و ظلم سے۔

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ دُعا پڑھتا رہتا ہے اگر ریت کے ذروں کے برابر اس
پر قرض ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو ادا فرمادیتا ہے۔

۲۳۔ کسی دکھ یا بیماری میں کسی کو گرفتار دیکھے تو یہ دُعا مانگے

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَاقَبَنِي مِمَّا بَلَآكَ بِهِ وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفَضُّلاً
ترجمہ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا جس نے مجھے اس دُکھ تکلیف سے عافیت میں رکھا جس میں مجھے مبتلا
کیا اور بہت سی مخلوق پر مجھے نمایاں طور پر فضیلت دی۔

حدیث شریف میں آیا ہے جو شخص کسی کو دُکھ، بیماری میں گرفتار دیکھ کر مذکورہ بالا دُعا پڑھے گا وہ زندگی بھر
اس دُکھ تکلیف سے محفوظ رہے گا۔ چاہے کہ وہ یہ دُعا آہستہ پڑھے تاکہ مرض اور دُکھی کی دل شکنی نہ ہو۔

۲۴۔ زیارتِ قبور کے لئے جانے کے وقت کی دُعا

جب قبر کی زیارت کے لئے قبرستان جائے تو یہ کہے۔

لَسَاءَ مَا عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَإِنَّا نَسْأَلُ اللَّهَ بِكُمْ
لِلْأَحْيَوْنَ نَسْئَلُ اللَّهَ لَنَا وَلكُمْ الْعَاقِبَةَ أَنْتُمْ لَنَا قَوَاطِرٌ وَهَمٌّ لَكُمْ تَبِيعٌ۔

ترجمہ اسے اس ہستی کے رہنے والے مسلمانوں اور مومنوں پر سلام بے شک ہم بھی انشاء اللہ
تم سے محترم بننے والے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے اور تمہارے لئے عافیت کی دُعا کرتے ہیں تم ہم سب سے
پہلے جانے والے ہو اور ہم تمہارے پیچھے آنے والے ہیں۔

ترکیب نوافل بمع ادعیہ

نوافل اشراق۔ اشراق کی بارہ رکعتیں ہیں

دُعایے شکر اللہ:-

بعد فاتحہ در رکعت اول آية الكرسي تا خالدون و در ثانی از امن الرسول تا تمام سورة
و آية الله نور السموات و الارض تا عليه۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی بہرمان ہمیشہ رحم کرنے والا ہے

اللَّهُمَّ إِنِّي أَصْبَحْتُ لَكَ لَا أَسْتَطِيعُ دَفْعَ مَا أَكْرَهُ

اے اللہ! میں نے صبح کی ہے تیرے لیے میں اس چیز کو دور کرنے کی طاقت نہیں رکھتا جسے میں ناپسند کرتا ہوں

وَلَا أَمْلِكُ نَفْعَ مَا أَرْجُو مِنْ رَحْمَتِكَ أَصْبَحْتُ

اور میں اس چیز کے نفع کا مالک نہیں ہوں جس کی میں تیری رحمت سے امید رکھتا ہوں میں نے صبح کی ہے

مُرْتَهِنًا بِعَمَلِي وَأَصْبَحَ امْرِي بِيَدِ غَيْرِي فَلَا فِقِيرَ

اس حالت میں کہ اپنے عمل میں گرفتار ہوں اور میرے کام میرے غیر کے ہاتھ میں ہے اور کوئی فقیر مجھ سے زیادہ محتاج نہیں

أَفْقَرُ مِنِّي وَلَا تَمْتَبِي بِي عَدُوِّي وَلَا تَسُوْبِي

میرے دشمن کو میری حالت سے غوسہ نہ کر اور نہ میرے دوست کو میری حالت سے تکلیف دے

صَدِيقِي وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتِي فِي دِينِي وَدُنْيَايَ

میری مصیبت میرے دین ، میری دنیا اور آخرت

وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا الْكِبْرَهُمِيَّ وَلَا مَبْلَغَ

میں نہ کر اور نہ بنا دنیا کو میرا مقصدِ عظیم اور نہ میرے علم کی

عِلْمِي وَلَا تَسْلُطْ عَلَيَّ مِنْ لَا يَرْحَمُنِي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اللَّهُمَّ

نہایت اور نہ مسلط کر مجھ پر ایسے شخص کو جو رحم نہیں کرتا مجھ پر دنیا میں اور آخرت میں اے اللہ!

إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الذُّنُوبِ الَّتِي تُزِيلُ بِهَا النِّعَمَ وَمِنَ

میں پناہ مانگتا ہوں تیرے واسطے سے اُن گناہوں سے جن کے باعث تو نعمتوں کو زائل کر دیتا ہے اور اُن

الذُّنُوبِ الَّتِي تُوجِبُ بِهَا النِّقْمَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّحِيمِينَ

گناہوں سے جن کے باعث تو عذاب عطا کرتا ہے تیری رحمت کے طفیل اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے

دُعَاةِ اسْتِعَاذَةٍ دَرَرِ رَكْعَتِ أَوَّلِ سُورَةِ فَلَقٍ وَدَرَرِ رَكْعَتِ دَوْمِ سُورَةِ نَاسٍ يَكُ بَارِئًا نَحْوَانِدَ

دُعَاةِ اسْتِعَاذَةٍ پہلی رکعت میں سُورَةِ فَلَقٍ اور دوسری میں سُورَةِ نَاسٍ ایک ایک بار پڑھے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ بِاسْمِكَ الْأَعْظَمِ بِكَلِمَتِكَ التَّامَّةِ

اے اللہ! میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے تیرے اسمِ اعظم کے ساتھ تیرے مکمل کلمات کے ساتھ

مِنْ شَرِّ السَّامَةِ وَالْهَامَةِ وَأَعُوذُ بِاسْمِكَ الْأَعْظَمِ

ہر زہریلے جانور سے اور ہر تکلیف دینے والے کٹرے ٹھوڑوں کے شر سے اور پناہ مانگتا ہوں تیرے اسمِ اعظم سے

وَكَلِمَاتِكَ التَّامَّةِ مِنْ شَرِّ عِبَادِكَ وَمِنْ شَرِّ

اور تیرے مکمل کلمات سے تیرے بندوں کے شر سے اور تیرے عذاب کے

عَذَابِكَ وَأَعُوذُ بِكَ بِاسْمِكَ الْأَعْظَمِ وَكَلِمَاتِكَ

شر سے اور میں پناہ مانگتا ہوں بذریعہ تیرے اسمِ اعظم کے اور تیرے مکمل کلمات

التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ جَبَّارٍ

کے ہر شیطانِ راندے ہونے سے اور ہر جبار اور سرکش کے

عِنْدِي وَأَعُوذُ بِكَ بِاسْمِكَ الْأَعْظَمِ وَكَلِمَاتِكَ التَّامَّةِ

شر سے اور میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے بواسطہ تیرے اسمِ اعظم کے اور تیرے مکمل کلمات کے

مِنْ شَرِّ كُلِّ مَا يَجْرِي بِهِ الْيَلُ وَالنَّهَارُ إِنَّ رَبِّي اللَّهُ الَّذِي

ہر اس چیز کے شر سے جنہیں رات اور دن لے کر آتے ہے جسک میرا پروردگار اللہ تعالیٰ ہے وہ اللہ

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

کو نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے اس پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور وہ عرشِ عظیم کا رب ہے

إِلَهِي أَنْتَ سَلَطْتَ عَلَيْنَا عَدُوًّا أَبْصِرْنَا

اے اللہ تو نے مستط کیا ہے ہم پر ایسا دشمن جو دیکھنے والا ہے وہ اور

اور

بُعِيُو بِنَاهُو وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَانَرَاهُو اللَّهُمَّ

اُس کا شکر دیکھتا ہے ہمارے عیبوں کو وہاں سے کہ ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے اے اللہ!

فَاِسْئَلُهُ مِنَّا كَمَا اِسْتَسْتَعْنِي مِنْ رَحْمَتِكَ وَقِنِّطُهُ مِنَّا

پس یا اُس کو ہم سے جس طرح یا اُس کو ہم سے کہ ہم اپنی رحمت سے اور نا امید کر دے اسے

كَمَا قَنَطْتَهُ مِنْ عَفْوِكَ وَابْعِدْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ كَمَا ابْعَدْتَ

ہم سے جس طرح نا امید کیا ہے تو نے اُس کو اپنی بخشش سے اور دوری کر دے ہمارے درمیان اس کے درمیان

بَيْنَهُ وَبَيْنَ جَنَّتِكَ اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَبِالْاِجَابَةِ

جس طرح دوری کر دی ہے اُس کے درمیان اور اپنی جنت کے درمیان بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے اور دُعاؤں کو

جَدِيرٌ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

قبول کرنے والا ہے نہیں ہمارے پر طاقت گناہوں سے بچنے کی رزقوت نیک عمل کرنے کی اور اللہ کے قہر و اعلیٰ اور بزرگ ہے

دُعَا اِسْتَحْسَرَهُ دُرَّ اَوَّلِ رَكْعَتِكَ كَافِرُونَ وَدُرَّ وَدُمُ سُوْرَةِ اِخْلَاصٍ يَكُ بَارِئًا مِّنْ

دُعا استخارہ - پہلی رکعت میں سُوْرَةِ كَافِرُونَ اور دُومِ سُوْرَةِ اِخْلَاصٍ میں سُوْرَةِ اِخْلَاصٍ ایک بار پڑھے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم کرنے والا ہے

اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْتَخِیْرُكَ بِعِلْمِكَ وَاسْتَقْدِرُكَ

اے اللہ میں غیر طلب کرتا ہوں تجھ سے تیرے علم کے ذریعہ اور قدرت طلب کرتا ہوں تجھ سے

بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ

تیری طاقت کے ذریعہ اور مانگتا ہوں تجھ سے تیرا فضل عظیم بے شک تو

تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَامٌ

قدرت رکھتا ہے اور میں قدرت نہیں رکھتا تو جانتا ہے میں نہیں جانتا تو تمام غیبوں کو

الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا

جاننے والا ہے اے اللہ! نہیں مالک میں اپنے نفس کے لئے کسی ضرر کا اور نہ

نَفْعًا وَلَا مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نَشُورًا اللَّهُمَّ إِن كُنْتُ

کسی نفع کا، نہ موت کا، نہ زندگی کا اور نہ قبر سے جی اٹھنے کا اے اللہ اگر تو

تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي

جانتا ہے کہ یہ بات بہتر ہے میرے لئے میرے دین میں میری معاش میں اور میرے کام کے انجام کے لحاظ سے

فَأَقْدِرْ لِي وَيَسِّرْهُ لِي تُعَوِّدْ بَارِكْ لِي فِيهِ وَإِنْ كُنْتُ تَعْلَمُ

تو مقدر فرمائے اس کو میرے لئے اور آسان فرمائے اس کو میرے لئے پھر برکت عطا فرما مجھے اس میں اور اگر تو جانتا ہے کہ

أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي

یہ کام بُرا ہے میرے لئے میرے دین میں، میری معاش میں، میرے کام کے انجام کے لحاظ سے

فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدِرْ لِي الْخَيْرَ

پس پھر دے اُس کو میری طرف سے اور مجھ سے اور مجھ سے اٹھائے اور مقدر کر دے میرے لئے بھلائی

حَيْثُ كَانَ تَوَّارِضِنِي بِهِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

جہاں ہو، پھر راضی کر دے مجھے اس کے ساتھ بظہیر اپنی رحمت کے آئے سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے

دُعائے استجاب راول رکعت سُبْحِ اسو یکبار و در رکعت دوم سُورَةُ قَدَرِ پانچ بار

یہ دعائے طلبِ محبت ہے۔ پہلی رکعت میں سُورَةُ سَبْحِ اسو ایک تہ و دوسری میں سُورَةُ قَدَرِ پانچ بار پڑھے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے

اللَّهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ الْأَشْيَاءِ إِلَيَّ وَاجْعَلْ

اے اللہ بنا دے اپنی محبت کو تمام چیزوں سے زیادہ محبوب میرے نزدیک اور بنا دے

خَوْفَكَ أَخَوْفَ الْأَشْيَاءِ عِنْدِي اللَّهُمَّ إِذَا أَقْدَرْتَ

اپنے خوف کو تمام چیزوں سے زیادہ ڈرانے والا میرے نزدیک اے اللہ جب تو ٹھنڈا کرے

عِيُونَ أَهْلِ الدُّنْيَا بَدُنِّيَا هُمْ فَأَقْرِ عَيْنِي بِكَ وَ

اہلِ دُنْيَا کی آنکھوں کو اُن کی دُنْيَا کے ذریعہ تو ٹھنڈا کر میری آنکھوں کو اپنے دیدار سے اور

بِعِبَادَتِكَ وَاقْطَعْ عَنِّي لَذَائِدَ الدُّنْيَا بِأَنْسِكَ

اپنی عبادت سے اور منقطع کر دے مجھ سے دُنْيَا کی ساری لذتیں لہٰذا اپنے انس کے ساتھ

وَالشُّوقَ إِلَى لِقَائِكَ وَاجْعَلْ طَاعَتَكَ فِي كُلِّ

اور اپنی ملاقات کے شوق کے ساتھ اور بنا دے اپنی فرماں برداری کو ہر چیز میں

شَيْءٍ مِنِّي يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي

میری طرف سے بزرگی والے اے عزت والے اے اللہ! نصیب فرما مجھے
جُجُكَ وَحُبَّ مَنْ أَحَبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَحُبَّ
اپنی محبت اور ان کی محبت جو تجھ سے محبت رکھتے تھے اور ان کی محبت جو تجھ سے محبت رکھتے ہیں اور ہر

عَمَلٍ يُقَرِّبُنِي إِلَى جُجُكَ وَاجْعَلْ جُجُكَ أَحَبَّ

اُس عمل کی محبت جو مجھے قریب کر دے تیری محبت کی طرف اور کر دے اپنی محبت کو سب چیزوں

الْأَشْيَاءِ الْيَنَامِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ لِلْعُطْشَانِ يَا

سے زیادہ محبوب ہونے لگے پانی سے پیاسے کے لئے یا

ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اللَّهُمَّ اسْقِنِي بِكَاسٍ مُحَمَّدٍ

ذالجلال والاکرام اے اللہ! پلا مجھے محمد مصطفیٰ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَظْمَأُ بَعْدَهَا أَبَدًا بِرَحْمَتِكَ

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سوا کسی اور سے ایسا پلا نہ کہ اس کے بعد پھر مجھے کبھی پیاس لگے اپنی رحمت کے فضل

يَا زُحْرَ الرَّاحِمِينَ ○ دُعَاءُ شُكْرِ النَّهَارِ فِي رُبُوعِ رَكْعَتِ سُورَةِ اخْلَاصٍ يَكُ بَارِعًا

یا زحرم الراحمین ○ دعا شکر النہار ہر رکعت میں ایک ایک بار سورۃ اخلاص پڑھے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رحمن اور رحیم ہے

الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى حُسْنِ الصَّبَاحِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى

سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے ہے اس کی اس مہربانی پر جو اُس نے صبح اچھی طرح گزارنے اور سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے ہے

حُسْنِ الْمَسَاءِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى حُسْنِ الْمَبِيتِ اللَّهُمَّ

اس کو اُس نے شام اچھی طرح گزارنے اور سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے عہدگی کے ساتھ رات گزارنے پر اے اللہ!

لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا دَائِمًا مَعَ دَوَامِكَ وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا

تیرے لئے حمد ہے ایسی حمد جو تیرے دوام کے ساتھ دائم رہے اور تیرے لئے حمد ہے ایسی حمد

لَا مُنْتَهَى لَهُ دُونَ مَشِيَّتِكَ وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا عِنْدَ

جس کی کوئی انتہا نہیں تیری مرضی کے بغیر اور تیرے لئے حمد ہے ایسی حمد جو ہر

كُلِّ طَرْفَةِ عَيْنٍ وَتَنْفَسٍ كُلِّ نَفْسٍ الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا

آنکھ چمکنے کے وقت ہو اور ہر سانس لینے کے وقت ہو سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے ہے ایسی تعریف

دَائِمًا عَدَدَ الْقَطْرَاتِ وَالنَّبَاتَاتِ وَالْجُرُودِ وَالشَّجَرِ وَ

جو ہمیشہ رہنے والی ہے جو بارش کے قطرے، نباتات، پتھروں، درختوں اور

الْأُورَاقِ الْحَمْدُ لِلَّهِ كِفَاةً وَالصَّلَاةُ عَلَى نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ

پتوں کے شام کے مطابق ہے سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے جو کافی ہے اس کو اور دُور دہو اُس کے نبی محمد پر

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَهِي بِرَحْمَتِكَ أَرْجُو فَلَا تَكِلْنِي إِلَى

صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ! میری رحمت سے میرا رکھتا ہوں پس مجھے میرے نفس کے

نَفْسِي وَلَا إِلَىٰ غَيْرِكَ طَرْفَةَ عَيْنٍ وَلَا أَقْلَ مَنْ ذَكَرَكَ

پہر نہ کر دے اور نہ کسی اور کی طرف آنکھ پھینکنے کی دیر یا اس سے بھی کم وقت میں اور

أَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ بِإِذْنِ اللَّهِ إِلَّا أَنْتَ وَحَدِّكَ لِشَرِّكَ لَكَ

درست کر دے میرے لئے میری ہر حالت کو بغیر لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک

وَتُبَّ عَلَيَّ وَاعْفُرْ لِي وَارْحَمْنِي أَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ

اور رحمت کی توجہ فرما مجھ پر اور بخش دے میرے لئے اور رحم فرما مجھ پر بے شک تو سب رحم کرنے والوں سے بہتر ہے اے اللہ!

لَكَ الْحَمْدُ وَالْيَاكُفُورُ وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَالْأَحْوَلُ وَالْقَوِيُّ

تجھے بغیر تمہارے لئے ہی سب کچھ تیرا تیری بارگاہ میں ہیں تجھی سے مدد مانگی کسی ہے نہ بڑائی سے بچنے کی طاقت اور نہ تیری

الْإِيكُ الْبَرَاءَةُ حَقِّ وَالِدِينَ دَرَهْرٍ وَرَكَعَاتِ آيَةِ الْكُرْسِيِّ بَارِعًا مِنْ بَارِعِيهِ

کرنے کی قوت کرتی ہے ساتھ۔ دو نفل حق والدین کے لئے ہیں ہر رکعت میں ایک آیت الکرسی اور تین بار سورۃ اخلاص پڑھے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم کرنے والا ہے

يَا لَطِيفُ الطُّفْلِ بِي وَبِوَالِدَتِي فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ

اے لطیف! طفل و کرم فرما میرے ساتھ اور میرے والدین کے ساتھ تمام حالتوں میں

كَمَا تَحِبُّ وَتَرْضَى يَا عَلِيُّ يَا قَدِيرُ يَا غَفُورُ يَا رَحِيمُ

جس طرح دوست رکھتا ہے تو اور پسند کرتا ہے تو لئے سب کو بخشنے والا ہے تجھ پر قدرت رکھنے والا ہے بخشنے والا ہے اور کرم فرماتا ہے

إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے

زِنُورِ شَمْسِ سُلَيْمَانَ

۱ ۹ ۲ ۱ ۵

عِيَانُ مُحَمَّدِ الدِّينِ



دُعَاءُ بَدَأَ لَدَائِلَ الْخَيْرَاتِ

دلائل الخیرات کی ابتدا کرتے وقت یہ دعا پڑھے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم کرنے والا ہے

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جو رب العالمین ہے کافی ہے مجھے اللہ تعالیٰ اور وہ بہترین کارساز ہے

وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ اللَّهُمَّ

نہیں کوئی طاقت اور نہ قوت رکھتا ہے مجھے توڑی کرنے کی بجز اللہ تعالیٰ کے جو اعلیٰ اور عظیم ہے اے اللہ!

إِنِّي أBRئِي مِنْ حَوْلِي وَقُوَّتِي إِلَى حَوْلِكَ وَقُوَّتِكَ

میں بیزار ہوتا ہوں اپنی طاقت اور قوت سے تیری طاقت اور قوت کی طرف

اللَّهُمَّ إِنِّي أَتَقَرَّبُ إِلَيْكَ بِالصَّلَاةِ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ! میں قرب حاصل کرتا ہوں تیری طرف درود صحیح کر اپنے آقا محمد پر

عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَرَسُولِكَ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ صَلَّى

جو تیرے بندے، تیرے نبی، تیرے رسول اور تمام رسولوں کے سردار ہیں صلی

اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْآلِهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ امْتِثَالًا

اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وعلیہم اجمعین تیرے

لَا مِرْكَ وَتَصَدِّقًا لِقَالِهِ وَحُبَّةً فِيهِ وَشَوْقًا إِلَيْهِ وَ

علم کی تعمیل کرتے ہوئے اور نبی مکرم کی تصدیق کرتے ہوئے آپ کے ساتھ محبت کرتے ہوئے، آپ کی طرف اظہارِ شوق

تَعْظِيمًا لِقَدْرِهِ وَلِكُونِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلًا

کرتے ہوئے اور ان کی شان کی تعظیم کرتے ہوئے اور اس لئے بھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان بات کے اہل ہیں

لِذَلِكَ فَتَقَبَّلَهَا مِنِّي بِفَضْلِكَ وَأَجْعَلْنِي مِنْ عِبَادِكَ

پس قبول فرما اس درود کو میری طرف سے اپنے فضل کے ساتھ اور بنادے مجھے اپنے

الصَّالِحِينَ وَوَفِّقْنِي لِقِرَائَتِهَا عَلَى الدَّوَامِ بِجَاهِهِ عِنْدَكَ

نیک بندوں سے اور توفیق بخش مجھے اس کی تلاوت کی ہمیشہ اس کے ترجمہ کے ضمن میں تیری جناب میں

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

اللہ تعالیٰ درود بھیجے ہمارے آقا محمد پر آپ کی آل پر آپ کے تمام اصحاب پر

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

میں مغفرت طلب کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے جو عظمت والا ہے، اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے اور ہر حمد کا سرلوار ہے

حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

کافی ہے مجھے اللہ تعالیٰ اور وہ بہترین وکیل ہے

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ... تَعْلَمُ أَعُوذُ بِرَبِّتِ الْفَلَقِ... اور تَعْلَمُ أَعُوذُ بِرَبِّتِ النَّاسِ، سُورَةُ فَاتِحَةٍ كِتَابَةِ تَعْلَمُ... اللہ شریف کے ساتھ اسماء الحسنی کا ورد کرے۔

دُعَاءُ يُقْرَأُ قَبْلَ الشَّرُوعِ

یہ دُعا جو شروع سے پہلے پڑھی جاتی ہے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم کرنے والا ہے

اللّٰهُمَّ مِنْ عَلَيْنَا بِصَفَاءِ الْمَعْرِفَةِ وَهَبْ لَنَا صِيْحَ

اے اللہ تعالیٰ احسان فرما ہم پر اپنی معرفت کی صفائی کے ساتھ اور بخش ہمیں صیح

الْمُعَامَلَةِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ عَلَى السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَصِدْقَ

معاملہ ہمارے درمیان اور اپنے درمیان اہل سنت و جماعت کے طریقہ کے مطابق اپنی ذات پر

التَّوَكُّلِ عَلَيْكَ وَحُسْنَ الظَّنِّ بِكَ وَامْنُنْ عَلَيْنَا بِكُلِّ

سچا توکل اور حُسن عن عطا فرما اور ہم پر ایسے احسان فرما جو ہمیں

مَا يُقَرِّبُنَا إِلَيْكَ مَقْرُونًا بِالْعَفْوِ فِي الدَّارَيْنِ

تیرے قریب کر دے تیری ذات کی طرف اس حال میں کہ دوا رین میں تیری عفو اور بخشش ہمارے ساتھ ہو

يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

یا رب العالمین

مُصَنَّفِ دِلَالِ الْخَيْرَاتِ شَرِيفِ كَيْ مُخْتَصَرِ سَوَاحِجِ حَيَاتِ

دلائل الخیرات شریف کے عظیم مصنف کا اسم گرامی شیخ الامام العارف الکامل قطب الاقطاب
 فرید العصر ابو عبد اللہ محمد بن سلیمان البحر مونی السملالی ہے۔ آپ حسنی سادات سے تھے اور اکیس واسطوں
 سے آپ کا سلسلہ نسب حضرت سیدنا امام حسن بن علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ رضی اللہ عنہم
 اجمعین سے جا رہا ہے۔ آپ کے والد قبیلہ جزولہ اور سہلہ کے امیر لوگوں میں شمار کئے جاتے تھے۔ جن کی
 سکونت بطنع سوس اقصیٰ نمک بربر افریقیہ تھی۔ آپ نے مدنیہ فاس میں علم حاصل کیا اور جامعہ قرطین
 کے کتب خانہ میں ساٹھ سال عہدت گزینی اور مطالعہ کے بعد آپ نے دلائل الخیرات کو مرتب کیا پھر آپ
 فاس سے ساحلی علاقہ کی طرف تشریف لائے اور وہاں کے عارف کامل شیخ ابو عبد اللہ محمد بن عبد اللہ کے
 دست حق پرست پر بیعت کی۔ پھر ریاضت و عبادت کے لئے آپ چودہ سال غلوت گزین رہے۔ اس
 طویل غلوت میں مدارج سلوک طے کرنے کے بعد دین کی تبلیغ اور نشر و اشاعت کے لئے آپ نے غلوت
 اختیار کی۔ بے شمار لوگ آپ کے دست حق پرست پر تائب ہوئے اور آپ کا چرچا کائنات عالم میں پھیل گیا
 اور آپ سے بے شمار کلمات اور عظیم خوارق رونما ہوئے۔ آپ کے اوصاف و کمالات میں غور و فکر کرنے سے
 عقل انسانی دنگ رہ جاتی ہے۔ آپ کتاب و سنت کے سختی سے پابند تھے اور ہر وقت اور دو وعائت
 میں مشغول رہتے۔ آسفی شہر کے والی نے آپ کو وہاں سے نکال دیا۔ آپ نے موضع آفرغال جو مہرازہ
 کے علاقوں میں ایک شہور بستی ہے وہاں آکر اقامت اختیار کی اور اپنے مریدین کی تربیت میں مشغول
 رہنے لگے۔ آپ کی برکت سے ان کے دل انوار الہی سے جگمگانے لگے اور اسرار و معارف تصوف ان
 پر آشکارا ہونے لگے۔ آپ ہی کی برکت سے تمام بلاد مغرب میں لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کے ذکر
 اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کا شوق بے پایاں پیدا ہوا۔ آپ کی شہرت
 نمک کے کونے کونے میں پہنچی اور آپ کے معتقدین بستی بستی میں پائے جانے لگے۔ آپ کی برکت سے
 نمک اور اہل نمک کو حیات نواز ذلتی ہوئی اور طریقہ تصوف جو اس علاقہ میں بیٹ چکا تھا پھر زندہ ہو گیا۔

آپ کے خلفا میں ایسے ایسے کامل بزرگ تھے جنہوں نے اس سلسلہ کے فیض کو دور دراز علاقوں تک پہنچایا۔ ان میں سے ایک بزرگ ابو عبد اللہ محمد الصغیر السہلی، دوسرے شیخ محمد عبد الکریم المنذاری بہت مشہور ہیں۔ آپ کی اور آپ کے مخلص تلامذہ کی کوششوں سے معرفت الہی کا نور عام ہوا اور دلوں کی دنیا اس کے انوار سے جگمگانے لگی۔ بارہ ہزار چھ سو پینسٹھ آپ کے وہ کامل مرید تھے جو مقام ولایت پر فائز ہوئے۔ زہر خورانی سے آپ کا وصال صبح کی نماز کی پہلی رکعت کے دوسرے سجدہ میں یا دوسری رکعت کے پہلے سجدہ میں ہوا۔ رجب الاول کی ۱۶ تاریخ سن ۷۸۵ھ تھی اور ۸۸۵ھ تھا۔ آپ کو آپ کی مسجد کے صحن میں نماز گاہ کے بعد دفن کیا گیا۔ آپ کی کوئی اولاد نرینہ نہ تھی۔

آپ کے وصال کے ستر (۷۷) سال بعد آپ کے جسم مبارک کو موس سے مراکش منتقل کیا گیا اور ریاض العروس کے مقبرہ میں آپ کو دفن کیا گیا اور آپ کی مرقد پر روزہ قہر ہوا۔

ستر سال کے بعد جب آپ کو آپ کی قبر سے نکالا گیا تو آپ کا جسم بالکل تروتازہ تھا جیسے آج ہی اُن کو دفن کیا گیا ہو۔ زمین نے آپ پر کوئی اثر نہ کیا تھا اور اتنی طویل مدت کے بعد آپ کے جسم پر کوئی خیر ظہور پذیر نہیں ہوا۔ آپ کی دائرہ مبارک اور سر مبارک کے بال ایسے تھے جیسے آج ہی کسی حجام نے حجامت بنائی ہو بعض لوگوں نے آپ کے چہرے پر انگلی رکھ کر دہائی، خون وہاں سے ہٹ گیا۔ اور جب انگلی اٹھائی تو خون اپنی جگہ پر ٹوٹ آیا جس طرح زندہ آدمی کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ آپ کا مزار پُر انوار مراکش میں ہے جس پر بڑا رعب و جلال کا سماں طاری ہے۔ لوگ زیارت کے لئے جوق در جوق حاضر ہوتے ہیں اور دلائل الخیرات بکثرت پڑھی جاتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر آپ کے بکثرت درود پڑھنے سے آپ کی قبر سے کستوری کی خوشبو آتی ہے۔ آپ کا تعلق سلسلہ شاذلیہ سے ہے۔ دلائل الخیرات کے علاوہ تصوف میں آپ کی بہت سی تعینیات ہیں۔



دلائل الخیرات شریف پڑھنے کا طریقہ

امام متین قطب عالم حضرت شاہ غلام علی صاحب نقشبندی مجددی قادری سے منقول ہے

دلائل الخیرات شریف پڑھنے والے کو چاہیے کہ وقت شروع منزل کے ابتدا اس دُعا سے کرے۔ جو
 صفحہ نمبر ۷۱ پر درج ہے یعنی الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اِس کے بعد تینوں قل شریف
 اور الحمد شریف بسم اللہ کے ساتھ تین تین بار پڑھے۔ پھر اسماءِ حسنیٰ پڑھے۔ ہر نام مبارک کے ساتھ جَلَّ
 جَلَّالہ کے اور اسماءِ حسنیٰ کے آخر میں جو پڑھے جو پڑھا ہے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے
 اسماءِ گرامی کا یوں ورد کرے۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰی مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ
 وَسَلَّمْ ہر اسم مبارک کے ساتھ سیدنا اور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اضافہ ذکر تا جلتے۔ آخر میں اسماءِ گرامی کے
 بعد جو دُعا رقم ہے اَللّٰهُمَّ يَا رَبِّ جِبَالٍ يَا رَبِّ الْمَاضِيَةِ الْاَوْفَى پڑھے۔ ہر روز منزل پڑھنے سے پہلے
 اِن اُمور کی تلاوت ضرور کرے۔ بعد ازاں دلائل الخیرات شریف کی اُس روز کی منزل پڑھے۔ اس ترتیب
 سے پڑھنے میں بڑا فائدہ اور کمال ثواب ہے۔ نیز یہ یاد رکھیں کہ دلائل الخیرات میں جہاں آں حضرت
 صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا دوسرے انبیاء کرام صلی اللہ علیہم و آلہم و سلم کا نام نامی آئے اس کے اول اگرچہ
 لفظ سیدنا مکتوب نہ ہو تاہم پڑھنے والا سیدنا کا لفظ از خود بڑھا کر پڑھے۔ کیونکہ اس آداب و تعظیم سے
 نہایت قُرب حاصل ہوتا ہے۔ یا جو مستقبل قبلہ بیٹھ کر پڑھنا اور اُٹھنا اسے منزل میں کسی سے کلامِ دنیوی
 نہ کرنا بہت مؤثر ہے۔ دو شنبہ کے دن ہی ختم ہوتا ہے اور اس دن ہی دو شنبہ کی منزل پڑھنا مناسب

۱۔ ضروری نوٹ:۔ خواجگانِ حقیقت رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کے نزدیک دلائل الخیرات پڑھنے کے وہی آداب و شرائط ہیں جو
 اُپر مذکور ہوئے۔ صرف اتنا فرق ہے کہ یہاں پہلی منزل دو شنبہ کے بجائے جمعہ کو شروع ہوتی ہے (باقی پر صفحہ آئندہ)

ہے یعنی آٹھویں دن ہی ختم۔ اسی دن پہلی منزل کا شروع ہے اور چھ دن درودوں یا دعاؤں کو پڑھنا
 مرتبہ پڑھنا لکھا ہے ان کو تین مرتبہ پڑھے۔ اس برکت والی کتاب کے پڑھنے میں دو جہان کی سعادات
 حاصل ہوتی ہیں کیونکہ اس میں سب کے سب درود مبارک جمع ہیں۔ جس نے اس کا وظیفہ شروع کیا اس
 کے دین و دنیا کے سب کام حسن انجام پاتے ہیں۔ حسن اعتماد و خلوص نیت کرے کہ نیک نیت سے
 ہی اجر حاصل ہوتا ہے۔ واللہ الموفق والمعين۔ بعد ختم دلائل الخیرات کے ایک دفعہ درود کبیرہ اعظم
 پڑھنا چاہیے۔



(بقیہ سفر گذشتہ) اور آخری منزل جمعہ کو ہی ختم ہوتی ہے۔ اس بے سلسلہ چشتیہ سے جو لوگ منسک ہیں وہ دلائل الخیرات
 کی تلاوت میں اس ترتیب کو ملحوظ رکھیں۔ ہر منزل کی ابتدا میں نوٹ لکھ دیا گیا ہے کہ یہ منزل سلسلہ چشتیہ میں کس روز
 پڑھی جانی چاہیے۔

فیض محمد کرم شاہ

تجاہد نشین بیہوشیہ و شیعہ سرگودھا

مُقَدِّمَةٌ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا

سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے اور درود و سلام ہوں ہمارے آقا

مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ ○ قَالَ الشَّيْخُ

محمد پر اور آپ کی آل و اصحاب پر فرمایا شیخ نے

الْإِمَامُ الْوَلِيُّ الْكَبِيرُ الْقُطْبُ الشَّهِيرُ سُلْطَانُ

جو پیشوا ہیں، ولی کبیر ہیں قطب شہیر ہیں مقررین کے

الْمُقَرَّرِينَ وَقُطْبُ دَائِرَةِ الْمُحَقِّقِينَ ○

بادشاہ ہیں مقررین کے حلقہ کے قطب

وَسَيِّدُ الْعَارِفِينَ ○ صَاحِبُ الْكَرَامَاتِ

مصلوفوں کے سردار تھیں کرامات اور

الظَّاهِرَةِ وَالْأَسْرَارِ الْبَاهِرَةِ ○ سَيِّدِي أَبُو

روشن اسرار کے مالک ہیں یعنی میرے سردار ابو

عَبْدَ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْجَزُولِيِّ

عبد اللہ محمد بن سلیمان الجزولی

رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ۝

رضی اللہ عنہ کہ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لَإِيمَانٍ وَالْإِسْلَامِ ۝

سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے لئے جس نے ہماری رہنمائی فرمائی ایمان اور اسلام کی طرف

وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نَبِيِّهِ

اور درود و سلام ہوں ہمارے آقا محمد پر جو اللہ کے نبی ہیں

الَّذِي اسْتَنْقَذَنَا بِهِ مِنْ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ

جن کے طفیل اللہ نے ہمیں بتوں اور جھوٹے خداؤں کی پرستش سے

وَالْأَصْنَامِ ۝ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ النَّجْبَاءِ الْبَرَّةِ

نجات دی نیز آپ کی آل اور آپ کے اصحاب پر جو برگزیدہ نیکوکار اور

الْكَرَامِ ۝ وَبَعْدَ هَذَا فَالْغَرَضُ فِي هَذَا الْكِتَابِ

اہل کرم ہیں حمد و نعت کے بعد اس کتاب کی تالیف کا مقصد

ذِكْرُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا

وَفَضَائِلُهَا نَذْكُرُهَا مَحْذُوفَةً الْأَسَانِيدَ لِيسهل

اور اس کے فضائل کا بیان ہے ہم انہیں ذکر کریں گے لہذا کو حذف کر دیں گے تاکہ قاری پر

حَفْظُهَا عَلَى الْقَارِئِ وَهِيَ مِنْ أَهْوَاءِ الْمُهِمَّاتِ

ان کا حفظ آسان ہو جائے اور یہ اہم ترین مقاصد سے ہے۔

لِمَنْ يَرِيدُ الْقُرْبَ مِنْ رَبِّ الْأَرْبَابِ

اُس خوش نصیب کے لئے جو رب العالمین کے قرب کا خواستگار ہو

وَسَمِيَّتُهُ بِكِتَابِ

میں نے اس کتاب کا نام

دَلَائِلُ الْخَيْرَاتِ

دلائل الخیرات

وَشَوَارِقِ الْأَنْوَارِ

شوارق الانوار

اور

فِي ذِكْرِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ الْمُخْتَارِ ۝ ابْتِغَاءً

فی ذکر الصلوٰۃ علی النبی المختار رکھا ہے مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ

لِمَرْضَاتِ اللَّهِ تَعَالَى وَحُبَّةً فِي رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

راضی ہو اور محبت نصیب ہو اُس کے رسول کریم

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا ۝

جس کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی

وَاللَّهُ الْمَسْئُولُ أَنْ يَجْعَلَ لِسُنَّتِهِ مِنَ التَّابِعِينَ

اور اللہ تعالیٰ سے ہی ہم التجا کرتے ہیں کہ ہمیں آپ کی سنت کے فرما بندگانوں

وَلِذَاتِهِ الْكَامِلَةِ مِنَ الْمُحِبِّينَ ۝ فَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ

اور آپ کی کامل ذات کے مشاق میں سے کرے بے شک وہ اس پر

قَدِيرٌ ۝ لَا إِلَهَ غَيْرُهُ وَلَا خَيْرَ الْأَخْيَرَةِ ۝ وَهُوَ

قادِر ہے نہیں کوئی معبود سوائے اس کے اور نہیں کوئی بھلائی بجز اس کی بھلائی کے اور وہ

نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ۝ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ

بہترین دوست اور بہترین مددگار ہے ہمارے پاس نہی کرنے اور نہ ہونے پہنچنے

إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ۝

کی کوئی طاقت اور قوت نہیں بجز اللہ کی مہلنی کے جو برتر اور عظمت والی ہے

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ۝

تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو



فَضْلٌ فِي فَضْلِ الصَّلَاةِ

یہ فصل نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر

عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

درود بھیجنے کے فضائل میں ہے

قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ

فرمایا اللہ نے جو غالب اور بزرگ ہے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں

عَلَى النَّبِيِّ طَيِّبَاتِهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ

اس نبی مکرم پر۔ اے ایمان والو! تم بھی آپ پر درود بھیجا کرو اور بڑے ادب

سَلِّمُوا وَسَلِّمًا

اور احترام سے سلام عرض کیا کرو

وَيُرْوَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

جَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ وَالْبُشَيْرِيُّ تَرَى فِي وَجْهِهِ فَقَالَ

ایک روز تشریف لائے اور خوشی ظاہر ہو رہی تھی آپ کے رخ الوہ سے پس آپ

إِنَّهُ جَاءَ نِيَّ جَبْرِئِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ لِي أَمَا

نے فرمایا کہ میرے پاس جبیل علیہ السلام آئے ہیں اور مجھے کہا ہے کہ اے

تَرْضَى يَا مُحَمَّدَانُ لَا يَصِلُ عَلَيْكَ أَحَدٌ مِنْ

محمد مصطفیٰ آپ اس بات پر راضی نہیں کہ آپ کا کوئی اہلی آپ پر ایک بار درود

أُمَّتِكَ إِلَّا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا ۝ وَلَا يُسَلِّمُ

بیچے تو میں اُس پر دس بار درود بھیجوں اور آپ کا جو اہلی

عَلَيْكَ أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِكَ إِلَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا

آپ پر ایک بار سلام بھیجے تو میں اُس پر دس بار سلام بھیجوں

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو ان میں

بِي الْكُتْمَةِ عَلَى صَلَاةٍ ۝ وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

سے مجھ پر بہت کثرت سے درود بھیجے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے

وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاتٌ عَلَيْهِ الْمَلَكَةُ مَا دَامَ

فرمایا جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے اُس پر فرشتے درود بھیجتے رہتے ہیں جب تک وہ

يُصَلِّي عَلَيَّ فَلْيَقِلُّ عِنْدَ ذَلِكَ أَوْلِيكَتُهُ وَقَالَ

مجھ پر درود بھیجتا رہے۔ اب اُس کی مرضی تھوڑا درود بھیجے یا زیادہ۔ رسول کریم

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَسْبِ الْمَرْءِ مِنَ الْبُخْلِ

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے بخیل ہونے کے لئے

أَنْ أَذْكَرَ عِنْدَهُ وَلَا يُصَلِّي عَلَيَّ ۝ وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ

اتنا ثبوت ہی کافی ہے کہ اُس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے تو روزہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ رسول کریم

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرُوا الصَّلَاةَ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ۝

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت سے درود بھیجا کرو مجھ پر جمعہ کے دن

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ مِنْ

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت سے جو شخص مجھ پر

أُمَّتِي مَرَّةً وَوَاحِدَةً كُتِبَتْ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَ

ایک مرتبہ درود پڑھے گا اُس کے نامہ عمل میں دس نیکیاں لکھی جائیں گی اور

مُحِيَّتٌ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

دس گناہ مٹا دیئے جائیں گے سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم

وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْأَذَانَ وَالْإِقَامَةَ ۝

نے فرمایا جب کوئی شخص آذان اور اقامت سن کر یہ کہتا ہے

اللَّهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةُ التَّاقَةُ وَالصَّلَاةُ الْقَائِمَةُ

اے اللہ! اِس کا دل دعا اور قائم ہونے والی نماز کے مالک

أَنْتَ مُحَمَّدٌ الْوَسِيلَةُ وَالذَّرَجَةُ الرَّبِيعَةُ

معاذ (ما اپنے محبوب) محمد کو وسیلہ اور بزدلی اور بلند درجہ

وَابْعَثَهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتُهُ حَلَّتْ لَهُ

اور انہیں مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے تو اُس

شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۝ وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

کے لئے روز قیامت میری شفاعت حلال ہو جائے گی۔ نبی رحمت نے فرمایا

وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ فِي كِتَابٍ لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي

جس نے مجھ پر درود کتاب میں لکھا فرشتے اُس پر اُس وقت تک درود

عَلَيْهِ مَا دَامَ اسْمِي فِي ذَلِكَ الْكِتَابِ ۝ وَقَالَ

پڑھتے رہیں گے جب تک میرا نام اُس کتاب میں لکھا رہے گا حضرت ابوسلمان ثمالی

أَبُو سُلَيْمَانَ الدَّارَانِيُّ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُسْئَلَ اللَّهَ

نے فرمایا کہ جو ارادہ کرے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنی

حَاجَتَهُ فَلْيُكْثِرْ بِالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

حاجت مانگے تو اُسے چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھے

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يُسْئَلُ اللَّهَ حَاجَتَهُ وَيُخْفِرُ

پھر اللہ سے اپنی حاجت مانگے اور چاہیے کہ ختم کرے

بِالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ

اپنی حاجت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے سے کیونکہ

اللَّهُ يَقْبَلُ الصَّلَاتَيْنِ وَهُوَ أَلَمُّ مِنْ أَنْ يَدَعَ مَا

اللہ تعالیٰ دونوں درودوں کو تو قبول فرماتا ہی ہے اور اُس کا کرم گوارا نہیں کرتا کہ درمیان

بَيْنَهُمَا ۝ وَرَوَى عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ

کی دعا کو مسترد کرے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے مروی ہے کہ حضور نے

قَالَ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِائَةً مَرَّةً غُفِرَتْ

فرمایا جو جمعہ کے دن سو مرتبہ مجھ پر درود پڑھے گا اُس کی

لَهُ خَطِيئَةٌ ثَمَانِينَ سَنَةً ۝ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

اسی سال کی خطائیں بخش دی جائیں گی حضرت ابو ہریرہ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

وَسَلَّمَ قَالَ لِلْمُصَلِّيِّ عَلَى نُورٍ عَلَى الصِّرَاطِ وَمَنْ

فرمایا مجھ پر درود پڑھنے والے کے لئے پل صراط پر نور ہوگا اور جو

كَانَ عَلَى الصِّرَاطِ مِنْ أَهْلِ النُّورِ لَمْ يَكُنْ مِنْ

پل صراط پر اہل نور سے ہوگا وہ دوزخیوں میں سے

أَهْلِ النَّارِ ۝ وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ

نہیں ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے

نَسِيَ الصَّلَاةَ عَلَى فَقَدْ أَخْطَا طَرِيقَ الْجَنَّةِ وَإِنَّمَا

فراموش کر دیا مجھ پر درود پڑھنے کو اُسے بھول گیا جنت کا راستہ۔ نسیان سے مراد ترکِ درود

أَرَادَ بِالنَّسْيَانِ التَّرْكَ وَإِذَا كَانَ التَّارِكُ يُخْطِئُ طَرِيقَ

ہے اور جب درود کا تارک جنت کا راستہ بھول جاتا ہے تو درود پڑھنے والا

الْجَنَّةِ كَانَ الْمُصَلِّيَ عَلَيْهِ سَالِكًا إِلَى الْجَنَّةِ ۝ وَفِي

جنت کی راہ پر گامزن ہوتا ہے حضرت

رِوَايَةٌ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَنِي

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس

جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ لَا يُصَلِّي

جبریل علیہ السلام آئے اور کہا یا محمد حضور کا جو اُمتی

عَلَيْكَ أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِكَ الْأَصْلَ عَلَيْهِ سَبْعُونَ

آپ پر ایک بار درود پڑھے گا ستر ہزار

أَلْفَ مَلَكٍ وَمَنْ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ كَانَ مِنْ

فرشتے اس پر درود پڑھیں گے اور جس پر فرشتے درود پڑھتے ہیں وہ

أَهْلِ الْجَنَّةِ ۝ وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرُكُمْ

اہل جنت سے ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو

عَلَى صَلَاةٍ أَكْثَرُكُمْ أَزْوَاجًا فِي الْجَنَّةِ ۝ وَرُوِيَ

زیادہ مجھ پر درود پڑھے گا اُسے جنت میں عورتیں بھی زیادہ ملیں گی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام

عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ

سے مروی ہے کہ حضور نے فرمایا جو شخص مجھ پر

صَلَاةً تَعْظِيمًا لِحَقِّي خَلَقَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ مِنْ ذَلِكَ

درود بھجتا ہے محض میرے حق کی تعظیم بجالانے کے لئے تو اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے اس درود

الْقَوْلِ مَلَكَ لَهُ جَنَاحٌ بِالشَّرْقِ وَالْآخَرُ بِالْمَغْرِبِ

سے ایک فرشتہ اُس کا ایک پر مشرق میں اور دوسرا مغرب میں

وَرَجُلَاهُ مَقْرُورَتَانِ فِي الْأَرْضِ السَّابِعَةِ السُّفْلَى

اور اس کے دو پاؤں گڑھے ہوتے ہیں نیچے والی ساتویں زمین میں

وَعُنُقُهُ مُلْتَوِيَةٌ تَحْتَ الْعَرْشِ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ

اور اُس کی گردن لپٹی ہوئی ہے عرش کے نیچے اللہ عز و جل

وَجَلَّ لَهُ صَلَّى عَلَى عَبْدِ مِي كَمَا صَلَّى عَلَى نَبِيِّيْ فَهُوَ

اُسے علم دیتے ہیں کہ درود پڑھو میرے اس بندے پر جس طرح اس نے درود پڑھا میرے کسی نبی پر

يُصَلِّي عَلَيْهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۝ وَرَوَى عَنْهُ صَلَّى

قیامت تک اُس پر درود پڑھتا رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِيُرِدَنَّ عَلَيَّ الْحَوْضَ يَوْمَ

مروی ہے کہ آپ نے فرمایا روز قیامت حوض کوثر پر میرے

الْقِيَامَةِ أَقْوَامًا عَرَفْتُهُمْ إِلَّا بَكْرَةَ الصَّلَاةِ عَلَيَّ ۝

ہاں ایسی قومیں آئیں گی جن کو میں محض اُن کے کثرتِ درود سے پہچانتا ہوں

وَرَوَى عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ حضور نے فرمایا جو مجھ پر

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ مَرَّةً وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرَ

ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اُس پر دس بار

مَرَّاتٍ وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ عَشْرَ مَرَّاتٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

درود پڑھتا ہے اور جو مجھ پر دس مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اُس پر

مِائَةَ مَرَّةٍ وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ مِائَةَ مَرَّةٍ صَلَّى اللَّهُ

سو مرتبہ درود پڑھتا ہے اور جو مجھ پر سو مرتبہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ

عَلَيْهِ أَلْفَ مَرَّةٍ وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ أَلْفَ مَرَّةٍ حَرَّمَ اللَّهُ

ہزار بار اُس پر درود پڑھتا ہے اور جس شخص کو ہزار بار درود پڑھنے سے اُس کے جسم کو اللہ تعالیٰ

جَسَدَهُ عَلَى النَّارِ وَثَبَّتَهُ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي

آگ پر حرام کر دیتا ہے اور اس کو پچھے قول پر ثابت قدم رکھتا ہے

الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ عِنْدَ الْمَسْئَلَةِ وَأَدْخَلَهُ

دُنْيَا كِي زَمْدَكِي مِيں اُور اُخرت مِيں سِوَال كِي وَقت قَبْر مِيں اُور دَاخِل فرمَانِي گَا

الْجَنَّةِ وَجَاءَتْ صَلَوَتُهُ عَلَى نُورِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

اُسے جنت مِيں اُور آئے گَا اس كَا دَرُود جو اس نے مجھ پْر بِيحَا ہے نُور مِيں كَر قِيَامَت

عَلَى الصِّرَاطِ مَسِيرَةَ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ وَأَعْطَاهُ

كِي دن جو پُل صِرَاط پْر پَانچ سوسال كِي مَسَافَت تِك پھِيلا هُوا هُو گَا اُور هِر دَرُود كِي بِلِي

اللَّهُ بِكُلِّ صَلَاةٍ صَالِحَةٍ عَلَى قَضَائِي الْجَنَّةِ قَلَّ

اللہ تعالیٰ جنت مِيں اُسے اِيك مَحَل دے گَا تَقْوِيًا پْر مِيں

ذَلِكَ أَوْ كَثُرَ ۝ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَا زِيَادَة (يَا اُس كِي مرضِي) نَبِي كَرِيم صَنِي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِي فرمَايَا

مَا مِنْ عَبْدٍ صَلَّى عَلَيَّ الْآخِرَةَ صَلَاةً مُّسْرِعَةً

جو بِنْدَه مجھ پْر دَرُود بِيحَا ہے تُو اُس كَا دَرُود اُس كِي مَنَد سے تيزِي سے

مَنْ فِيهِ فَلَا يَبْقَى بَرٌّ وَلَا يَمُوتُ وَلَا يَشْرُقُ وَلَا غَرْبٌ

نِكَلَا ہے پھر كوئي باقِي رَهْتِي ہے عَشِي كِي نِي كوئي سَمْنَدَر نِي مَشْرُق اُور نِي مَغْرِب

إِلَّا وَتَمْرِيهِ وَتَقْوَلُ أَنَا صَلَاةُ فَلَانَ ابْنِ فَلَانَ

گروہ وہاں سے گزرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں فلاں بن فلاں کا درود ہوں

صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ الْمُخْتَارِ خَيْرِ خَلْقِ اللَّهِ فَلَا يَبْقَى

جو اس نے محمد مختار جو اللہ کی سب مخلوق سے بہتر ہے پر بھیجا ہے پس نہیں بابت ہر

شَيْءٍ إِلَّا وَصَلَّى عَلَيْهِ وَيُخْلَقُ مِنْ تِلْكَ الصَّلَاةِ

حراس پر درود بھیجتی ہے اور اس درود سے ایک پر بندہ پیدا

طَائِرٌ لَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ جَنَاحٍ فِي كُلِّ جَنَاحٍ

کیا جاتا ہے جس کے ستر ہزار بازو ہوتے ہیں اور ہر بازو میں

سَبْعُونَ أَلْفَ رِيشَةٍ فِي كُلِّ رِيشَةٍ سَبْعُونَ أَلْفَ

ستر ہزار پر ہوتے ہیں اور ہر پر میں ستر ہزار

رَأْسٍ فِي كُلِّ رَأْسٍ سَبْعُونَ أَلْفَ وَجْهٍ فِي كُلِّ

سر ہوتے ہیں اور ہر سر میں ستر ہزار چہرے ہوتے ہیں اور ہر چہرے

وَجْهٍ سَبْعُونَ أَلْفَ فِعْرٍ فِي كُلِّ فِعْرٍ سَبْعُونَ أَلْفَ

میں ستر ہزار ٹنڈے ہوتے ہیں اور ہر ٹنڈے میں ستر ہزار

لِسَانٍ فِي كُلِّ لِسَانٍ يُسَبِّحُ اللَّهَ تَعَالَى بِسَبْعِينَ أَلْفَ

زبانیں اور ہر زبان ستر ہزار لغات میں اللہ کی تسبیح کرتی ہے

كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ ۝ وَرُوي عَنْ بَعْضِ

سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں بعض صحابہ

الصَّحَابَةِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ أَنَّهُ قَالَ

رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ جس

مَا مِنْ مَجْلِسٍ يُصَلِّي فِيهِ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

مجلس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا

وَسَلَّمَ الْأَقَامَتْ مِنْهُ رَأْحَةٌ طَيِّبَةٌ حَتَّى تَبْلُغَ

جاتا ہے اُس سے ایک خوشبودار مہک اُٹھتی ہے جو آسمان تک

عِنَانَ السَّمَاءِ فَتَقُولُ الْمَلَكَةُ هَذَا مَجْلِسٌ صَلَّى فِيهِ

جا پہنچتی ہے پھر فرشتے کہتے ہیں یہ وہ مجلس ہے جس میں

عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذُكِرَ فِي بَعْضِ

محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا گیا ہے بعض اخبار میں مذکور

الْأَخْبَارِ أَنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ أَوِ الْأَمَةَ الْمُؤْمِنَةَ إِذَا

ہے جب کوئی بندہ مومن یا مومن بندہ حضرت

بَدَأَ بِالصَّلَاةِ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا شروع کرتی ہے

فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَالسَّرَادِقَاتُ حَتَّىٰ إِلَىٰ

تو کھول دیئے جاتے ہیں اُس کے لئے آسمانوں کے دروازے اور اٹھ دیتے جاتے ہیں

الْعَرْشِ فَلَا يَبْقَىٰ مَلَكٌ فِي السَّمَوَاتِ إِلَّا صَلَّىٰ عَلَيْهِ

حجابت عرش تک پس کوئی فرشتہ آسمانوں میں باقی نہیں رہتا مگر وہ

مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَا كَانُوا

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پر درُود بھیجتا ہے اور مغفرت طلب کرتا ہے اُس بندے

الْعَبْدِ أَوْ الْأَمَةِ مَا شَاءَ اللَّهُ ۝ وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

اور بندے کے لئے جتنا اللہ چاہے اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ

وَسَلَّمَ مَنْ عَسُرَتْ عَلَيْهِ حَاجَةٌ فَلْيُكْثِرْ بِالصَّلَاةِ

وہم نے جس پر مشکل ہو جائے کوئی حاجت پس اُسے چاہیے کہ کثرت سے

عَلَىٰ فَإِنَّهَا تَكْشِفُ الْهَمَّ وَالْغَمَّ وَالْكَرْبَ

دُرُودِ بَحْبَحَ مَجْهُدٍ كَيْونَكَ دُرُودٌ دُورٌ كَمَا هِيَ سَبْ أِفْكَارُ كُو، سَبْ عَمَلُو كُو، سَبْ عَطْفِيلُو كُو

وَتُكْثِرُ الْأَرْزَاقَ وَتَقْضِي الْحَوَائِجَ ۝ وَعَنْ

اُور زیادہ کرتا ہے روزیوں کو اور روا کرتا ہے سب حاجتوں کو ایک بزرگ

بَعْضُ الصَّالِحِينَ أَنَّهُ قَالَ كَانَ لِي جَارٌ نَسَاخُ فَمَاتَ

سے مروی ہے انہوں نے فرمایا کہ میرا ایک پڑوسی تھا جو کتابت کیا

فَرَأَيْتُهُ فِي الْمَنَامِ فَقُلْتُ لَهُ مَا فَعَلَ اللَّهُ بِكَ

کرنا تھا وہ مرگیا تو میں نے اسے خواب میں دیکھا اور پوچھا سناؤ اللہ تعالیٰ نے

فَقَالَ غَفَرَنِي فَقُلْتُ لَهُ فَبِعَ ذَلِكِ فَقَالَ كُنْتُ إِذَا

تہاے ساتھ کیا برتاؤ کیا۔ کہا مجھے بخش دیا میں نے پوچھا کیسے۔ کہا کہ جب میں

كُنْتُ اسْمُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كِتَابِ

حضور کا اسم مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا کرتا تو میں درود پڑھا کرتا تھا آپ پر

صَلَّيْتُ فَأَعْطَانِي رَبِّي مَالًا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ

اس کے صلہ میں مجھے میرے رب نے وہ نعمتیں بخشیں جو نہ آنکھ نے دیکھیں نہ کان نے

سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبٍ بَشَرٍ وَعَنْ النَّسِ

نہیں اور نہ کسی کے دل میں اُن کا تصور ہوا حضرت انس سے مروی ہے

أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

آپ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

لَا يُؤْمِنُ أَحَدٌ كَوْحَتِي أَوْ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ

تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں بن سکتا یہاں تک کہ میں اسے محبوب تر نہ ہوں

نَفْسِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ جَمْعِينَ

اُس کے نفس سے، اُس کے مال سے، اُس کی اولاد سے، اُس کے والد سے اور تمام لوگوں سے۔

وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ أَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ

حدیث میں ہے حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ آپ مجھے ہر چیز سے

مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا نَفْسِي الَّتِي بَيْنَ جَنْبَيْ فَقَالَ لِعَلِّيهِ

محبوب ہیں بجز میرے نفس کے جو میرے پہلوئیں ہے حضور علیہ الصلوٰۃ

الصَّلَاةِ وَالسَّلَامُ لَا تَكُونُ مُؤْمِنًا حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ

والسلام نے فرمایا کہ تو مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں تمہیں تمہارے

إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ فَقَالَ عُمَرُ وَالَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ

نفس سے بھی محبوب تو نہ ہوں۔ حضرت عمر نے عرض کیا اُس ذات کی قسم جس نے

الْكِتَابَ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي الَّتِي بَيْنَ جَنْبَيْ

آپ پر قرآن نازل فرمایا آپ مجھے میرے نفس سے بھی اب پیارے ہو گئے ہیں

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآنَ يَا عُمَرُ

تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اُسے عمر!

تَوَّابِيَانِكَ ۝ وَقِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

تیرا ایمان مکمل ہو گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا

وَسَلَّمَ مَتَىٰ أَكُونُ مُؤْمِنًا وَفِي لَفْظِ آخِرِ مُؤْمِنًا

میں کب مومن بنوں گا اور دوسری روایت میں ہے کہ کب

صَادِقًا قَالَ إِذَا أَحْبَبْتَ اللَّهَ فَقِيلَ مَتَى أَحَبُّ

سچا مومن بنوں کا فرمایا جب تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرو گے۔ اُس نے عرض کی کب میں اللہ

اللَّهُ قَالَ إِذَا أَحْبَبْتَ رَسُولَهُ فَقِيلَ وَمَتَى أَحَبُّ

سے محبت کروں گا فرمایا جب تم اُس کے رسول سے محبت کرو گے عرض کی میں اُس کے رسول سے

رَسُولَهُ قَالَ إِذَا اتَّبَعْتَ طَرِيقَتَهُ وَاسْتَعْمَلْتَ

کب محبت کروں گا فرمایا جب تم اُن کی راہ پر چلو گے اور اُن کی سنت پر عمل

بِسُنَّتِهِ وَأَحْبَبْتَ بِحُبِّهِ وَأَبْغَضْتَ بِبُغْضِهِ وَ

کرو گے اور اُس کی محبت کے باعث کسی سے محبت کرو گے اور اُس کے بغض کی وجہ سے کسی سے

وَالْيَتَبَوَّأُ كَلِيمَتَهُ وَعَادَيْتَ بَعْدًا وَتِهَوَّنَتْ

بغض کرو گے اور اُس کی دوستی کے لئے کسی سے دوستی کرو گے اور اُس کی دشمنی کے باعث کسی کی دشمنی کرے گی

النَّاسُ فِي الْإِيمَانِ عَلَى قَدَرٍ تَفَاوُتُهُمْ فِي مَحَبَّتِي وَ

اور متفاوت ہوتے ہیں لوگوں ایمان میں جس قدر وہ میری محبت میں متفاوت ہوتے ہیں اور

يَتَفَاوَتُونَ فِي الْكُفْرِ عَلَى قَدَرٍ تَفَاوُتُهُمْ فِي بُغْضِي

لوگ متفاوت ہوتے ہیں کفر میں جس قدر وہ میری دشمنی میں متفاوت ہوتے ہیں

إِلَّا الْإِيمَانَ لِمَنْ لَا مَحَبَّةَ لَهُ ۝ إِلَّا الْإِيمَانَ

خبردار جس کے دل میں حضور کی محبت نہیں اُس کا ایمان بھی نہیں خبردار جس کے دل میں حضور

لِمَنْ لَا حَبَّةَ لَهُ ۝ إِلَّا إِيْمَانٌ لِمَنْ لَا حَبَّةَ لَهُ ۝

کی محبت نہیں اُس کا ایمان بھی نہیں خبردار! جس کے دل میں حضور کی محبت نہیں اُس کا ایمان بھی نہیں

وَقِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزِمَ

اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ!

مَوْمِنًا يَخْشَعُ وَمَوْمِنًا لَا يَخْشَعُ مَا السَّبَبُ فِي

ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مومن عاجزی کرتا ہے اور دوسرا مومن عاجزی نہیں کرتا اس کا کیا سبب

ذَلِكَ فَقَالَ مَنْ وَجَدَ إِيْمَانَهُ حَلَاوَةً خَشَعُ

ہے فرمایا جو ایمان کی مٹھاس پاتا ہے وہ عاجزی کرتا ہے

وَمَنْ لَمْ يَجِدْهَا لَمْ يَخْشَعُ فَقِيلَ بَعَثُوا جَدًّا أَوْ

اور جو نہیں پاتا وہ اکرڑا رہتا ہے عرض کیا گیا یہ مٹھاس کیوں کر

بَعَثْنَا لُ وَتَكَتَسَبُّ قَالَ بِصِدْقِ الْحُبِّ فِي اللَّهِ

نصیب ہوتی ہے فرمایا اللہ کے ساتھ سچی محبت سے

فَقِيلَ وَيَعْبُودُ جَدُّ حُبِّ اللَّهِ أَوْ بَعْرِيكَتَسَبُّ فَقَالَ

عرض کیا گیا محبت! لہی کیسے نصیب ہوتی ہے فرمایا

بِحُبِّ رَسُولِهِ فَالْتِمَسُوا رِضَاءَ اللَّهِ وَرِضَاءَ رَسُولِهِ

اُس کے رسول کے ساتھ سچی محبت سے پس طلب کرو اللہ کی رضا اور اُس کے رسول

فِي جُيُومِهِمَا ۝ وَقِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

کی رضا ان کے سچے عشق میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی گئی

وَسَلَّمَ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ الَّذِينَ أُمِرْنَا بِحُبِّهِمْ وَارْتِمَائِهِمْ

کہ آل محمد کون ہیں جن کی محبت، تکریم اور ان کے ساتھ حسن سلوک

وَالْبُرُورِ بِهِمْ فَقَالَ أَهْلُ الصَّفَاءِ وَالْوَفَاءِ مِنْ أُمَّنِ

کا ہمیں حکم دیا گیا ہے فرمایا وہ لوگ جو دل کے پاک اور وعدہ کے پختے ہوں جو مجھ پر ایمان

بَنِي وَأَخْلَصَ فِقِيلَ لَهُ وَمَا عَلِمَاتُهُمْ فَقَالَ إِنِّي

لائے اور مخلص بنے عرض کیا گیا ان کی نشانیاں کیا ہیں فرمایا وہ ترجیح دیتے

مَحَبَّتِي عَلَى كُلِّ مَحَبُوبٍ وَأَشْتَغَالِ الْمُبَاهِنِ بِذِكْرِي

ہیں میری محبت کو ہر محبوب کی محبت پر اور اللہ کے ذکر کے بعد ان کا دل میرے ذکر

بَعْدَ ذِكْرِ اللَّهِ ۝ وَفِي أُخْرَى عَلَامَتُهُمْ إِدْمَانُ

میں مشغول رہتا ہے اور دوسری روایت میں ہے ان کی علامت یہ ہے کہ وہ

ذِكْرِي وَالْكَثَارَةُ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيَّ ۝ وَقِيلَ

بروقت میرا ذکر کرتے رہتے ہیں اور مجھ پر کثرت سے درود بھیجتے ہیں اللہ کے رسول

لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْقَوِي

صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا آپ کے ساتھ ایمان میں

فِي الْإِيمَانِ بِكَ فَقَالَ مَنْ أَمَنَ بِيْ وَكَلِمَاتِيْ

کون قوی ہے فرمایا جو مجھ پر ایمان لایا اور اُس نے مجھے دیکھا نہیں

فَإِنَّهُ مُؤْمِنٌ مِنْ بَنِي شَوْقٍ مِنْهُ وَصِدْقٌ فِي

کیونکہ وہ میرے ساتھ ایمان لایا ہے محض شوق سے اور مجھ سے سچی محبت

مَحَبَّتِيْ وَعَلَامَةٌ ذَلِكَ مِنْهُ أَنَّهُ يُودُّ رُؤْيِيْ

کے باعث اور اُس کے شوق و محبت کی نشانی یہ ہے کہ وہ دوست رکھتا ہے میرے

بِجَمِيعِ مَا يَمْلِكُ ۝ وَفِي آخِرَى مِلْءِ الْأَرْضِ

دیدار کو خواہ اُسے اپنی ساری پونجی دینی پڑے اور دوسری روایت میں ہے خواہ اُسے میرے

ذَهَبًا ذَلِكَ الْمُوْمِنُ بِيْ حَقًّا وَالْمُخْلِصُ فِي مَحَبَّتِيْ

دیدار کے عوض زمین بھر سونا دینا پڑے وہ میرے ساتھ سچا مومن ہے اور میری محبت میں سچائی کے

صِدْقًا ۝ وَقِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

ساتھ مخلص ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا

وَسَلَّمَ أَرَعَيْتَ صَلَاةَ الْمُصَلِّينَ عَلَيْكَ مِنْ

کہ خبر دیجئے ان درود بھیجنے والوں کے بارے میں جو درود بھیجتے ہیں آپ پر حالانکہ

غَابَ عَنْكَ وَمَنْ يَأْتِيْ بِعَدِّكَ مَا حَالَهُمَا عِنْدَكَ

وہ آپ سے غائب ہیں اور جو آئیں گے آپ کے بعد ان دو شخصوں کا آپ کے نزدیک

فَقَالَ أَسْمِعْ صَلَاةَ أَهْلِ مَجَبَّتِي وَأَعْرِفْهُمْ وَتَعْرِضْ

کیا حال ہے فرمایا کہ میں خود مسلمانوں کے درود اپنے عاشقوں کا اور میں پہچانتا ہوں ان کو اور میں کیا

عَلَى صَلَاةِ غَيْرِهِمْ عَرَضًا ۝

جاتا ہے مجھ پر (فرشتوں کے ذریعے سے) دوسروں کا درود

حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کے بارے میں پوچھا گیا۔ آپ نے

فرمایا :-

أَنْ تُحِبَّ مَا أَحَبَّ اللَّهُ وَتَبْغِضَ مَا أَبْغَضَ اللَّهُ وَتَفْعَلَ الْخَيْرَ

كُلَّهُ وَتَرْفُضَ كُلَّ مَا يَشْغُلُ عَنِ اللَّهِ وَالْأَتْحَافَ فِي اللَّهِ لَوْ مَمَّةً

لَا يَتَوَمَّعُ الْعَطْفُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْعِظَّةُ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِتِّبَاعَ رَسُولِ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الدِّينِ -

ترجمہ - محبت یہ ہے کہ تو اُس چیز کو دوست رکھے جس کو اللہ تعالیٰ دوست رکھتا

ہے اور اُس چیز کو ناپسند کرے جس کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے۔ اور تو ہر نیک کام کرے۔ اور

ہر اُس چیز کو دور پھینک دے جو تجھے اللہ تعالیٰ سے غافل کر دے۔ اللہ تعالیٰ کے معاملہ میں

کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا تجھے خوف نہ ہو۔ مومنوں کے ساتھ تو نرم ہو اور کافروں

کے ساتھ سخت ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین میں پیروی کرے۔

اسْمَاءُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

تِلْكَ اسْمَاءُ سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ

یہ اسماء مبارکہ ہیں ہمارے آقا، ہمارے نبی، ہمارے سردار محمد صلی اللہ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَائَتَانِ وَوَاحِدٌ وَهِيَ هَذِهِ اللَّهُ وَصَلَّ

علیہ وسلم کے ان کی تعداد دو سو ایک ہے اور وہ یہ ہیں اے اللہ درود

وَسَلِّوْا وَبَارِكْ عَلَى مَنْ اسْمُهُ سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ

وسلام بھیج اور برکتیں نازل کر اس ذات پر جس کا نام مبارک محمد (جس کی بار بار تعریف

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدِنَا أَحْمَدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدِنَا حَامِدٌ وَسَلَّمَ

کی جاتے) اپنے سب کی سب زیادہ تعریف کرنی والا اللہ کی حمد کرنے والا

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدِنَا أَحْمَدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدِنَا حَامِدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

جس کی تعریف سب کریں امت کو دوزخ سے بچانے والا گوہر بحیثیت

سَيِّدِنَا مَاجٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدِنَا حَاسِرٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدِنَا عَاقِبٍ وَسَلَّمَ

گھڑ کو مٹانے والا مُردوں کو اٹھانے والا پیچھے آنے والا

سَيِّدِنَا طَهٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدِنَا لَيْسٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدِنَا كَاهِرٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

پتھر صوفیوں کا چمکانہ سردار نوع انسانی کے پاک صاف

سَيِّدَنَا مُطَهَّرٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدَنَا كَلْبُ كَيْسَانَ بْنِ مَرْثَدَةَ سَيِّدَنَا سَيِّدُ صَلَواتِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہر عیب سے پاک پاکیزہ سب کے آقا

سَيِّدَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدَنَا نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدَنَا رَسُولُ الرَّحْمَةِ الرَّحِيمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اللہ کے فرستادہ اللہ کے نبی رحمت کے پیغامبر

سَيِّدَنَا قَيُّوْمٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدَنَا جَامِعٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدَنَا مُقْتَفٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

امت کے سربراہ تمام کمالات کے جامع سب نبیوں سے پیچھے آنے والے

سَيِّدَنَا مُقَفِّصٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدَنَا رَسُولُ الْمَراحِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدَنَا رَسُولُ الرَّاحَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

پیچھے آنے والے جگہوں کے پیغامبر راحت و آرام کے پیغامبر

سَيِّدَنَا كَامِلٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدَنَا الْكَلِيلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدَنَا مُدْتَرِكٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

پورے سب کمالوں میں سر تاج انبیا چادر اوڑھنے والے

سَيِّدَنَا مُزْمَلٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدَنَا عَبْدُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدَنَا حَبِيبُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

کلی والے اللہ کے بندے اللہ کے پیارے

سَيِّدَنَا صَفِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدَنَا مَحْيِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدَنَا كَلِيوُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اللہ کے چنے ہوئے اللہ کے ہمسراز اللہ سے ہائیں کرنے والے

سَيِّدَنَا خَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدَنَا خَاتَمُ الرُّسُلِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدَنَا مُعْتَمَدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

سب نبیوں کے خاتم سب رسولوں کے خاتم مردہ دلوں کو زندہ کرنے والے

سَيِّدَنَا مُنْجِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدَنَا مُذَكِّرُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدَنَا نَاصِرُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

نجات دینے والے نصیحت کرنے والے مدد دینے والے

سَيِّدَنَا مَنْصُورُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدَنَا نَبِيُّ الرَّحْمَةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدَنَا نَبِيُّ التَّوْبَةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مدد دیتے تھے رحمت کے نبی در توبہ کھولنے والے نبی

سَيِّدَنَا حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدَنَا مَعْلُومٌ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدَنَا شَهِيدٌ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

تمہاری ہر بات کیلئے تمہیں کڑی نگرانی جنہیں ساری کائنات جانتی ہے مشہور

سَيِّدَنَا شَاهِدٌ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدَنَا شَهِيدٌ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدَنَا مَشْهُودٌ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

گواہی دینے والے گواہ جن کی پیمانی کی گواہی ہی گئی ہو

سَيِّدَنَا بَشِيرٌ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدَنَا مُبَشِّرٌ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدَنَا نَذِيرٌ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

خوش خبری دینے والے مُرشدہ سنانے والے بروقت متنبہ کرنے والے

سَيِّدَنَا مُنْذِرٌ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدَنَا نَوَّارٌ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدَنَا سِرَاجٌ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ڈرانے والے نور اللہ کے آفتاب نبوت کے

سَيِّدَنَا مُصْبِحٌ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدَنَا هُدًى عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدَنَا مَهْدِيٌّ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

چراغ روشن سراجِ ہدایت ہدایت یافتہ

سَيِّدَنَا مُنِيرٌ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدَنَا دَاعٍ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدَنَا مَدْعُودٌ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

روشن کرنے والے اللہ کی طرف بلانے والے پکارے گئے تھے

سَيِّدُنَا مُجِيبٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا مُجَابٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا حَقِيٌّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عرض قبول کرنے والے جن کی دعا مقبول ہو مسدبان

سَيِّدُنَا عَفْوٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا وَدِيٌّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا حَقٌّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

معاف کرنے والے اللہ کے دوست سراپا حق

سَيِّدُنَا قَوِيٌّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا آمِنٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا مَأْمُونٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

زور آور امانت دار نڈر کئے ہوئے

سَيِّدُنَا كَرِيمٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا مُكْرَمٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا مَكِينٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

سخی بزرگی دیئے ہوئے مرتبہ آور دہدہ والے

سَيِّدُنَا قَاتِلٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا مُبِينٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا مُؤَمِّلٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

آستوار ظاہر اُمیدوار

سَيِّدُنَا وَصُولٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا ذُو قُوَّةٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا ذُو حَرَمَةٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اللہ سے واصل طاقت ور عزت والے

سَيِّدُنَا ذُو مَكَانَةٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا ذُو عِزٍّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا ذُو فَضْلٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بلند رتبہ والے عزت والے بزرگی والے

سَيِّدُنَا مُطَاعٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا مُطِيعٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا قَدِيمٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

جن کی سب اطاعت کریں اللہ کے فرمانبردار سچائی کے پیشرو

سَيِّدَنَا رَحْمَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدَنَا بُشْرَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدَنَا غَوْثٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

سراپا رحمت سراپا مزودہ فراپا رس

سَيِّدَنَا غَيْثٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدَنَا غِيَاثٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدَنَا نِعْمَةَ اللهِ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

رحمت کی بارش سراپا فراپا رس اللہ کی نعمت

سَيِّدَنَا هَدْيَةَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدَنَا عُرْوَةَ وَتَقَى عِبَادَةَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدَنَا صِرَاطَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اللہ کا تحفہ مضبوط دستاویز راہِ حنڈا

سَيِّدَنَا صِرَاطَ مُسْتَقِيمٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدَنَا ذِكْرَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدَنَا سَيْفَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

راہِ راست سببِ یادِ الہی کے اللہ کی برہنہ تلوار

سَيِّدَنَا حَزْبَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدَنَا النُّجُومَ السُّبُّبَةَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدَنَا مُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اللہ تعالیٰ کا شکر چمکتا ہوا ستارہ چنے ہوئے

سَيِّدَنَا مُجْتَبَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدَنَا مُنْتَقَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدَنَا اُمِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

برگزیدہ چمیدہ امی

سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدَنَا اَجِدْرًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدَنَا جَبَّارًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

انتخاب دیتے گئے اجرت دیتے گئے شکستہ دلوں کو جوڑنے والے

سَيِّدَنَا اَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدَنَا اَبُو الطَّاهِرِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدَنَا اَبُو الطَّيِّبِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حضرت قاسم کے باپ حضرت طاہر کے باپ حضرت طیب کے باپ

سَيِّدُنَا اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ سَلَامٌ سَيِّدُنَا مُشْفِعٌ وَكَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ سَيِّدُنَا الشَّفِيعُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حضرت ابراہیم کے باپ جن کی شفاعت مقبول ہے شفاعت کرنے والے

سَيِّدُنَا صَالِحٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا مُصْلِحٌ وَكَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ سَيِّدُنَا مُهَيْمِنٌ وَكَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ

نیکوکار اصلاح کرنے والے نگہبان

سَيِّدُنَا صَادِقٌ وَكَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ سَيِّدُنَا مُصَدِّقٌ وَكَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ سَيِّدُنَا صِدْقٌ وَكَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ

سچے جن کی تصدیق کی گئی سرالہ سچائی

سَيِّدُنَا سَيِّدُ الْمُرْسَلِيْنَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا اِمَامُ الْمُتَّقِيْنَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

سارے رسولوں کے سردار سارے متقیوں کے پیشوا

سَيِّدُنَا قَائِدُ الْغُرِّ الْمَجْلِيْبِيْنَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا خَلِيْلُ الرَّحْمٰنِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

روشن پیشانیوں اور چمکتے ہاتھ پاؤں والوں کے رہنما رحمن کے خلیل

سَيِّدُنَا بَرٌّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا مُبْدِيٌّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا وَجِيْهٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

نیکوکار نیکی کرنے والے خوب صورت

سَيِّدُنَا نَصِيْحٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا نَاصِحٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا وَكِيْلٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

نصیحت فرمانے والے نصیحت کرنے والے اُمت کے کار گزار

سَيِّدُنَا مُتَوَكِّلٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا كَيْفِيْلٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا شَفِيْعٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اللہ پر بھروسہ کرنے والے اُمت کے ضامن شفقت فرمانے والے

سَيِّدَنَا مَقِيمِ السَّنَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدَنَا مُقَدَّسَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدَنَا رُوحِ الْقُدْسِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

سنت قائم کرنے والے ہر عیب سے پاک پاکیزگی کی جان

سَيِّدَنَا رُوحِ الْحَقِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدَنَا رُوحِ الْقِسْطِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حق کی رُوح عدل و انصاف کی جان

سَيِّدَنَا كَانِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدَنَا مُكْتَفٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدَنَا بَالِغٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

دونوں جہان میں کافی کفایت کرنے والے بلند مرتبہ پر پہنچنے والے

سَيِّدَنَا مُبْلِغُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدَنَا شَافٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدَنَا وَاصِلٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اللہ کا پیغام پہنچانے والے صحت بخشنے والے اللہ سے ملانے والے

سَيِّدَنَا مَوْصُولٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدَنَا سَابِقٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدَنَا سَابِقٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اللہ سے ملے ہوئے سب سے آگے سب کو ہانکنے والے

سَيِّدَنَا كَاهِدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدَنَا مُهْدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدَنَا فَاضِلٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

راہنما راہ دکھانے والے سب سے بزرگ

سَيِّدَنَا مُفْضَلٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدَنَا مُقَدَّمٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدَنَا عَزِيزٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بزرگی دیتے گئے پیشوا غالب

سَيِّدَنَا فَاتِحٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدَنَا مُفْتَاخٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

کھولنے والے درجعت کے اسرائیلیہ کی کنبی

سَيِّدُنَا مِفْتَاحُ الرَّحْمَةِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

خزانہ رحمت کی کنجی جنت کی کلید

سَيِّدُنَا عَلُوُ الْإِيمَانِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا عَلُوُ الْيَقِينِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ایمان کے پرچم یقین کے جھنڈے

سَيِّدُنَا دَلِيلُ الْخَيْرَاتِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا مُصَبِّحُ الْحَسَنَاتِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

نیکیوں کے راہنما نیکیوں کو درست کرنے والے

سَيِّدُنَا مُقِيلُ الْعَثَرَاتِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا صَفُوحٌ عَنِ الزَّلَّاتِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

گنہگاروں سے درگزر کرنے والے خطاؤں کو معاف فرمانے والے

سَيِّدُنَا صَاحِبُ الشَّفَاعَةِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا صَاحِبُ الْمَقَامِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مقام شفاعت کے مالک مقام محمود کے مالک

سَيِّدُنَا صَاحِبُ الْقَدَمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا فَخْصُوصٌ بِالْعِزِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

پیشوائی کے مالک جن کو عزت کے ساتھ خاص کیا گیا

سَيِّدُنَا فَخْصُوصٌ بِالْجِدِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا فَخْصُوصٌ بِالشَّرَفِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

جنہیں بزرگی کے ساتھ محض کیا گیا جنہیں شرف کے ساتھ مخصوص کیا گیا

سَيِّدُنَا صَاحِبُ الْوَسِيلَةِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا صَاحِبُ السَّيْفِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وسیلہ کے صاحب تلوار کے صاحب

سَيِّدَتُنَا صَاحِبَةُ الْفَضِيلَةِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدَتُنَا صَاحِبَةُ الْاِزَارِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بزرگی والے تہ بند والے

سَيِّدَتُنَا صَاحِبَةُ الْحُجَّةِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدَتُنَا صَاحِبَةُ الْمُسْطَاقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

پختہ دلیل والے غلبہ اور قدرت والے

سَيِّدَتُنَا صَاحِبَةُ الرِّدَائِعِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدَتُنَا صَاحِبَةُ الدَّرَجَةِ الرَّفِيعَةِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

چادر والے درجہ بلند کے مالک

سَيِّدَتُنَا صَاحِبَةُ التَّاجِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدَتُنَا صَاحِبَةُ الْمَغْفِرِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

تاجدار خود پہننے والے

سَيِّدَتُنَا صَاحِبَةُ الْوَاوِئِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدَتُنَا صَاحِبَةُ الْمِعْرَاجِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لوار حمد کے مالک صاحب معراج

سَيِّدَتُنَا صَاحِبَةُ الْقَضِيبِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدَتُنَا صَاحِبَةُ الْبُرَاقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حصا اور تلوار والے بُراق کے شہسوار

سَيِّدَتُنَا صَاحِبَةُ الْخَاتَمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدَتُنَا صَاحِبَةُ الْعَلَامَةِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مہر نبوت کے مالک علامت نبوت کے مالک

سَيِّدَتُنَا صَاحِبَةُ الْبُرْهَانِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدَتُنَا صَاحِبَةُ الْبَيَانِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

روشن دلیل کے مالک واضح بیان کے مالک

سَيِّدَنَا فَصِيحُ اللِّسَانِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدَنَا مُطَهَّرُ الْجَنَانِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فصیح زبان والے پاک دل والے

سَيِّدَنَا رَعُوفٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدَنَا رَحِيمٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بہت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والے

سَيِّدَنَا أُذُنُ خَيْرٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدَنَا صَاحِبُ الْإِسْلَامِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

نیکیوں کے سننے والے درست اسلام والے

سَيِّدَنَا سَيِّدُ الْكُونِينِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدَنَا عَيْدُ النِّعَمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

دو جہاں کے سردار نعمت کے سرچشمہ

سَيِّدَنَا عَيْنُ الْغُرْبِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدَنَا سَعْدُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

روشن جبینوں کی چشمِ بینا اللہ کی برکت

سَيِّدَنَا سَعْدُ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدَنَا خَطِيبُ الْأُمَمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مخلوق کی سعادت امتوں کے خطیب

سَيِّدَنَا عَلْوُ الْهُدَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدَنَا كَاشِفُ الْكُرْبِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہدایت کے پرچم مصیبتوں کو دور کرنے والے

سَيِّدَنَا أَعْرَابُ الْعَرَبِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدَنَا عَزُّ الْعَرَبِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

درجوں کو بلند کرنے والے عالم عرب کی آبرو

سَيِّدَنَا صَاحِبَ الْفَرَجِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدَنَا كَرِيمُ الْمَخْرَجِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہر کشادگی کے مالک آپ کی جاتے ولادت بڑی عزت والی ہے

اللَّهُمَّ يَا رَبِّ بِجَاهِ نَبِيِّكَ الْمُصْطَفَى ۝ وَرَسُولِكَ

اے اللہ اے میرے رب بحضرت اپنے نبی کے جو برگزیدہ ہے اور اپنے رسول کے جو

الْمُرْتَضَى ۝ طَهَّرْ قُلُوبَنَا مِنْ كُلِّ وَصْفٍ يُبَاعِدُنَا عَنْ

پسندیدہ ہے پاک کر دے ہمارے لوگوں کو ہر ایسی وصف سے جو دور کر دے ہمیں

مُشَاهَدَتِكَ وَحَبَّتِكَ وَأَمِنَّا عَلَى السَّنَةِ وَالْجَمَاعَةِ

تیرے دیدار سے اور تیری محبت سے اور وفات دے ہمیں سنت و جماعت کے طریقہ پر

وَالشُّوقِ إِلَيْ لِقَائِكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ۝ وَصَلَّى

اور اپنی ملاقات کے شوق پر اے بزرگی والے اے بخشش والے درود بھیجے

اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ

اللہ تعالیٰ ہمارے آقا ہمارے مولا محمد پر اور آپ کی آل پر آپ کے اصحاب پر

وَسَلِّمْ وَسَلِّمْ ۝ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

اور سلام بھیجے بہترین سلام والحمد للہ رب العالمین

هَذِهِ صِفَةُ الرَّوْضَةِ الْمُبَارَكَةِ

یہ ہے بیان اس روضہ مبارکہ کا

الَّتِي دُفِنَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

وَصَاحِبَاهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا هَكَذَا

اور حضور کے دو ساتھی حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما دفن ہیں اسی طرح

ذَكَرَهُ عُرْوَةُ ابْنُ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا

ذکر کیا ہے اس کو عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے

قَالَ دُفِنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي

عروہ نے کہا دفن کئے گئے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چہوتہ

السَّهْوَةِ وَدُفِنَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَلْفَ

میں اور دفن کئے گئے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول کریم

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدُفِنَ عُمَرُ بْنُ


صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے اور دفن کئے گئے عمر بن

الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عِنْدَ رَجُلٍ ابْنِ بَكْرِ وَ

خطاب رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر کے دونوں قدموں کے نزدیک اور

سُبْحَانَ اللَّهِ
مَحْمُودٌ
سُبْحَانَ اللَّهِ





سنة الله
محمد

بَقِيَتِ السَّهْوَةُ الشَّرْقِيَّةُ فَارِخَةٌ فِيهَا مَوْضِعُ قَبْرِ

ایک شرقی چبوترہ باقی رہ گیا جو ابھی خالی ہے اس میں ایک قبر کی جگہ خالی ہے

يُقَالُ لَهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ إِنَّ عَيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ

کہا جاتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام

يُدْفَنُ فِيهِ وَكَذَلِكَ جَاءَ فِي الْخَبَرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ

اس میں دفن کئے جائیں گے اسی طرح حدیث پاک میں آیا ہے جو حضور صلی اللہ تعالیٰ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ

علیہ وسلم سے مروی ہے فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ

عَنْهَا رَأَيْتُ ثَلَاثَةَ أَقْمَارٍ سُقُوطًا فِي حَجْرَتِي فَقَصَصْتُ

منہانے کہ میں نے دیکھا تین چاندوں کو کہ وہ میرے حجرے میں گرے میں نے اپنا خواب

رَأَيْتُ عَلَى ابْنِي بَكْرٍ فَقَالَ لِي يَا عَائِشَةُ كَيْدُ فَنِّ بَنِي

حضرت ابوبکرؓ سے بیان کیا آپ نے فرمایا اے عائشہ تمہارے گھر میں تین ایسے اشخاص

فِي بَيْتِكَ ثَلَاثَةٌ هُمْ خَيْرُ أَهْلِ الْأَرْضِ فَلَمَّا تَوَفَّيَ

دفن کئے جائیں گے جو تمام اہل زمین سے بہتر ہوں گے پس جب وصال فرمایا

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدُفِنَ فِي

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور حضور کو میرے

بَيْتِي قَالَ لِي أَبُو بَكْرٍ هَذَا وَاحِدٌ مِنْ أَقْبَارِكِ

گھر میں دفن کیا گیا تو مجھے ابو بکر نے کہا تیرے چاندوں میں سے یہ ایک ہے

وَهُوَ خَيْرُهُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ كَثِيرًا

اور وہ اُن سے بہتر ہے صلی اللہ علیہ و علی آلہ وسلم کثیرا

قَالَ السَّرِيُّ مَنْ تَزَيْنَ لِلنَّاسِ بِمَالَيْسَ فِيهِ، سَقَطَ مِنْ عَيْنِ
اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ۔

ترجمہ: ہر کسی کو آدمی لوگوں کے سامنے ایسی خوبی اور کمال سے اپنے آپ کو آراستہ کرتا ہے جو اُس میں فی الواقع موجود نہیں تو وہ آدمی اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے گر جاتا ہے۔

کسی آدمی نے حضرت برزی سقلی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا آپ کا کیا حال ہے۔ آپ نے

جواب دیا۔

مَنْ لَوَيْبَتْ وَالْحُبُّ حَشَوْنُوا دِه
لَوَيْدِرْ كَيْفَ لَقَنْتُ الْاَكْبَادُ

ترجمہ۔ جس شخص نے ایسی حالت میں رات بسر نہیں کی کہ اس کے دل میں محبت کی چنگاری

سُک رہی ہو وہ نہیں سمجھ سکتا کہ جگر کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کی کیفیت کیسے ہوتی ہے۔

الْحِزْبُ الْأَوَّلُ

پہلی منزل

فَضْلٌ فِي كَيْفِيَّةِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ

فضل جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ○

پر درود بھیجنے کی کیفیت کا بیان ہے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم کرنے والا ہے

صَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ

درود بھیجے اللہ تعالیٰ ہمارے آقا و مولیٰ محمد پر اور آپ کی آل

وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور اصحاب پر اور سلام بھیجے اے اللہ درود بھیج ہمارے آقا محمد پر

وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى سَيِّدِنَا وَ

آپ کی ازواج اور اولاد پر جس طرح درود بھیجا ہے تو نے ہمارے سردار اور

مَوْلَانَا إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ

مولیٰ ابراہیم پر اور برکتیں نازل فرما ہمارے آقا و مولیٰ محمد پر

شاہجہشت کے نزدیک منزل جمعہ کے روز پڑھی جاتی ہے اور

دوسرے مشائخ کے نزدیک یہ دوشنبہ کے روز پڑھی جاتی ہے۔

وَأَزْوَاجَهُ وَذُرِّيَّتَهُ كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

اور آپ کی ازواج اور اولاد پر جس طرح برکتیں نازل فرمائی ہیں تو نے ہمارے سردار

وَمَوْلَانَا إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُّجِيدٌ ۝ اللَّهُمَّ

ابراہیم کی آل پر بے شک تو ہی تعریف کیا گیا (اور) بزرگی والا ہے اے اللہ!

صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ كَمَا

درود بھیج ہمارے آقا و مولا محمد پر اور آپ کی آل پر جس طرح

صَلَّيْتَ عَلَىٰ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ

درود بھیجا تو نے ہمارے سردار ابراہیم پر اور برکتیں نازل فرما

عَلَىٰ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

ہمارے آقا و مولا محمد پر اور آل محمد پر

وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا

جس طرح برکتیں نازل فرمائی ہیں تو نے آل

إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُّجِيدٌ ۝ اللَّهُمَّ

ابراہیم پر تمام جہانوں میں بے شک تو ہی تعریف کیا گیا، بزرگی والا ہے اے اللہ!

صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَآلِ سَيِّدِنَا

درود بھیج ہمارے آقا و مولا محمد پر اور آل

وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ

محمد پر جس طرح تو نے درود بھیجا ہمارے سردار ابراہیم پر

وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا

اور برکتیں نازل فرما ہمارے آقا محمد پر اور آل محمد پر جس طرح

بَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ ۝

تو نے برکتیں نازل کی ہیں ہمارے سردار ابراہیم پر بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگی والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَ

اے اللہ! درود بھیج ہمارے آقا محمد پر جو نبی امتی ہیں اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

آل محمد پر

مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

محمد پر جو تیرے بندے اور تیرے رسول ہیں اے اللہ! درود بھیج ہمارے آقا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى

محمد پر اور آل محمد پر جس طرح تو نے درود بھیجا ہے

سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ

ہمارے سردار ابراہیم اور آل ابراہیم پر بے شک

حَمِيدٌ فَحَمِيدٌ ۝ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

تو جی تعریف کیا گیا بزرگی والہ ہے اے اللہ برکتیں نازل فرما ہمارے آقا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا

اور آل محمد پر جس طرح برکتیں نازل کیں تو نے ہمارے سردار

إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ فَحَمِيدٌ

ابراہیم اور آل ابراہیم پر بے شک تو حمید مجید ہے

اللَّهُمَّ وَتَرَحَّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

اے اللہ! رحمت فرما ہمارے آقا محمد پر اور آل

مُحَمَّدٍ كَمَا تَرَحَّمْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى

محمد پر جس طرح تو نے رحمت کی ہمارے سردار ابراہیم پر اور

آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ فَحَمِيدٌ ۝ اللَّهُمَّ

آل ابراہیم پر بے شک تو حمید مجید ہے اے اللہ!

وَتَحَنَّنْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

مہربانی فرما ہمارے آقا محمد پر اور آل محمد پر

كَمَا تَحَنَّنْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

جس طرح تو نے مہربانی فرمائی ہے ہمارے سردار ابراہیم پر اور آل ہمارے سردار

إِبْرَاهِيمُ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ ۝ اللَّهُمَّ وَسِّلْ عَلِيَّ

ابراہیم پر بے شک تو حمید مجید ہے اے اللہ! اور سلام بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا سَلَّمْتَ

ہمارے آقا محمد پر اور آل محمد پر جس طرح سلام بھیجا

عَلَىٰ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ

تو نے ہمارے سردار ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر بے شک تو

حَمِيدٌ مُجِيدٌ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

حمید مجید ہے اے اللہ! رحمت کاملہ نازل فرما ہمارے آقا محمد پر

عَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَارْحَمْ سَيِّدِنَا مُحَمَّدًا وَ

اور آل محمد پر اور رحم فرما ہمارے آقا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

آل محمد پر اور برکتیں نازل فرما ہمارے آقا محمد پر اور آل

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَرَحَّمْتَ وَبَارَكْتَ

محمد پر جس طرح تو نے درود بھیجا اور رحمت کی اور برکت نازل کی

عَلَىٰ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ فِي

ہمارے سردار ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر

الْعَلَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

تمام جہانوں میں بے شک تو حمید مجید ہے اے اللہ! دُرُود بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ وَأَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ

ہمارے آقا محمد پر جو نبی ہیں اور آپ کی ازواج پر جو مومنوں کی مائیں ہیں

وَدُرِّيَّتِهِ وَأَهْلَ بَيْتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ

اور آپ کی اولاد پر، آپ کی اہل بیت پر جس طرح دُرُود بھیجا تو نے ہمارے سردار ابراہیم پر

إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ ۝ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

بے شک تو حمید مجید ہے اے اللہ! برکتیں نازل فرما ہمارے آقا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ

آل محمد پر جس طرح برکت نازل فرمائی تو نے ہمارے سردار ابراہیم

إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ ۝ اللَّهُمَّ دَرِّحِ الْمَدْحَوَاتِ وَبَارِئِ

پر بے شک تو حمید مجید ہے اے اللہ! اے بچھاننے والے زمینوں کے فرش کو اور سپیدا

الْمُسْمُوكَاتِ وَجَبَّارِ الْقُلُوبِ عَلَى فِطْرَتِهَا سَقِيمَهَا

کرنے والے بلند آسمانوں کو اور تخلیق کرنے والے لوں کے اُن کی فطرت کے مطابق کسی کو برنجت

وَسَعِيدَهَا اجْعَلْ شَرَّ آيَاتِكَ صَلَوَاتِكَ وَنَوَامِي

اور کسی کو نیک برنجت نازل فرما اپنے بزرگ ترین دُرُودوں کو اور نشوونما پانے والی

بَرَكَاتِكَ وَرَأْفَةِ تَحَنُّنِكَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ

بہنی برکتوں کو اور اپنی مہربان شفقتوں کو ہمارے آقا محمد پر جو تیرے بندے

وَرَسُولِكَ الْفَاتِحِ لِمَا أُخْلِقَ وَالْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ

اور تیرے رسول میں کھولنے والے ہیں اُس چیز کو جو بند کر دی گئی اور مہر لگانے والے ہیں جو گزر

وَالْمُعَلِّينَ الْحَقِّ بِالْحَقِّ وَالذَّامِعِ لِعَجْشَاتِ الْبَاطِلِ

چکا ہے اور اعلان کرنے والے ہیں حق کا راستی کے ساتھ کھینچنے والے ہیں باطل کے لشکروں کو

كَمَا حَمَلَ فَأَضْطَلَعَ بِأَمْرِكَ بِطَاعَتِكَ مُسْتَوْفِرًا

جو بوجھ آپ پر ڈالا گیا انہوں نے اُسے اٹھایا تیرے حکم سے تیری بندگی کرتے ہوئے چستی کرتے

فِي مَرْضَاتِكَ وَاعِيًا لَوَحْيِكَ حَافِظًا لِعَهْدِكَ

ہوئے تیری رضا کے حصول میں سمجھ کر یاد رکھنے والے تیری وحی کو، حفاظت کرنے والے تیرے عہد کو

مَا ضِيًّا عَلَى نَفَاذِ أَمْرِكَ حَتَّىٰ أَوْزَىٰ قَبَسًا لِقَابِسِ

مستعدی دکھانے والے تیرے حکم کے نافذ کرنے میں یہاں تک کہ روشن کر دیا آپ نے شعلہ بیتا

الْأَعْيَاءِ اللَّهُ تَصِلُ بِأَهْلِهِ أَسْبَابُهُ بِهِ هُدِيَّتِ الْقُلُوبِ

کاروشتی کے طلبگار کے لئے اللہ کی نعمتیں پہنچتی ہیں حق داروں کو اُن کے اسباب کے ذریعے آپ کے ذریعے

بَعْدَ خَوْضَاتِ الْفِتَنِ وَالْإِثْمِ وَأَبْهَجَ مَوْضِعَاتِ

جہالت دی گئی دلوں کو اس کے بعد کہہ کر اپنی کے فتنوں اور گناہوں میں ڈوب چکے تھے اور روشن کر دیا

الْأَعْلَامِ وَنَائِرَاتِ الْأَحْكَامِ وَمُنِيرَاتِ الْإِسْلَامِ فَهُوَ

آپے حق کی طرح نظموں کو اور چمکنے والے احکام کو اور اسلام کے روشن کرنے والے ذرائع کو پس آپ

أَمِينُكَ الْمَأْمُونُ وَخَارِزْنُ عِلْمِكَ الْمَخْرُومُ وَ

تیرے قابل اعتماد ہیں اور تیرے علم کے غزلبانگی ہیں اور قیامت کے دن تیرے

شَهِيدُكَ يَوْمَ الدِّينِ وَبِعَيْتِكَ نِعْمَةٌ وَرَسُولُكَ

گواہ ہیں اور تیرے بھیجے ہوئے ہیں سراپا نعمت اور حق کے ساتھ بھیجے گئے

بِالْحَقِّ رَحْمَةً ۝ اللَّهُمَّ اَفْسَحْ لَهُ فِي عَدْنِكَ وَاَجِرْهُ

میں سراپا رحمت اے اللہ! کشادہ فرما دے اُن کی جگہ جنت میں اور جزا دے

مُضَاعَفَاتِ الْخَيْرِ مِنْ فَضْلِكَ مُهْنَاتٍ لَهُ غَيْرِ

اُن کو کئی گنا اُن کی نیکیوں کی اپنے فضل سے جو خوشگوار ہوں آپ کے لئے کدورت

مُكَدَّرَاتٍ مِنْ فَوْزِ ثَوَابِكَ الْمُحْلُولِ وَجَزِيلِ

سے پاک ہوں آپ بہرہ ور ہوں تیرے ثواب سے جو اتارنے والا ہے اور تیری اعلیٰ بخششوں

عَطَايِكَ الْمُعْلُولِ ۝ اللَّهُمَّ اَعْطِ عَلَى بِنَاءِ النَّاسِ

سے جو پہلے در پہلے نازل ہو رہی ہیں اے اللہ! بلند کر آپ کی منزل کو تمام لوگوں کی منازل پر

بِنَاءَهُ وَاكْرِمْ مَشْوَاهُ لَدَيْكَ وَنَزُلُهُ وَاتَّبِعْ لَهُ نُورَهُ

اور بیزت بنا آپ کی آلام کو اپنے پاس اور آپ کی مہمانی کو اور عمل فرمائے آپ کے لئے آپ کے

وَأَجْرُهُ مِنْ ابْتِعَاثِكَ لَهُ مَقْبُولَ الشَّهَادَةِ وَمَرْضَى

نور کو اور آپ کو جزا سے بایں سبب کہ تو مبعوث کرے گا انہیں اس حال میں کہ ان کی شہادت

المُقَالَةِ ذَا مَنْطِقٍ عَدْلٍ وَخُطَّةٍ فَضْلٍ وَبُرْهَانٍ عَظِيمٍ

مقبول ہوگی ان کا قول پسندیدہ ہوگا اور ان کی گفتگو سچی ہوگی اور ان کا طریقہ حق کو باطل سے جدا کرنے

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

والا ہوگا اور ان کی دلیل بزرگ ہوگی بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی کریم

أَمْنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ۝ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ

پر اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو ان پر اور تود بانہ سلام عرض کرو حاضر ہوں میں اے اللہ میرے

رَبِّي وَسَعْدَيْكَ صَلَوَاتُ اللَّهِ الْبَرِّ الرَّحِيمِ وَالْمَلَكَةِ

پروردگار اور سعادت حاصل کرتا ہوں تیری فرماں برداری سے درود ہوں اللہ کے جو احسان کرنے والا ہمیشہ رحم فرمانے

الْمُقَرَّبِينَ وَالنَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ

والا ہے اور فرشتوں کے جو مقرب ہیں اور انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور نیک لوگوں کے اور ہر وہ

وَمَا سَبَّحَكَ مِنْ شَيْءٍ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ عَلَى سَيِّدِنَا

چیز جو تیری پاکی بیان کرتی ہے اے سب عالمین (ان سب کے درود ہوں) ہمارے آقا

مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ وَسَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ

محمد بن عبد اللہ پر جو خاتم النبیین ہیں سید المرسلین ہیں

وَامَامِ الْمُتَّقِينَ وَرَسُولِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الشَّاهِدِ

امام المتقین ہیں اور رب العالمین کے رسول ہیں جو گواہ ہیں

الْبُشَيْرِ الدَّاعِي إِلَيْكَ بِأَذْنِكَ السِّرَاجِ الْمُنِيرِ وَ

خوشخبری دینے والے ہیں بلانے والے ہیں تیری طرف تیرے حکم سے روشن چراغ ہیں اور

عَلَيْهِ السَّلَامُ ۝ اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَ

اُن پر سلام ہو اے اللہ! بھیج اپنے درود اور

بَرَكَاتِكَ وَرَحْمَتِكَ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَامَامِ

اپنی برکتیں اور اپنی رحمت سید المرسلین امام المتقین

الْمُتَّقِينَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ

خاتم النبیین ہمارے سردار محمد پر جو تیرے بندے

وَرَسُولِكَ إِمَامِ الْخَيْرِ وَقَائِدِ الْخَيْرِ وَرَسُولِ الرَّحْمَةِ ۝

اور تیرے رسول ہیں بھلائیوں کے پیشوا، نیکیوں کے راہنما، رحمت کے رسول ہیں

اللَّهُمَّ ابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا يَغِيْبُهُ فِيهِ الْهَلْوَانُ وَ

اے اللہ! اُن کو فائز فرما مقام محمود پر رشک کریں آپ کے ساتھ اس مقام پر سائے پہلے

الْآخِرُونَ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اور سائے پہلے لوگ اے اللہ! درود بھیج ہمارے آقا محمد پر اور

اَل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ

آل محمد پر جس طرح تو نے درود بھیجا ہمارے سردار ابراہیم پر

اِنَّكَ حَمِيْدٌ مُّجِيْدٌ ۝ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

بے شک تو حمید مجید ہے اے اللہ برکتیں نازل فرما ہمارے آقا محمد پر

وَ عَلٰى اَل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ

اور آل محمد پر جس طرح برکت نازل فرمائی تو نے ہمارے سردار ابراہیم

اِنَّكَ حَمِيْدٌ مُّجِيْدٌ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

پر بے شک تو حمید مجید ہے اے اللہ درود بھیج ہمارے آقا محمد پر

وَ عَلٰى اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ وَاَوْلَادِهِ وَاَزْوَاجِهِ

اور آپ کی آل، اصحاب، اولاد، ازواج پر

وَ ذُرِّيَّتِهِ وَاَهْلَ بَيْتِهِ وَاَصْحَابِهِ وَاَنْصَارِهِ

آپ کی ذریات اور اہل بیت پر، آپ کے شسرال اور انصار پر

وَ اَشْيَاعِهِ وَ مُجَبِّيِّهِ وَاُمَّتِهِ وَعَلَيْنَا مَعَهُمُ اَجْمَعِيْنَ

اور آپ کے فرمانبرداروں، مجتہد کرنے والوں پر، آپ کی ساری امت پر اور ہم پر بھی ان تمام

يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کے ساتھ یا ارحم الراحمین اے اللہ درود بھیج ہمارے آقا محمد پر

عَدَدَ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ

اُن لوگوں کی تعداد کے برابر جنہوں نے آپ پر درود بھیجا اور درود بھیج ہمارے آقا محمد پر ان

مَنْ لَوْ يُصَلِّ عَلَيْهِ وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا

لوگوں کی تعداد کے مطابق جنہوں نے آپ پر درود نہیں بھیجا اور درود بھیج ہمارے آقا محمد پر جس طرح

أَمَرْتَنَا بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَصَلَّ عَلَيْهِ كَمَا تَحِبُّ أَنْ

تو نے ہمیں حکم دیا کہ درود بھیجیں آپ پر اور درود بھیج آپ پر جیسا کہ حضور پسند کرتے ہوں

يُصَلِّي عَلَيْهِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

کہ آپ پر درود بھیجا جائے اے اللہ! درود بھیج ہمارے آقا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا أَمَرْتَنَا أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْهِ

آل محمد پر جس طرح کہ حکم دیا ہے تو نے ہمیں کہ ہم درود بھیجیں آپ پر

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

اے اللہ! درود بھیج ہمارے آقا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدٍ كَمَا هُوَ أَهْلُهُ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

جس طرح اُن کی شایان شان ہے اے اللہ! درود بھیج ہمارے آقا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا تَحِبُّ وَتَرْضَاهُ

مستند پر اور آپ کی آل پر جس طرح تو دوست رکھتا ہے اور پسند کرتا ہے اس کو

لَهُ ۝ اللَّهُ يَا رَبِّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ۝ وَال سَيِّدِنَا

آپ کے لئے اے اللہ! اے ہمارے آقا محمد کے پروردگار اور آپ کی آل کے

مُحَمَّدٍ صَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ۝ وَال سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

پروردگار درود بھیج ہمارے آقا محمد پر اور آپ کی آل پر

وَاعْطِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدًا الدَّرَجَةَ وَالْوَسِيلَةَ فِي الْجَنَّةِ ۝

اور عطا فرما ہمارے آقا محمد کو مخصوص درجہ اور وسیلہ جنت میں

اللَّهُ يَا رَبِّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ۝ وَال سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ! اے ہمارے آقا محمد اور آپ کی آل کے پروردگار!

إِجْرٍ سَيِّدِنَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هُوَ أَهْلُهُ ۝

جزا دے ہمارے آقا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جس جزا کے وہ اہل ہیں

اللَّهُ صَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ۝ وَال سَيِّدِنَا

اے اللہ! درود بھیج ہمارے آقا محمد پر اور آل محمد پر

مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ ۝ اللَّهُ صَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا

اور آپ کی اہل بیت پر اے اللہ! درود بھیج ہمارے آقا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْ

محمد پر اور آپ کی آل پر یہاں تک کہ نہ باقی رہے درود

الصَّلَاةِ شَيْءٌ ۝ وَارْحَمْنَا مُحَمَّدًا وَآلَ

سے کچھ بھی اور رحم فرما ہمارے آقا محمد پر اور آپ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنَ الرَّحْمَةِ شَيْءٌ ۝

کی آل پر یہاں تک کہ باقی نہ رہے رحمت سے کچھ بھی

وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور برکتیں نازل فرما ہمارے آقا محمد پر اور آپ کی آل پر

حَتَّى لَا يَبْقَى مِنَ الْبَرَكَاتِ شَيْءٌ ۝ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

یہاں تک کہ برکتوں سے کچھ بھی باقی نہ رہے اور سلام بیج ہمارے آقا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنَ السَّلَامِ

محمد پر اور آپ کی آل پر یہاں تک کہ نہ باقی رہے سلام سے

شَيْءٌ ۝ اللَّهُ وَصَلَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي الْأَوَّلِينَ ۝

کچھ بھی اے اللہ! درود بیج ہمارے آقا محمد پر پہلوں میں

وَصَلَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي الْآخِرِينَ ۝ وَصَلَ عَلَى

اور درود بیج ہمارے آقا محمد پر پچھلوں میں اور درود بیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي النَّبِيِّينَ ۝ وَصَلَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ہمارے آقا محمد پر نبیوں میں اور درود بیج ہمارے آقا محمد پر

فِي الْمُرْسَلِينَ ۝ وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي الْمَلَأِ

رسولوں میں اور درود بھیج ہمارے آقا محمد پر برگزیدہ فرشتوں

الْأَعْلَى إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ۝ اللَّهُمَّ اعْطِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا

کے گروہ میں قیامت کے دن تک اے اللہ عطا فرما ہمارے آقا محمد کو

بِالْوَسِيلَةِ وَالْفَضِيلَةِ وَالشَّرَفِ وَالذَّرَجَةِ الْكَبِيرَةِ ۝

وسیلہ اور فضیلت اور شرف اور بڑا درجہ

اللَّهُمَّ إِنِّي آمَنْتُ بِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَلَوْ أَرَأَيْتُ فَلَا تَحْرِمْنِي

اے اللہ! میں ایمان لایا ہوں اپنے آقا محمد پر حالانکہ میں نے ان کو نہیں دیکھا پس

فِي الْجَنَانِ رُوَيْتَهُ وَأَرْزُقْنِي صُحْبَتَهُ وَتَوْفَنِي عَلَىٰ

نہ مخرم رکھنا مجھے جنت میں آپ کے دیدار سے اور عنایت فرما مجھے آپ کی رفاقت اور وفات

مِلَّتِهِ وَأَسْقِنِي مِنْ حَوْضِهِ مَشْرَبًا رَوِيًّا سَأَلْنَا غَاهِنِيًّا

دے مجھے آپ کی ملت پر اور پلا مجھے آپ کے حوض سے ایسا پینا جو سیراب کرنے والا ہو لہذا

لَا تَطْمَأَبَعْدَهُ أَبَدًا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ اللَّهُمَّ

جو خوشگوار ہو تاکہ ہم اُس کے بعد کبھی پیاسے نہ ہوں بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اے اللہ!

أَبْلِغْ رُوحَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مِنِّي تَحِيَّةً وَسَلَامًا ۝ اللَّهُمَّ

پہنچا مجھے مسکین کی طرف سے ہمارے آقا محمد کی رُوح کو دُعا سے خیر اور سلام اے اللہ!

وَمَا أَمْنْتُ بِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَلَوْ أَرَدْتُ فَلَا تَحْزَمْنِي فِي

اور جس طرح میں ایمان لایا ہوں آپ پر بن دیکھے پس نہ محروم رکھنا مجھے جنت میں

الْجَنَانِ رُؤْيَيْتَهُ ۝ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ شَفَاعَةَ سَيِّدِنَا

آپ کے دیدار سے اے اللہ! قبول فرما ہمارے آقا محمد کی شفاعت

مُحَمَّدٍ الْكِبْرَىٰ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ الْعُلْيَا وَآتِهِ سُؤْلَهُ

کبرئے کو اور مزید بلند کر آپ کے بلند درجہ کو اور قبول فرما آپ کے

فِي الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ كَمَا آتَيْتَ سَيِّدَنَا إِبْرَاهِيمَ وَسَيِّدَنَا

سوال کو آخرت میں اور دنیا میں جس طرح قبول فرمایا ہے تو نے ہمارے سردار ابراہیم اور

مُوسَىٰ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

ہمارے سردار موسیٰ کے سوال کو اے اللہ! درود بھیج ہمارے آقا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ

آل پر جس طرح درود بھیجا ہے تو نے ہمارے سردار ابراہیم پر اور

آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

ان کی آل پر برکتیں نازل فرما ہمارے آقا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

پر جس طرح برکتیں نازل فرمائی ہیں تو نے ہمارے سردار ابراہیم پر اور ان کی آل پر

إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ

بے شک تو حمید مجید ہے اے اللہ! درود و سلام بھیج اور برکتیں

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نَبِيِّكَ وَرَسُولِكَ ۝ وَسَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ

نازل فرما ہمارے آقا محمد پر جو تیرے نبی ہیں، تیرے رسول ہیں اور ہمارے سردار ابراہیم پر

خَلِيلِكَ وَصَفِيكَ وَسَيِّدِنَا مُوسَى كَلِيمِكَ وَنَجِيِّكَ ۝

جو تیرے خلیل ہیں اور تیرے برگزیدہ ہیں اور ہمارے سردار موسیٰ پر جو تیرے کلیم اور تیرے ہمراز ہیں

وَسَيِّدِنَا عِيسَى رُوحِكَ وَكَلِمَتِكَ وَعَلَى جَمِيعِ

اور ہمارے سردار عیسیٰ پر جو تیری روح اور تیرا کلمہ ہیں اور اپنے جملہ

مَلَائِكَتِكَ وَرُسُلِكَ وَأَنْبِيَائِكَ وَخَيْرَتِكَ مِنْ

فرشتوں پر اور اپنے رسولوں پر اور اپنے نبیوں اور اپنی خلق سے چنے ہوئے

خَلْقِكَ وَأَصْفِيَاءِكَ وَخَاصَّتِكَ وَأَوْلِيَاءِكَ مِنْ

لوگوں پر اور اپنے برگزیدہ بندوں پر اور اپنے خاصوں پر اور اپنے دوستوں پر جو تیری

أَهْلِ أَرْضِكَ وَسَمَائِكَ ۝ وَصَلِّ اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا

زمین میں بستے ہیں یا تیرے آسمان میں رہتے ہیں اور درود بھیجے اللہ تعالیٰ ہمارے آقا

مُحَمَّدٍ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَاءِ نَفْسِهِ وَزِينَةِ عَرْشِهِ وَ

محمد پر بشمار اپنی مخلوق کے اور بقدر اپنی رضا کے اور بوزن اپنے عرش کے اور

مِدَادَ كَلِمَاتِهِ وَكَمَا هُوَ أَهْلُهُ وَكُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ

اپنے کلمات کی سیاہی کے برابر اور جس طرح وہ ان کے شایان شان ہے اور جب کہ یاد کریں آپ

وَعَفَلَ عَنِ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ وَعَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ وَعِزَّتِهِ

کو یاد کرنے والے اور غافل رہیں آپ کے ذکر سے غفلت بھتنے والے اور آپ کی اہل بیت پر اور آپ کی

الطَّاهِرِينَ وَسَلِّمْ وَسَلِّمْ يَا أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

پاک اولاد پر اور خوب سلام بھیجے اے اللہ! درود بھیج ہمارے آقا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ وَعَلَىٰ جَمِيعِ النَّبِيِّينَ وَ

محمد پر اور آپ کی ازواج پر اور آپ کی ذریت پر اور تمام نبیوں اور

الْمُرْسَلِينَ وَالْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَجَمِيعِ عِبَادِ اللَّهِ

رسولوں پر اور فرشتوں مقربین پر اور اللہ کے تمام نیک

الصَّالِحِينَ عَدَدَ مَا أَصْطَرَّتِ السَّمَاءُ مِنْذُ بَنَيْتَهَا

بندوں پر بشمار ان سب قطوروں کے کہ برساتے ہیں آسمان نے جب سے تو نے اسے بنایا

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ مِنْذُ

ہے اور درود بھیج ہمارے آقا محمد پر بشمار ان سب چیزوں کے جو زمین نے اُگائی ہیں جب

دَحْوَتِهَا وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ النُّجُومِ

سے تو نے اسے بچھالی ہے اور درود بھیج ہمارے آقا محمد پر بشمار ان ستاروں کے

فِي السَّمَاءِ فَإِنَّكَ أَحْصَيْتَهَا ۝ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

جو آسمان میں ہیں اور تو ہی نے انہیں گن رکھا ہے اور درود بھیج ہمارے آقا

مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا تَنْفَسَتِ الْأَرْوَاحُ مُنْذُ خَلَقْتَهَا ۝

محمد پر بشار ان سانسوں کے جو جانداروں نے لیتے جب سے تو نے انہیں پیدا کیا

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ وَمَا تَخْلُقُ

اور درود بھیج ہمارے آقا محمد پر بشار اس کے جو تو نے پیدا کیا اور بشار اس کے

وَمَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ وَأَضْعَافَ ذَلِكَ ۝ اللَّهُمَّ

جنہیں تو آب پیدا کر رہا ہے اور بشار ان تمام چیزوں کے جن کا احاطہ تیرے علم نے کر رکھا ہے بلکہ ان سب

صَلِّ عَلَيْهِمْ عَدَدَ خَلْقِكَ وَرِضَاءِ نَفْسِكَ وَزِنَةِ

چیزوں سے کئی گنا زیادہ اے اللہ درود بھیج ان سب پر بشار اپنی مخلوق کے بقدر اپنی خوشنودی کے

عَرْشِكَ وَمِدَادِ كَلِمَاتِكَ وَمَبْلَغِ عِلْمِكَ وَأَيَاتِكَ ۝

اپنے عرش کے وزن کے برابر اور اپنے کلمات کی سیاہی کے برابر اور جہاں تک تیرا علم پہنچتا ہے اور اپنی

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ صَلَوةً تَفُوقُ وَتَفْضُلُ صَلَوةً

نشانوں کے برابر اے اللہ درود بھیج ان سب پر ایسا درود جو فائق اور بزرگ تیری ساری مخلوق سے

الْمُصَلِّينَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْخَلْقِ أَجْمَعِينَ كَفَضْلِكَ

درود پڑھنے والوں کے درود سے جس طرح تو بزرگ و برتر ہے

عَلَى جَمِيعِ خَلْقِكَ ۝ اللَّهُ وَصَلَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتُ دَائِمَةٍ

اپنی ساری مخلوقات پر اے اللہ! درود بھیج ان پر ایسا درود جو دائمی ہو

مُسْتَمِرَّةٌ الدَّوَامِ عَلَى مَرِّ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ مُتَّصِلَةٌ الدَّوَامِ

اور جس کا دوام جاری رہنے والا ہو گردشِ میل و نہار کے ساتھ اور اس کا دوام متصل ہو

لَا انْقِضَاءَ لَهَا وَلَا انْصِرَامَ عَلَى مَرِّ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ عَدَدٌ

جس کی کوئی نہایت نہ ہو اور جس کا کوئی انقطاع نہ ہو گردشِ میل و نہار کے ساتھ بشمار

كُلِّ وَابِلٍ وَطَلٍّ ۝ اللَّهُ وَصَلَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

بارش اور شبنم کے ہر قطرہ کے اے اللہ! درود بھیج ہمارے آقا محمدؐ،

بَيْتِكَ وَسَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِكَ وَعَلَى جَمِيعِ أَنْبِيَائِكَ

اپنے نبی پر اور ہمارے سرورِ ابراہیمؑ اپنے خلیل پر اور اپنے تمام انبیاء اور

وَأَصْفِيَائِكَ مِنْ أَهْلِ أَرْضِكَ وَسَمَاوَاتِكَ عَدَدٌ

برگزیدہ لوگوں پر جو تیری زمین اور تیرے آسمان کے رہنے والے ہیں بشمار

خَلْقِكَ وَرِضَاءِ نَفْسِكَ وَزِينَةِ عَرْشِكَ وَمِدَادِ

اپنی مخلوق کے اور اپنی خوشنودی کے اور اپنے عرش کے وزن کے برابر اور اپنے کلمات

كَلِمَاتِكَ وَمُنْتَهَى عِلْمِكَ وَزِينَةِ جَمِيعِ مَخْلُوقَاتِكَ

کی سیاہی کے برابر اور ہاتمازہ اپنے علمِ بیکراں کے اور اپنی تمام مخلوق کے وزن کے برابر

صَلَاةً مُكْرَرَةً أَبَدًا عَدَدَ مَا أَحْصَى عِلْمُكَ وَمِثْلَهُ

ایسا درود جو بار بار اور ہمیشہ ہمیشہ پڑھا جائے بشمار ان چیزوں کے جن کو تیرے علم نے گنا ہے

مَا أَحْصَى عِلْمُكَ وَأَضْعَافَ مَا أَحْصَى عِلْمُكَ

اور بقدر ان چیزوں کے جن کو تیرے علم نے شمار کیا ہے بلکہ کئی گنا زیادہ ان چیزوں سے جن کو تیرے علم نے

صَلَاةً تَزِيدُ وَتَفُوقُ وَتَفْضُلُ صَلَاةَ الْمُصَلِّينَ عَلَيْهِمْ

شمار کیا ہے ایسا درود جو بڑھا ہے بلند ہوتا ہے اور بزرگ ہو مرتبہ میں ان لوگوں کے درود سے جو درود دیتے

مِنَ الْخَلْقِ أَجْمَعِينَ كَفَضِكَ عَلَى جَمِيعِ خَلْقِكَ

یہ ان پر تیری سب مخلوق سے جیسے تیری بزرگی ہے سب مخلوق پر

تَقْرِيْدٌ عَوْ بِهَذَا الدُّعَاءِ فَإِنَّهُ مَرْجُو الْإِجَابَةِ إِنِشَاءً

پھر یہ دعا مانگئے کیونکہ اس کی قبولیت کی امید کی جاتی ہے

اللَّهُ تَعَالَى بَعْدَ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

انشاء اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے بعد

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِمَّنْ لَزِمَ مِلَّةَ نَبِيِّكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ کرے مجھے ان لوگوں سے جنہوں نے تیرے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَطَوْا حُرْمَتَهُ وَأَعَزَّ كَلِمَتَهُ وَ

کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور آپ کی عزت کو بلند کیا اور آپ کے ارشاد کو سرخرازا کیا

حَفِظْ عَهْدَهُ وَذِمَّتَهُ وَنَصْرَ حِزْبِهِ وَدَعْوَتَهُ وَكَذَرَّ

اور آپ کے ساتھ کئے ہوئے عہد و پیمان کی حفاظت کی اور آپ کے گروہ اور آپ کی دعوت کی ملامت کی

تَابِعِيهِ وَفَرَّقْتَهُ وَوَأَفَى زُمْرَتَهُ وَلَوْ يُخَالِفُ سَبِيلَهُ

اور آپ کے فرماں برداروں اور آپ کے گروہ کی تعداد کو زیادہ کیا اور آپ کے گروہ کے ساتھ موافقت کی اور آپ

وَسُنَّتَهُ ۝ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْإِسْتِمْسَاكَ بِسُنَّتِهِ

کے راست اور سنت کی مخالفت نہیں کی اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے آپ کی سنت کو مضبوطی

وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْإِخْرَافِ عَمَّا جَاءَ بِهِ ۝ اللَّهُمَّ إِنِّي

سے بچنے کی توفیق بخش اور میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں نہ گردانی کروں اس چیز سے جو آپ

أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلْتَ مِنْهُ سَيِّدُ نَا مُحَمَّدٍ بَيْتِكَ

آتے ہیں اے اللہ! میں مانگتا ہوں تجھ سے وہ بھلائی جس کا سوال کیا ہے تجھ سے ہمارے آقا محمد نے جو

وَرَسُولِكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ

تیرے نبی اور تیرے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور میں پناہ مانگتا ہوں تیرے ساتھ ہر شر

مَا اسْتَعَاذَكَ مِنْهُ سَيِّدُ نَا مُحَمَّدٍ بَيْتِكَ وَرَسُولِكَ

سے جس سے پناہ مانگی ہے تجھ سے ہمارے آقا محمد نے جو تیرے نبی اور تیرے رسول ہیں

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۝ اللَّهُمَّ اعْصِمْنِي مِنْ شَرِّ

صلی اللہ علیہ وسلم لے اللہ! مجھے بقوتوں کے شر سے

الْفِتْنِ وَعَافِنِي مِنْ جَمِيعِ الْمَحَنِ وَأَصْلِحْ مِنِّي مَا

بچالے اور تمام غمنوں سے مجھے محفوظ رکھ اور سنوار دے میرے ظاہر

ظَهْرًا وَمَا بَطْنًا وَنَقِّ قَلْبِي مِنَ الْحَقْدِ وَالْحَسَدِ وَ

اور میرے باطن کو اور پاک کر دے میرے دل کو کینہ اور حسد سے اور

لَا تَجْعَلْ عَلَيَّ تَبَاعَةً لِأَحَدٍ ۝ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْخَيْرَ

نہ لازم کر مجھ پر تاوان کسی کے لئے اے اللہ! میں تو توفیق مانگتا ہوں تجھ سے کہ

بِأَحْسَنِ مَا تَعْلَمُ وَالتَّرِكَ لِسَيِّئِ مَا تَعْلَمُ وَأَسْأَلُكَ

میں بہترین کام کروں جو تو جانتا ہے اور ترک کروں سب بُرائیوں کو جو تو جانتا ہے اور سوال

التَّكْفُلِ بِالرِّزْقِ وَالزُّهْدِ فِي الْكِفَافِ وَالْمَخْرَجِ بِالْبَيَانِ

کرتا ہوں تجھ سے کہ رزق میں تو میرا کفیل بن جائے اور زمانہ از ضرورت سے مجھے بے پرواہ

مِنْ كُلِّ شَبْهَةٍ وَالْفَلَجِ بِالضُّوَابِ فِي كُلِّ سَجَّةٍ وَالْعَدْلَ

کرنے اور ہر شب سے حق کے ساتھ میں نکل جاؤں اور ہر دلیل میں صحت کے ساتھ کامیاب ہو جاؤں

فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَاءِ وَالسَّلَامِ لِمَا يَجْرِي بِهِ الْقَضَاءُ

اور غصہ اور خوشنودی کی حالت میں عدل کروں اور تیرے ہر فیصلہ کے سامنے ہر تسلیم غم کروں

وَالْاِقْتِصَادَ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى وَالتَّوَاضُّعَ فِي الْقَوْلِ

اور افلاس اور ثروت کی حالت میں میاں نہ روی اختیار کروں اور قول و عمل میں تواضع

وَالْفِعْلِ وَالصِّدْقِ فِي الْجِدِّ وَالْهَزْلِ ۝ اللَّهُمَّ إِنِّي

کو اپنا شعار بناؤں اور ہر سچیدہ اور مزاح کی گفتگو میں سچائی اختیار کروں اے اللہ! میرے ایسے

ذُنُوبًا فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكَ وَذُنُوبًا فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَ

گناہ بھی ہیں جو میرے اور تیرے درمیان ہیں اور ایسے گناہ بھی ہیں جو میرے اور تیری مخلوق

خَلْقِكَ ۝ اللَّهُمَّ مَا كَانَ لَكَ مِنْهَا فَاعْفِرْهُ وَمَا

کے درمیان ہیں اے اللہ! میرے گناہوں کو جو تیرے لئے ہیں ان کو بخش دے اور جو مخلوق

كَانَ مِنْهَا الْخَلْقُ فَتَحَمَّلهُ عَنِّي وَأَعِنِّي بِفَضْلِكَ

کے لئے ہیں ان کا بوجھ مجھ سے اٹھالے اور مجھے اپنے فضل کے ساتھ عینی کر دے

إِنَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ ۝ اللَّهُمَّ نَوِّرْ بِالْعِلْمِ قَلْبِي ۝

بے شک تو بڑی وسیع بخشش والا ہے اے اللہ! میرے دل کو علم کے نور سے روشن کر دے

وَاسْتَعْمِلْ بِطَاعَتِكَ بَدَنِي ۝ وَخَلِّصْ مِنَ الْفِتَنِ

اور میرے بدن کو اپنی فرماں برداری میں استعمال کر اور میرے باطن کو سب فتنوں سے پاک

بِسِرِّي ۝ وَاشْغَلْ بِالْإِعْتِبَارِ فِكْرِي ۝ وَقِنِي شَرَّ

کردے اور میرے فکر کو عبرت پذیری میں لگا دے اور شیطان کے وسوسوں

وَسَاوِسِ الشَّيْطَانِ ۝ وَأَجِرْنِي مِنْهُ يَا رَحْمَنُ حَتَّى

کے شر سے مجھے بچالے اور اے خداوندِ رحمن! مجھے اس سے اپنی پناہ میں لے لے

لَا يَكُونُ لَهُ عَلَى سُلْطَانٍ

یہاں تک کہ اُس کا کچھ زور اور غلبہ مجھ پر نہ رہے۔

حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :-

لِللّٰهِ عِبَادٌ تَزْكُوْا الذَّنْبَ اسْتِحْيَاءً مِنْ كَرَمِهِ، بَعْدَ اَنْ تَزْكُوْا خَوْفًا
مِنْ عَقُوْبَتِهِ وَتَقَالَ لَكَ اَعْمَلُ مَا شِئْتِ، فَلَسْتُ اُحَدِّثُكَ بِذَنْبٍ كَانَ
يَنْبَغِيْ اَنْ يَزِيْدَكَ كَرَمًا اسْتِحْيَاءً مِنْهُ وَتَزْكَا لِمَعْصِيَّتِهِ اِنْ كُنْتَ حَزًا كَرِيْمًا،
عَبْدًا شَاكُوْرًا، وَكَيْفَ وَقَدْ حَدَّرَكَ؟

ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے بھی ہیں جنہوں نے اس کی شانِ بُوَد و کرم سے جیا کرتے
ہوئے گناہ کو ترک کر دیا ہے۔ بعد ازاں کہ انہوں نے اُس کے عذاب کے خوف سے گناہوں کو ترک
کر دیا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ تجھے کئے کہ اے بندے! جو تیرا جی چاہے کہ میں کسی گناہ سے تجھ سے
مواخذہ نہیں کروں گا تو چاہیے کہ اُس کی شانِ کرم سے تیرے جی میں اور اضافہ ہو اور تو اُس کی
تافزائی کو ترک کر دے۔ اگر تو آزاد اور کریم النفس ہے، اگر تو شکر گزار بندہ ہے۔ پس تیری کیا حالت
ہو گی جب اُس نے تجھے اپنے عذاب سے بھی ڈرایا ہے۔

الْحَرْبُ الثَّانِي فِي يَوْمِ الثَّلَاثَةِ

دوسری منزل روزہ سے شبہ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ وَأَعُوذُ بِكَ

یا اللہ! میں مانگتا ہوں تجھ سے بہتر بھلائی جو تو جانتا ہے اور پناہ مانگتا ہوں تجھ سے

مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ وَأَسْتَغْفِرُكَ مِنْ كُلِّ مَا تَعْلَمُ إِنَّكَ

ہر بڑائی سے جو تو جانتا ہے اور بخشش مانگتا ہوں تجھ سے تمام گناہوں سے جنہیں تو جانتا ہے بے شک

تَعْلَمُ وَلَا تَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ۝ اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي

جانتا ہے اور ہم نہیں جانتے اور تو مہربان جانتا ہے تمام نبیوں کو اے اللہ! رحم فرما مجھ پر

مِنْ زَمَانِي هَذَا وَاحْدَاقِ الْفِتَنِ وَتَطَاوُلِ هَلِ الْجَرَاةِ

میرے اس زمانے سے اور بچالے مجھ سے کہ فتنے مجھے گھیر لیں اور اہل جرأت مجھ پر زیادتی کرنے

عَلَيَّ وَاسْتِضْعَافِهِمْ أَيْمَانِي ۝ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْكَ

لگیں اور وہ مجھے کمزور سمجھنے لگیں انہی اکروے مجھے اپنی طرف سے

فِي عِيَادِ مَنِينٍ وَحِرْزِ حَصِينٍ مِنْ جَمِيعِ خَلْقِكَ

پختہ پناہ میں اور مضبوط قلعہ میں اپنی تمام مخلوق کے شر سے

حَتَّىٰ تَبْلُغَنِي أَجَلِي مُعَانِي ۝ اللَّهُمَّ صِلْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا

یہاں تک کہ تو مجھے عافیت کے ساتھ میری موت تک پہنچائے۔ اے اللہ! درود بھیج حضرت

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ ۝

محمد پر اور آل حضرت محمد پر بشمار اُن لوگوں کے جنہوں نے آپ پر درود بھیجا

وَصَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور درود بھیج حضرت محمد پر اور آل حضرت محمد پر

عَدَدَ مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

بشمار اُن لوگوں کے جنہوں نے آپ پر درود نہیں بھیجا اور درود بھیج حضرت محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا تَتَّبَعِي الصَّلَاةَ عَلَيْهِ وَ

اور آل حضرت محمد پر جس طرح چاہیے کہ آپ پر درود بھیجا جائے اور

صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا

درود بھیج حضرت محمد پر اور آل حضرت محمد پر جس طرح

تَجِبُ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ ۝ وَصَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

واجب ہے کہ آپ پر درود بھیجا جائے اور درود بھیج حضرت محمد پر اور

عَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا أَمَرْتُ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ ۝

آل حضرت محمد پر جس طرح تو نے حکم دیا ہے کہ اُن پر درود بھیجا جائے

وَصَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي نُوْرُهُ مِنْ نُوْرِ

اور درود بھیج حضرت محمد پر جن کا نور سارے نوروں کا

الْأَنْوَارِ وَأَشْرُقَ بِشُعَاعِ سِرِّهِ الْأَسْرَارِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ

اصل ہے اور جگمگاتے ہیں اُس کے راز کی کرنوں سے سارے اسرار اے اللہ درود بھیج

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَهْلِ

حضرت محمد پر اور آل حضرت محمد پر اور آپ کی اہل بیت

بَيْتِهِ الْإِبْرَارِ اجْمَعِينَ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

پر جو نیک ہیں سب پر اے اللہ! درود بھیج حضرت

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ بِحُرَّانُورِكَ وَمَعْدِنِ اسْرَارِكَ وَ

محمد پر اور آپ کی آل پر جو تیرے انوار کا سمندر ہیں اور تیرے اسرار کی کان ہیں جو

لِسَانَ مَجْتَبِكَ وَعَرُوسِ مَمْلُكَتِكَ وَإِمَامِ حَضْرَتِكَ

تیری توحید کی دلیل کی زبان ہیں اور تیری مملکت کے ڈولہا ہیں اور تیری بارگاہِ عزت کے امام

وَحَاوِيَةِ أَنْبِيَائِكَ صَلَوةً تَدُومُ رَيْدِ وَإِمَامِكَ وَبَقِيَّةِ

ہیں اور تیرے انبیاء کے خاتم ہیں ایسا درود جو ہمیشہ رہے تیرے دوام تک اور باقی رہے

بِقَائِكَ صَلَوةً تَرْضِيكَ وَتَرْضِيهِ وَتَرْضَى بِهَا

تیری بقا تک ایسا درود جو راضی کر دے تجھ کو اور راضی کر دے حضور کو اور راضی ہو جائے تو اس

عَنِّي يَا رَحْمَةَ الرَّاحِمِينَ ۝ اللَّهُمَّ رَبَّ الْجَلِّ وَالْحَرَامِ

کی برکت سے ہم سے یا رحم الراحمین اے اللہ! اے مالکِ جَلِّ و حَرَامِ

وَرَبِّ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَرَبِّ الْبَيْتِ الْحَرَامِ وَرَبِّ

آر مالک مشعر حرام کے اور مالک بیت المحرام کے اور مالک

الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ اَبْلَغُ لِسَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مِّنَّا

رُکن اور مقام کے پہنچا ہمارے آقا اور مولا محمد کو ہماری طرف سے

السَّلَامِ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ

سلام الہی! درود بھیج ہمارے آقا اور مولا محمد پر

سَيِّدِ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا

جو سردار ہیں اولین و آخرین کے اے اللہ! درود بھیج ہمارے آقا

وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِيْ كُلِّ وَقْتٍ وَحِيْنَ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ

اور مولا محمد پر ہر وقت اور ہر آن میں اے اللہ! درود بھیج

عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِي الْمَلٰٓئِكَةِ الْاَعْلٰى اِلٰى

ہمارے آقا اور مولا محمد پر بلند ترین فرشتوں کی مجلس میں تا

يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ

روزِ قیامت الہی! درود بھیج ہمارے آقا اور مولا محمد پر

حَتّٰى تَرِثَ الْاَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَاَنْتَ خَيْرُ الْوٰثِقِيْنَ ۝

یہاں تک کہ تو وارث بنے زمین کا اور جو کچھ اس پر ہے اور تو سب وارثوں سے بہتر ہے

اللَّهُوَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى

اے اللہ! درود بھیج حضرت محمد پر جو نبی امی ہیں اور آل

إِل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ

حضرت محمد پر جس طرح درود بھیجا تو نے حضرت ابراہیم پر

إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ ۝ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

بے شک تو سب خوبوں سرا بزرگ ہے اور برکت نازل فرما حضرت محمد پر

النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ

جو نبی امی ہیں جس طرح برکت نازل فرمائی تو نے حضرت ابراہیم پر بے شک تو

حَمِيدٌ مُجِيدٌ ۝ اللَّهُوَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

حمید مجید ہے اے اللہ! درود بھیج حضرت محمد پر اور ہمارے آقا

إِل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ وَحَسْبُ

محمد کی اولاد پر بشمار اس کے جس کو تیرے علم نے احاطہ کیا ہے اور بشمار اس

بِهِ قَلَمُكَ وَسَبَقَتْ بِهِ مَشِيئَتُكَ وَصَلَّتْ عَلَيْهِ

کے کتیرے قلم نے لکھا ہے اور بشمار اس کے کہ پہلے ہو چکا ہے ساتھ اس کے ارادہ تیرا اور بشمار اس کے کہ

مَلَائِكَتُكَ صَلَوَةٌ دَائِمَةٌ بِكَ وَأَمَّا بَقِيَّةُ بَفَضْلِكَ

دروہیما ہے آنحضرت پر تیرے فرشتوں نے ایسا درود جو ہمیشہ رہنے والا ہے تیرے واسطے اور بقیہ تو اپنے فضل سے ہے

وَإِحْسَانِكَ إِلَىٰ أَبَدِ الْأَبَدِ أَبَدًا لِأَنْهَايَةِ لِرَبْدِيَّتِهِ

فضل و احسان سے ابد الآباد تک کہ جس کی ابدیت کی کوئی حد نہیں

وَلَا فَنَاءَ لِدَيْمُومِيَّتِهِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

اور جس کے دوام کو فنا نہیں اے اللہ! درود بھیج ہمارے آقا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا أَحَاطَ بِهِ

محمد پر اور ہمارے آقا محمد کی آل پر بشمار اس کے کہ تیرے علم نے اس کا احاطہ

عِلْمُكَ وَأَحْصَاهُ كِتَابُكَ وَشَهِدَتْ بِهِ مَلَائِكَتُكَ

کیا بتو ہے اور تیری کتاب نے اُس کو گن رکھا ہے اور تیرے فرشتوں نے اس کی گواہی دی ہے

وَأَرْضٌ عَنْ أَصْحَابِهِ وَارْحَمَ أُمَّتَهُ إِنَّكَ حَمِيدٌ

اور راضی ہو با حضور کے اصحاب پر اور رحم فرما حضور کی امت پر بے شک تو حمید

مَجِيدٌ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

مجید ہے اے اللہ! درود بھیج ہمارے آقا محمد پر اور ہمارے آقا

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ جَمِيعِ أَصْحَابِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

محمد کی آل پر اور ہمارے آقا محمد کے تمام صحابہ پر

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ! درود بھیج ہمارے آقا محمد پر اور ہمارے آقا محمد کی آل پر

کَمَا صَلَّيْتَ عَلَى سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْتَ اللّٰهُمَّ عَلَى

جس طرح درود بھیجا تو نے حضرت ابراہیم پر اور برکت نازل فرمائی اللہ!

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ

ہمارے آقا محمد پر اور ہمارے آقا محمد کی آل پر جس طرح برکت نازل فرمائی

عَلَى سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى اٰلِ سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ فِي

تو نے حضرت ابراہیم پر اور حضرت ابراہیم کی آل پر سارے

الْعٰلَمِيْنَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مُّجِيْدٌ ۝ اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

جہانوں میں بے شک تو سب خوبیوں سرشار، بزرگ ہے اے اللہ! درود بھیج ہمارے آقا

وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا اَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ ۝ اللّٰهُمَّ

و مولا محمد پر بشار اس کے کہ تیرے علم نے اس کا احاطہ کیا ہے اے اللہ!

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا اَحْصَاهُ

درود بھیج ہمارے آقا و مولا محمد پر بشار اس کے کہ تیری کتاب نے

كِتَابِكَ ۝ اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ

اس کو گن لیا ہے اے اللہ! درود بھیج ہمارے آقا و مولا محمد پر

عَدَدَ مَا نَفَذْتَ بِهِ قُدْرَتَكَ ۝ اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى

بشار اس کے کہ نافذ ہو چکی ہے اس کے ساتھ تیری قدرت اے اللہ! درود بھیج

سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا خَصَّصْتَهُ إِرَادَتِكَ

ہمارے آقا اور مولا محمد پر بشمار اس کے کہ مخصوص کر دیا ہے اس کو تیرے ارادے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا تَوَجَّهَ

اے اللہ! درود بھیج ہمارے آقا و مولا محمد پر بشمار اس کے کہ متوجہ ہوا ہے

إِلَيْهِ أَمْرُكَ وَنَهْيُكَ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

اس کی طرف تیرا حکم اور تیری نہی اے اللہ! درود بھیج ہمارے آقا

وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا وَسِعَتْ سَمْعُكَ ۝ اللَّهُمَّ

د مولا محمد پر بشمار اس کے کہ سن لیا ہے اس کو تیری قوتِ سمع نے اے اللہ!

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا أَحَاطَ بِهِ

درود بھیج ہمارے آقا و مولا محمد پر بشمار اس کے کہ تیری قوتِ بصیرت نے اس

بَصْرِكَ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ

کا احاطہ کر لیا ہے اے اللہ! درود بھیج ہمارے آقا و مولا محمد پر

عَدَدَ مَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

بشمار اس کے کہ ذکر کیا ہے آپ کو ذکر کرنے والوں نے اے اللہ! درود بھیج ہمارے آقا

مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا غَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَفْلُونَ ۝ اللَّهُمَّ

محمد پر بشمار اس کے کہ جو آپ کے ذکر سے غافل رہے ہیں اے اللہ!

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ قَطْرِ الْأَمْطَارِ

دُرودِ بیچِ ہمارے آقا اور مولا محمد پر بشمار بارش کے قطروں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ أَوْرَاقِ

اے اللہ! دُرودِ بیچِ ہمارے آقا و مولا محمد پر درختوں کے پتوں کے

الْأَشْجَارِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ

عدد کے برابر اے اللہ! دُرودِ بیچِ ہمارے آقا و مولا محمد پر

عَدَدِ دَوَابِّ الْقَفَّارِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا

جنکوں کے جانوروں کے شمار کے مطابق اے اللہ! دُرودِ بیچِ ہمارے آقا اور مولا

مُحَمَّدٍ عَدَدِ دَوَابِّ الْبَحَارِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا

محمد پر بحری جانوروں کے عدد کے مطابق اے اللہ! دُرودِ بیچِ ہمارے آقا و مولا

مُحَمَّدٍ عَدَدِ مِيَاهِ الْبَحَارِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ

محمد پر بشمار دریاؤں کے پانی کے اے اللہ! دُرودِ بیچِ ہمارے آقا و مولا محمد پر

عَدَدَ مَا أَظْلَمَ عَلَيْهِ اللَّيْلُ وَأَضَاءَ عَلَيْهِ النَّهَارُ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

بشماران چیزوں کی گنتی کے جن پر رات اندھیری ہوئی اور جن پر دن روشن ہوا اے اللہ! دُرودِ بیچِ

سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ بِالْغَدِّ وَالْأَصَالِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

ہمارے آقا و مولا محمد پر ہر صبح اور ہر شام اے اللہ! دُرودِ بیچِ ہمارے آقا و

مَوْلَانَا مُحَمَّدٌ عَدَدَ الرِّوَالِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا

مولا محمد پر ریت کے ذروں کے برابر اے اللہ! درود بھیج ہمارے آقا و مولا

مُحَمَّدٍ عَدَدَ النِّسَاءِ وَالرِّجَالِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

محمد پر بشمار عورتوں اور مردوں کے اے اللہ! درود بھیج ہمارے آقا

وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ رِضَاءَ نَفْسِكَ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ

و مولا محمد پر اس قدر کہ تیری ذات راضی ہو جائے اے اللہ! درود بھیج

سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مِدَادَ كَلِمَاتِكَ ۝ اللَّهُمَّ

ہمارے آقا و مولا محمد پر بقدر اس سیلی کے جس سے تیرے کلمات لکھے گئے اے اللہ!

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مِلَّ سَنَوَاتِكَ

درود بھیج ہمارے آقا و مولا محمد پر اتنی مقدار میں جس سے تیرے آسمان

وَأَرْضِكَ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ

اوتیری زمین مسمور ہو جائے اے اللہ! درود بھیج ہمارے آقا اور مولا محمد پر

زِنَةَ عَرْشِكَ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا

اپنے عرش کے وزن کے برابر اے اللہ! درود بھیج ہمارے آقا اور مولا

مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَخْلُوقَاتِكَ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

محمد پر بشمار اپنی مخلوق کے اے اللہ! درود بھیج ہمارے آقا

وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا فَضَّلْ صَلَوَاتِكَ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ

و مولا محمد پر اپنے افضل ترین درودوں سے اے اللہ! درود بھیج

عَلَى نَبِيِّ الرَّحْمَةِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى شَفِيعِ الْأُمَّةِ ۝

نبی رحمت پر اے اللہ! درود بھیج شفیع اُمت پر

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى كَاشِفِ الْغُمَّةِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

اے اللہ! درود بھیج دکھ دور کرنے والے پر اے اللہ! درود بھیج

مُجَلِّي الظُّلْمَةِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُوَلِّي النِّعْمَةِ ۝

اندھیروں کو روشن کرنے والے پر اے اللہ! درود بھیج نعمتیں عطا فرمانے والے پر

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُوْتِي الرَّحْمَةِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

اے اللہ! درود بھیج رحمت دینے والے پر اے اللہ! درود بھیج

صَاحِبِ الْحَوْضِ الْمُرْوُودِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

حوض کوثر کے مالک پر جس پر ساری اُمت وارد ہوگی اے اللہ! درود بھیج

صَاحِبِ الْمَقَامِ الْمَحْمُودِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

مقام محمود کے صاحب پر اے اللہ! درود بھیج

صَاحِبِ الْوَأْدِ الْمَعْقُودِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ

ایسے پر چھ اُٹھانے والے پر جو بندھا ہوا ہے اے اللہ! درود بھیج صاحب

الْمَكَانِ الْمَشْهُودِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْمُؤَصِّفِ بِالْكَرَمِ

مکان مشہود پر اے اللہ! درود بھیج اُس پر جو کرم اور سخاوت سے

وَالْجُودِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ هُوَ فِي السَّمَاءِ سَيِّدُنَا

موصوف ہے اے اللہ! درود بھیج اُس پر جو آسمان میں

مَحْمُودٌ وَفِي الْأَرْضِ سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

محمود اور زمین میں سیدنا محمد کے نام سے مشہور ہے اے اللہ! درود بھیج

صَاحِبِ الْعِلْمِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ الْعِلْمِ

مہربانوں کے نشان والے پر اے اللہ! درود بھیج نشانی والے پر

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْمُؤَصِّفِ بِالْكَرَامَةِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ

اے اللہ! درود بھیج اُس پر جو بزرگی کے ساتھ موصوف ہے اے اللہ! درود بھیج

عَلَى الْمُخْصُوصِ بِالزَّعَامَةِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ

اُس پر جو قیادت کے ساتھ مخصوص ہے اے اللہ! درود بھیج اُس پر

كَانَ تَظْلُهُ الْغَمَامَةُ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ كَانَ

جس پر بادل سایہ کرتے تھے اے اللہ! درود بھیج اُس پر جو پیچھے بھی

يُرَى خَلْفَهُ كَمَا يَرَى مِنْ أَمَامِهِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ

اس طرح دیکھتا تھا جس طرح وہ سامنے دیکھا کرتا اے اللہ! درود بھیج

عَلَى الشَّفِيعِ الْمُشَفَّعِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

شفاعت کرنے والے پر جس کی شفاعت مقبول ہے قیامت کے دن اے اللہ! درود بھیج

صَاحِبِ الضَّرَاعَةِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ

عاجزی کرنے والے پر اے اللہ! درود بھیج شفاعت

الشَّفَاعَةِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ لُوسَيْلَةَ ۝ اللَّهُمَّ

کرنے والے پر اے اللہ! درود بھیج وسیلہ کے مالک پر اے اللہ!

صَلِّ عَلَى صَاحِبِ لِفْضِيلَةَ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

درود بھیج صاحب فضیلت پر اے اللہ! درود بھیج

صَاحِبِ الدَّرَجَةِ الرَّفِيعَةِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

بلند درجہ والے پر اے اللہ! درود بھیج

صَاحِبِ لِهْرَاوَةَ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ النَّعْلَيْنِ

صاحب عماما پر اے اللہ! درود بھیج صاحب نعلین پر

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ الْحُجَّةِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

اے اللہ! درود بھیج صاحب دلیل قاطع پر اے اللہ! درود بھیج

صَاحِبِ لِبُرْهَانَ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ السُّلْطَانِ

روشن دلیل والے پر اے اللہ! درود بھیج صاحب سلطان پر

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ النَّاجِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

اے اللہ! درود بھیج تاجدارِ نبوت پر اے اللہ! درود بھیج

صَاحِبِ مِعْرَاجٍ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ الْقَضِيبِ

صاحبِ معراج پر اے اللہ! درود بھیج عصا والے پر

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى رَاكِبِ الْبُحَيْبِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى رَاكِبِ

اے اللہ! درود بھیج امیل اُونٹنی کے سوار پر اے اللہ! درود بھیج بُراق کے

الْبُرَاقِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُخْتَرِقِ السَّبْعِ الطَّبَاقِ ۝

سوار پر اے اللہ! درود بھیج سات آسمانوں کو چیر کر آگے جانے والے پر

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الشَّفِيعِ فِي جَمِيعِ الْأَكَامِرِ ۝ اللَّهُمَّ

اے اللہ! درود بھیج تمام مخلوق کے شفیع پر اے اللہ!

صَلِّ عَلَى مَنْ سَبَّحَ فِي كِفِّهِ الطَّعَامُ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ

درود بھیج اُس پر جس کی ہتھیلی میں کھانے نے سبح کی اے اللہ! درود بھیج

عَلَى مَنْ بَكَى إِلَيْهِ الْجُدْعُ وَحَنَّ لِفِرَاقِهِ ۝ اللَّهُمَّ

اُس پر جس کے فراق میں بھور کا مٹھہ رویا اور فریاد کی اے اللہ!

صَلِّ عَلَى مَنْ تَوَسَّلَ بِهِ طَيْرُ الْفَلَاقَةِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ

درود بھیج اُس پر جس کو وسیلہ بنا یا جنٹل کے پرندوں نے اے اللہ! درود بھیج

عَلَى مَنْ سَبَّحَتْ فِي كَفِّهِ الْحَصَاةُ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

اُس پر جس کی پتیلی میں کنکڑوں نے تیس چھیڑ کئی اے اللہ! درود بھیج

مَنْ تَشَفَّعَ إِلَيْهِ الطَّبِيُّ بِأَفْصَحِ الْكَلَامِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ

اُس پر جس کی خدمت میں شفاعت کی التجا کہرنی نے فصیح کلام سے اے اللہ! درود بھیج

عَلَى مَنْ كَلَّمَهُ الضَّبُّ فِي مَجْلِسِهِ مَعَ أَصْحَابِهِ الْأَهْلَامِ ۝

اُس پر جس کے ساتھ گھٹکڑی کوڑنے آپ کی مجلس میں جب کہ کبار صحابہ موجود تھے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْبَشِيرِ النَّذِيرِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى السِّرَاجِ

اے اللہ! درود بھیج غمخیز خبری دینے والے، بروقت ڈرانے والے پر اے اللہ! درود بھیج آفتاب

الْمُنِيرِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ شَكَكَ إِلَيْهِ الْبُعِيدُ ۝ اللَّهُمَّ

عالم تاب پر اے اللہ! درود بھیج اُس پر جس کی خدمت میں اُدُنٹ نے شکوہ کیا اے اللہ!

صَلِّ عَلَى مَنْ تَفَجَّرَ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ الْمَاءُ الْغَمِيرُ ۝

درود بھیج اُس پر جس کی مبارک انگلیوں سے صاف پانی جاری ہوا

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الطَّاهِرِ الْمُطَهَّرِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

اے اللہ! درود بھیج اُس پر جو خود پاک ہے اور پاک کیا گیا ہے اے اللہ! درود بھیج سارے

نُورِ الْأَنْوَارِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ نُشِقَ لَهُ الْقَمَرُ ۝ اللَّهُمَّ

نوروں کے نور پر اے اللہ! درود بھیج اُس پر جس کے لئے چاند شق ہوا اے اللہ!

صَلِّ عَلَى الطَّيِّبِ الْمُنْتَهَى ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الرَّسُولِ

دُرُودِ بَیْحِ اُسْ پُر جو خوشبودار ہے اور جسے خوشبودار بنایا گیا ہے اے اللہ! دُرُودِ بَیْحِ ایسے رسول پر

الْمُقَرَّبِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْفَجْرِ السَّاطِعِ ۝ اللَّهُمَّ

جو تیرا مقرب ہے اے اللہ! دُرُودِ بَیْحِ ایسی صبح پر جس کا اُجالا پھیلنے والا ہے اے اللہ!

صَلِّ عَلَى النَّجْوِ الثَّاقِبِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْعُرْوَةِ

دُرُودِ بَیْحِ دیکھتے ہوئے ستارے پر اے اللہ! دُرُودِ بَیْحِ مضبوط

الْوُثْقِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى نَذِيرِ أَهْلِ الْأَرْضِ ۝ اللَّهُمَّ

دستاویز پر اے اللہ! دُرُودِ بَیْحِ اہل زمین کو بروقت ڈرانے والے پر اے اللہ!

صَلِّ عَلَى الشَّفِيعِ يَوْمَ الْعَرْضِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

دُرُودِ بَیْحِ روز قیامت شفاعت کرنے والے پر اے اللہ! دُرُودِ بَیْحِ اُس

السَّاقِ لِلنَّاسِ مِنَ الْحَوْضِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ

ساقی پر جو لوگوں کو حوض کوثر سے پلائے گا اے اللہ! دُرُودِ بَیْحِ حمد کا

لِوَاءِ الْحَمْدِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْمَشْمَرِ عَنِ سَاعِدِ

پرچم اٹھانے والے پر اے اللہ! دُرُودِ بَیْحِ کوشش کے بازو سے آستین چڑھانے

الْجِدِّ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْمُسْتَعْمِلِ فِي مَرْضَاكَ

والے پر اے اللہ! دُرُودِ بَیْحِ تیری رضا کے حصول کے لئے اپنی انتہائی طاقت کو

غَايَةُ الْجُهْدِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ الْخَاتِمِ ۝

استعمال کرنے والے پر اے اللہ! درود بھیج نبی خاتم پر

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الرَّسُولِ الْخَاتِمِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

اے اللہ! درود بھیج رسول خاتم پر اے اللہ! درود بھیج

الْمُصْطَفَى الْقَائِمِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى رَسُولِكَ أَبِي

پنے برگزیدہ پر جنابت قدم ہے اے اللہ! درود بھیج اپنے رسول

الْقَاسِمِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ الْآيَاتِ ۝ اللَّهُمَّ

ابو القاسم پر اے اللہ! درود بھیج نبوت کی نشانیوں والے پر اے اللہ!

صَلِّ عَلَى صَاحِبِ الدَّلَالَاتِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

درود بھیج راہنمائیوں کے صاحب پر اے اللہ! درود بھیج

صَاحِبِ الْإِشَارَاتِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ

صاحب اشارات پر اے اللہ! درود بھیج صاحب

الْكِرَامَاتِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ الْعَلَامَاتِ ۝

کرامات پر اے اللہ! درود بھیج صاحب علامات پر

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ الْبَيِّنَاتِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

اے اللہ! درود بھیج روشن دلیلوں والے پر اے اللہ! درود بھیج

صَاحِبِ الْمُعْجَزَاتِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ

صاحب معجزات پر اے اللہ! درود بھیج صاحب ان افعال پر

خَوَارِقِ الْعَادَاتِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ سَلِمَتْ

جو مخالف عادات کے ہیں اے اللہ! درود بھیج جس پر پتھروں

عَلَيْهِ الْأَحْجَارُ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ سَبَّحَتْ بَيْنَ

نے سلام عرض کیا اے اللہ! درود بھیج اُس پر جس کے سامنے درخت

يَدَيْهِ الْأَشْجَارُ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ تَفْتَقَتْ

سجدہ ریز ہو گئے اے اللہ! درود بھیج اُس پر جس کے

مِنْ نُورِهِ الْأَزْهَارُ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ طَابَتْ

نور سے پھول کھلے اے اللہ! درود بھیج اُس پر جس کی برکت

بِبَرَكَتِهِ الثَّمَارُ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ أَخْضَرَّتْ مِنْ

سے پھل لذیذ ہو گئے اے اللہ! درود بھیج اُس پر جس کے وضو کے

بَقِيَّةِ وَضُوئِهِ الْأَشْجَارُ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ

بقیہ پانی سے سوکھے درخت سرسبز ہو گئے اے اللہ! درود بھیج اُس پر جس

فَاضَتْ مِنْ نُورِهِ جَمِيعُ الْأَنْوَارِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

کے نور سے سارے انوار ظاہر ہوئے اے اللہ! درود بھیج اُس پر

مَنْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ تَحَطُّ الْأَوْزَارِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

جس پر درود کے صدقے گناہ گرا دیئے جاتے ہیں اے اللہ! درود بھیج

مَنْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ تُنَالُ مَنَازِلُ الْأَبْرَارِ ۝ اللَّهُمَّ

اُس پر جس پر درود کی برکت سے ابرار کے مرتبے حاصل ہوتے ہیں اے اللہ!

صَلِّ عَلَى مَنْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ يُرْحَمُ الْكِبَارُ وَالصِّغَارُ

درود بھیج اُس پر جس پر درود کے طفیل بڑوں اور چھوٹوں پر رحم کیا جاتا ہے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ نَتَنَعَفَى فِي هَذِهِ

اے اللہ! درود بھیج اُس پر جس پر درود کی برکت سے ہم اس دُنیا میں بھی اور آخرت

الدَّارِ وَفِي تِلْكَ الدَّارِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ بِالصَّلَاةِ

میں بھی نعمتوں سے مالا مال ہوں گے اے اللہ! درود بھیج اُس پر جس پر درود بھیجنے

عَلَيْهِ تُنَالُ رَحْمَةُ الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

کی برکت سے عزیز و غفار کی رحمت حاصل کی جاتی ہے اے اللہ! درود بھیج اس پر

الْمَنْصُورِ الْمُؤَيَّدِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ الْمَخْتَارِ الْمَجِيدِ

جس کی تو نے نصرت فرمائی ہے اے اللہ! درود بھیج اُس پر جو برگزیدہ ہے اور عزت والا ہے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ

اے اللہ! درود بھیج ہمارے آقا اور مولا محمد پر اے اللہ! درود بھیج

عَلَى مَنْ كَانَ إِذَا مَشَىٰ فِي الْبَرِّ الْأَقْفَرِ تَعَلَّقَتْ

اُس پر جب وہ چیل میدان میں چلتا تھا تو درندے اُس کے دامن

الْوَحْشُ بِأَذْيَالِهِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ

سے پٹ جاتے تھے اے اللہ! درود بھیج آپ پر اور آپ کی آل پر

وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا ۝ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

اور آپ کے صحابہ پر اور تو سلام بھیج سب تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جو رب العالمین ہے

ابْتِدَاءُ الرَّبْعِ الثَّانِي

دوسری چوتھائی کا آغاز

الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَىٰ حَمِيهِ بَعْدَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ عَفْوِهِ بَعْدَ

سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے اس کے علم پر اس کے علم کے باوجود اُس کی عفو و درگزر پر اس

قُدْرَتِهِ ۝ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ إِلَّا إِلَيْكَ ۝

کی قدرت کے باوجود اے اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں مگر یہ کہ وہ تیری طرف سے جو

وَمِنَ الذُّلِّ إِلَّا لَكَ وَمِنَ الْخَوْفِ إِلَّا مِنْكَ ۝ وَ

اور ذلت سے مگر یہ کہ وہ تیرے لئے ہو اور خوف سے مگر یہ کہ وہ تجھ سے ہو اور

أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَقُولَ زُورًا ۝ أَوْ أَغْشَىٰ فُجُورًا ۝ أَوْ

میں پناہ مانگتا ہوں تیری کہ میں جھوٹ بولوں یا نافرمانی کروں یا

اَكُوْنُ بِكَ مَعْرُوْرًا ۝ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شِمَاتِهِ الْاَعْدَاءِ

تیرے ساتھ معرود ہو جاؤں اور میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے کہ دشمن مجھے دیکھ کر

وَعُضَالِ الدَّاءِ وَخَيْبَةِ الرَّجَاءِ وَزَوَالِ النِّعْمَةِ وَفَجَاءَةِ

خوشیاں منائیں اور لا علاج بیماری سے اور امید کے برنہ آنے سے اور نعمت کے زائل ہونے سے اور

النِّقْمَةِ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ

اپنا کٹا بٹانے سے اے اللہ! درود بھیج ہمارے آقا محمد پر اور سلام بھیج آپ پر

وَاجْرِهٖ عَنَّا مَا هُوَ اَهْلُهُ جَيْبِكَ (ثَلَاثًا) ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ

اور ہماری طرف آپ کو جو ہر آنے جس جزاکا تیرا جیب اہل ہے (تین مرتبہ کہے) اے اللہ! درود بھیج

عَلٰى سَيِّدِنَا اِبْرٰهِيْمَ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَاجْرِهٖ عَنَّا مَا هُوَ

ہمارے سردار ابراہیم پر اور سلام بھیج آپ پر اور جو ہر آنے آپ کو ہم سے جس جزاکا تیرا

اَهْلُهُ خَلِيْلِكَ (ثَلَاثًا) ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

خلیل اہل ہے (تین مرتبہ کہے) اے اللہ! درود بھیج ہمارے آقا محمد پر

وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَرَحِمْتَ وَبَارَكْتَ

اور ہمارے آقا محمد کی آل پر جس طرح درود بھیجا ہے تو نے اور رحمت کی ہے تو نے اور برکت

عَلٰى سَيِّدِنَا اِبْرٰهِيْمَ فِي الْعَالَمِيْنَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مُّجِيْدٌ

دی ہے تو نے حضرت ابراہیم کو سارے جہانوں میں بے شک تو حمید مجید ہے

عَدَدَ خَلْقِكَ وَرَضِيَ نَفْسِكَ وَزِنَةَ عَرْشِكَ وَ

بشمار اپنی مخلوقات کے اور بقدر اپنی رضا کے اور بقدر وزن اپنے عرش کے اور

مِدَادَ كَلِمَاتِكَ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اپنے کلمات کی سیاہی کے اے اللہ! درود بھیج ہمارے سردار محمد پر

عَدَدَ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

بشمار ان کے جنہوں نے درود بھیجا آپ پر اے اللہ! درود بھیج ہمارے آقا

مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ لَوْ يُصَلِّي عَلَيْهِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

محمد پر بشمار ان کے جنہوں نے آپ پر درود نہیں بھیجا اے اللہ! درود بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا صَلِّيَ عَلَيْهِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

ہمارے آقا محمد پر بشمار اس کے کہ درود بھیجا گیا آپ پر اے اللہ! درود بھیج ہمارے آقا

مُحَمَّدٍ أَضْعَافَ مَا صَلِّيَ عَلَيْهِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

محمد پر چند در چند اس کے جو درود بھیجا گیا آپ پر اے اللہ! درود بھیج ہمارے آقا

مُحَمَّدٍ كَمَا هُوَ أَهْلُهُ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

محمد پر جس طرح آپ اس کے اہل ہیں اے اللہ! درود بھیج ہمارے آقا محمد پر

كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى لَهُ ۝

جس طرح تو دوست رکھتا ہے اور پسند کرتا ہے ان کے لئے

الْحَزْبُ الثَّلَاثُ فِي يَوْمِ الْأَرْبَعَاءِ

تیسری منزل جو بدھ کے روز کے لئے ہے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى رُوحِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي الْأَزْوَاجِ وَعَلَى

اے اللہ! درود بھیج ہمارے آقا محمد کے رُوح مبارک پر تمام رُوحوں میں اور

جَسَدِهِ فِي الْأَجْسَادِ وَعَلَى قَبْرِهِ فِي الْقُبُورِ وَعَلَى إِلَيْهِ

جسد مبارک پر تمام جسموں میں اور مرقد انور پر تمام قبروں میں اور آپ کی آل پر

وَصَلِّحِهِ وَسَلِّمْ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كُلَّمَا

اور صحابہ پر اور سلام بھیج اے اللہ! درود بھیج ہمارے آقا محمد پر جب کہ

ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كُلَّمَا

یاد کریں آپ کو یاد کرنے والے اے اللہ! درود بھیج ہمارے آقا محمد پر جب کہ

غَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَفَلُونَ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ بَارِكْ

غافل ہوں آپ کے ذکر سے غفلت کرنے والے اے اللہ! درود و سلام بھیج اور برکتیں نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَأَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ

فرما ہمارے آقا محمد پر جو نبی امی ہیں اور آپ کی ازواج پر جو مسلمانوں

الْمُؤْمِنِينَ وَذُرِّيَّتِهِ وَأَهْلَ بَيْتِهِ صَلَوةً وَسَلَامًا

کی مائیں اور ان کی اولاد اور ان کے اہل بیت پر ایسا درود و سلام کہ نہ

شمار چہار شنبہ کے روز کے لئے ہے

يُحْضِرْ عَدَدَهُمَا وَلَا يَقْطَعْ مَدَدَهُمَا ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ

شمار کیا جا سکے اُن کا عدد اور نہ ختم ہو اُن کی زیادتی اے اللہ! درود بھیج

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ وَأَحْصَاهُ

ہمارے آقا محمد پر بشمار اس کے کہ احاطہ کیا ہے اُس کا تیرے علم نے اور شمار کیا ہے

كِتَابِكَ صَلَوةٌ تَكُونُ لَكَ رِضًا وَلِحَقِيقَةً أَدَاءً وَأَعْطِهِ

اُس کو تیری کتاب نے ایسا درود جو تیری رضا کا باعث ہو اور آپ کے حق کو ادا کرے اور عطا فرما

الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالذَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ اللَّهُمَّ

آپ کو وسیلہ اور بزرگی اور درجہ بلند اور فائز فرما آپ کو اے اللہ

الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ وَاجْزِهِ عَنَّا مَا هُوَ أَهْلُهُ

مقام محمود پر جس کا تو نے اُن سے عہد کیا ہے اور جزا ہے آپ کو ہماری طرف سے جس جزا کے آپ لائق ہیں

وَعَلَى جَمِيعِ إِخْوَانِهِ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

اور آپ کے تمام بھائیوں پر انبیاء سے اور صدیقین سے اور شہیدوں سے

وَالصَّالِحِينَ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَأَنْزِلْهُ

اور صالحین سے اے اللہ! درود بھیج ہمارے آقا محمد پر اور نازل فرما

الْمَنْزِلَ الْمُقَرَّبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

اُن کو قربی منزل پر قیامت کے دن اے اللہ! درود بھیج ہمارے آقا

مُحَمَّدٍ ۝ اللَّهُ تَوَجَّهْ بِتَاجِ الْعِزِّ وَالرِّضَا وَالْكَرَامَةِ

محمد پر اے اللہ! تاج پہنا آپ کو عزت کا خوشنودی کا اور بزرگی کا

اللَّهُوَ اعْطِ لِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فَضْلًا فَاسْأَلْكَ لِنَفْسِهِ ۝

اے اللہ! عطا فرما ہمارے آقا محمد کو افضل ترین مسجرت اپنے تجھ سے مانگا ہے اپنے لئے اور

اعْطِ لِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَفْضَلَ فَاسْأَلْكَ لَهُ أَحَدٌ مِّنْ

عطا فرما ہمارے آقا محمد کو بزرگ ترین اُس سے کہ مانگا ہے تجھ سے آپ کے لئے کسی نے

خَلْقِكَ ۝ وَأَعْطِ لِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَفْضَلَ فَأَنْتَ مَسْئُولٌ ۝

تیری مخلوق سے اور عطا فرما ہمارے آقا محمد کو افضل ترین اُس کا جس کا تجھ سے سوال کیا گیا ہے

لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۝ اللَّهُ وَصَلَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

قیامت تک اے اللہ! درود بھیج ہمارے آقا محمد پر

وَسَيِّدِنَا آدَمَ وَسَيِّدِنَا نُوحٍ وَسَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَسَيِّدِنَا

اور ہمارے سربراہوں آدم نوح ابراہیم

مُوسَى وَسَيِّدِنَا عِيسَى وَمَا بَيْنَهُمْ مِّنَ الْمُرْسَلِينَ ۝

موسیٰ اور عیسیٰ پر اور جو ان کے درمیان انبیاء اور رسول ہوئے ہیں

صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ (ثلثاً) ۝

اللہ کے درود اور اُس کا سلام اُن تمام پر (تین بار پڑھے)

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ أَبِي نَاسٍ سَيِّدِنَا أَدَمَ وَأُمِّ نَاسٍ سَيِّدَتِنَا حَوَّاءَ

اے اللہ! درود بھیج ہمارے باپ سیدنا آدم پر اور ہماری ماں سیدہ حوا پر

صَلْوَةً مَلَائِكَتِكَ وَأَعْطِهِمَا مِنَ الرِّضْوَانِ حَتَّىٰ

جس طرح درود بھیجا ہے تو نے اپنے فرشتوں پر اور عطا فرما ان دونوں کو خوشنودی یہاں تک کہ

تَرْضِيَهُمَا وَأَجْرِهِمَا اللَّهُمَّ أَفْضَلَ مَا جَارَيْتَ بِهِ أَبَا

تو خوش کر دے ان دونوں کو جو ان دونوں کو اے اللہ! افضل ترین جزا جو تو نے کسی باپ

وَأُمَّاعِنُ وَوَلَدَيْهِمَا (ثَلَاثًا) ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

اور ماں کو ان کی اولاد کی طرف سے ہی ہے (تین مرتبہ پڑھے) اے اللہ! درود بھیج ہمارے سردار

جِبْرِيلَ وَسَيِّدِنَا مُيْكَائِيلَ وَسَيِّدِنَا إِسْرَافِيلَ وَسَيِّدِنَا

جبرائیل، ہمارے سردار میکائیل، ہمارے سردار اسرافیل اور ہمارے سردار

عِزْرَائِيلَ وَحَمَلَةَ الْعَرْشِ وَعَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ

عزرائیل اور حاملین عرش پر اور تمام فرشتوں خصوصاً مقربین پر

وَعَلَىٰ جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ

اور تمام انبیاء و مرسلین پر اللہ کے درود اور سلام ہوں

عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ (ثَلَاثًا) ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ان سب پر (تین بار پڑھے) اے اللہ! درود بھیج ہمارے آقا محمد پر

عَدَدًا مَا عَلِمْتَ وَمِلُّ مَا عَلِمْتَ وَزِنَةً مَا عَلِمْتَ

بشمار اس کے کہ تو جانتا ہے اور مقدار اس کے کہ تو جانتا ہے اور بوزن اس کے کہ تو جانتا ہے

وَمِدَادَ كَلِمَاتِكَ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور اپنے کلمات کی سیاہی کے برابر اے اللہ! درود بھیج ہمارے آقا محمد پر

صَلَاةً مَوْصُولَةً بِالْمُرِيدِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

ایسا درود جو ملتا ہو زیادتی کے ساتھ اے اللہ! درود بھیج ہمارے آقا

مُحَمَّدٍ صَلَاةً لَا تَنْقُطُ أَبَدًا وَلَا تَبِيدُ ۝ اللَّهُمَّ

محمد پر ایسا درود جو منقطع نہ ہو آخر زمانہ تک اور فنا نہ ہو اے اللہ!

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاتِكَ الَّتِي صَلَّيْتَ عَلَيْهِ

درود بھیج ہمارے آقا محمد پر ایسا درود جو تو نے اُن پر بھیجا ہے

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَلَامَكَ الَّذِي سَلَّمْتَ عَلَيْهِ

اور سلام بھیج ہمارے آقا محمد پر تیرا ایسا سلام جو تو نے ان پر بھیجا ہے

وَأَجِرْهُ عَنَّا مَا هُوَ أَهْلُهُ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

اور جبرائیل آپ کو ہماری طرف سے جس کے اہل میں اے اللہ! درود بھیج ہمارے آقا

مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَرْضِيكَ وَتَرْضِيهِ وَتَرْضِي بِهَا عَنَّا

محمد پر ایسا درود جو تجھے خوش کر دے اور اُنہیں خوش کر دے اور تو راضی ہو جائے اس کے سبب

وَاجْزِهْ عَنَّا هُوَ أَهْلُهُ ۝ اللَّهُ وَصَلَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ہم سے اور جزائے آپ کو ہماری طرف سے جو آپ کی شایان شان ہے اے اللہ! درود بھیج ہمارے آقا محمد پر

بِحُرِّ أَنْوَارِكَ وَمَعْدِنِ اسْرَارِكَ وَلِسَانِ مَجْتَبِكَ وَعَرْوَسِ

جو سمندر میں تیرے انوار کے جو کان میں تیرے اسرار کی اور جزبان میں تیری روشن دلیل کی، اور جو دہلاہیں

مَمْلُكَتِكَ وَإِقَامِ حَضْرَتِكَ وَطِرَازِ مُلْكِكَ وَخَزَائِنِ

تیری مملکت کے اور جو امام ہیں تیری بارگاہ کے اور جو زینت ہیں تیرے ملک کے اور خزانے ہیں

رَحْمَتِكَ وَطَرِيقِ شَرِيعَتِكَ الْمَتَلَدِ بِتَوْحِيدِكَ إِنْسَانَ

تیری رحمت کے اور جو راستہ ہیں تیری شریعت کا اور جو لذت پانے والے ہیں تیری توحید سے جو پہلی

عَيْنِ الْوُجُودِ وَالسَّبَبِ فِي كُلِّ مَوْجُودٍ عَيْنِ أَعْيَانِ

ہیں وجود کی آنکھ کی اور جو سبب ہیں ہر موجود کے وجود کے اور جو آنکھ ہیں

خَلْقِكَ الْمُتَقَدِّمِ مِنْ نُورِ ضِيَائِكَ صَلَوَةٌ تَدْوِمُ

تیری مخلوق کے بزرگیوں کے اور پہلے ظاہر ہونے والے ہیں تیری ذات کی تجلی کے نور سے ایسا درود جو

بِدَاوَامِكَ وَتَبْقَى بِبَقَائِكَ لَأَمْنَتُهُ لِهَادُونَ عِلْمِكَ

ہمیشہ ہے تیرے نام کے ساتھ اور نہ اانتہا ہو اس کی سوا تیرے علم کے

صَلَوَةٌ تَرْضِيكَ وَتَرْضِيهِ وَتَرْضِي بِهِ أَعْيَانَ رَبِّ

ایسا درود کہ خوش کرے تجھے اور خوش کرے آپ کو اور خوش ہو جائے تو اس کے سبب ہم سے یا رب

الْعَالَمِينَ ۝ اللَّهُ صَبَّحَ عَلَيَّ سَيِّدًا مُحَمَّدًا عَدَدَ مَا فِي

العالمین اے اللہ! درود بھیج ہمارے آقا محمد پر بشار اس کے جو

عِلْمُ اللَّهِ صَلَوةٌ دَائِمَةٌ بِكَ وَأَمْرُكَ اللَّهُ ۝ اللَّهُ

علم الہی میں ہے ایسا درود جو ہمیشہ رہے مُلکِ الہی کے دام کے ساتھ اے اللہ!

صَبَّحَ عَلَيَّ سَيِّدًا مُحَمَّدًا كَمَا صَلَّيْتَ عَلَيَّ سَيِّدًا إِبْرَاهِيمَ

درود بھیج ہمارے آقا محمد پر جس طرح درود بھیجا ہے تو نے ہمارے سردار ابراہیم پر

وَبَارِكْ عَلَيَّ سَيِّدًا مُحَمَّدًا وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدًا كَمَا

اور برکتیں نازل فرما ہمارے آقا محمد پر اور ہمارے آقا محمد کی آل پر جس طرح

بَارَكْتَ عَلَيَّ آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ

برکتیں نازل فرماتی ہیں تو نے آل ابراہیم پر سارے جہانوں میں بے شک تو ہی

حَمِيدٌ مُجِيدٌ عَدَدَ خَلْقِكَ وَرِضَاءِ نَفْسِكَ وَرِزْقِ

غویوں سراہا گیا بزرگ ہے بشار اپنی مخلوقات کے اور اپنی ذات کی رضا کے اور اپنے عرش

عَرْشِكَ وَمِثْلَ مَا ذَكَرْنَاكَ بِهِ خَلْقِكَ

کے وزن کے اور اپنے کلمات کی سیماہی کے اور بشار ان کے جنہوں نے تیرا ذکر کیا تیری مخلوق سے

فِي مَا مَضَى وَعَدَدَ مَا هُوَ ذَاكَ وَالْكَرُّ وَالْبَقِيَّةُ فِي كُلِّ

گزشتہ زمانہ میں اور بشار ان کے جو تیرا ذکر کرنے والے ہیں آئندہ ہر

سَنَةِ وَشَهْرٍ وَجُمُعَةٍ وَيَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَسَاعَةٍ مِّنَ

سال میں اور ہر مہینہ میں ہر جمعہ ، ہر دن اور ہر رات اور ہر گھڑی میں

السَّاعَاتِ وَشِعْوٍ وَنَفْسٍ وَطَرْفَةِ وَمَلْحَةٍ مِّنَ الْإِبْدِ

سب گھڑیوں سے اور ہر سوتھنے میں، سانس لینے میں، آنکھ جھپکنے میں ہر لمحہ میں ابتداء زمانہ سے

إِلَى الْإِبْدِ وَأَبَادِ الدُّنْيَا وَأَبَادِ الْآخِرَةِ وَأَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ

لے کر آخر تک اور دنیا کے سارے زمانوں اور آخرت کے سارے زمانوں بلکہ اس سے بھی زیادہ

لَا يَنْقُطُ أَوْلَاهُ وَلَا يَنْفَدُ آخِرُهُ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

نہ منقطع ہو اُس کی ابتدا اور نہ ختم ہو اُس کی انتہا اے اللہ! درود بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَلَىٰ قَدْرِ حُبِّكَ فِيهِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ

ہمارے آقا محمد پر بقدر اپنی محبت کے جو تجھے اُن سے ہے اے اللہ! درود بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَلَىٰ قَدْرِ عِنَايَتِكَ بِهِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ

ہمارے آقا محمد پر بقدر اپنی عنایت کے جو تیری ان پر ہے اے اللہ! درود بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَقَّ قَدْرِهِ وَمِقْدَارِهِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ

ہمارے آقا محمد پر جو اُن کی قدر و منزلت کے لائق ہے اے اللہ! درود بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَنْجِينًا بِهَا مِنْ جَمِيعِ الْأَهْوَالِ

ہمارے آقا محمد پر ایسا درود جس کی برکت سے تو نجات دے، ہمیں تمام غموں

لے یہ درود عجیبانہ نام سے مشہور ہے۔ اس کی برکتیں ظاہر و باہر ہیں۔

وَالْأَفَاتِ وَتَقْضَىٰ لَهَا جَمِيعَ الْحَاجَاتِ وَتُطَهَّرُ بِهَا

اور آفتوں سے اور پوری فرمائے تو اس کے باعث ہماری ساری حاجتیں اور پاک کر دے تو ہمیں

مِنْ جَمِيعِ السِّيَّاتِ وَتَرْفَعُنَا بِهَا عَلَى الدَّرَجَاتِ

اس کی برکت سے تمام گناہوں سے اور بلند کر دے تو ہمیں اس کی برکت سے اعلیٰ درجات پر

وَتُبَلِّغُنَا بِهَا أَقْصَى الْغَايَاتِ مِنْ جَمِيعِ الْخَيْرَاتِ

اور پہنچا دے تو ہمیں اس کی برکت سے انتہائی درجوں پر تمام خیرات سے

فِي الْحَيَاةِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ ۝ اللَّهُ وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا

دُنْيَا مِیں اور آخرت میں اے اللہ! درود بھیج ہمارے آقا

مُحَمَّدٍ صَلَوَةُ الرَّضِيِّ وَارْضَ عَنْ صَلَاحِهِ إِضَاءَ الرَّضِيِّ

محمد پر ایسا درود جو تیری رضا کا باعث ہو اور ارضی ہو آپ کے اصحاب سے اعلیٰ درجہ کی رضا

اللَّهُ وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ السَّابِقِ لِلْخَلْقِ نُورُهُ وَ

اے اللہ! درود بھیج ہمارے آقا محمد پر جن کا نور پیدائش میں سب سے پہلے ہے اور

الرَّحْمَةُ لِلْعَالَمِينَ ظُهُورُهُ عَدَدُ مَنْ قَضَىٰ مِنْ خَلْقِكَ

جن کا ظہور سارے جہانوں کے لئے رحمت ہے بشمار اپنی اس مخلوق کے جو گزر چکی ہے

وَمَنْ بَقِيَ وَمَنْ سَعِدَ مِنْهُمْ وَمَنْ شَقِيَ صَلَوَةُ تَسْتَعْرِقُ

اور جو باقی ہے اور جو نیک بخت ہے ان میں سے اور جو بد بخت ہے ایسا درود جو تمہارے

الْعَدَّ وَتُحِيطُ بِالْحَدِّ صَلَوةً لِأَخَايَةِ لَهَا وَلا مُنْتَهَى

ساری گنتی کو اور احاطہ کر لے ساری حدوں کا ایسا درود جس کی کوئی انتہا نہ ہو اور ایسا درود

وَلا انْقِضَاءَ صَلَوةً دَائِمَةً بِدَاوَمِكَ وَعَلَى إِلَهٍ وَ

جس کی کوئی حد نہ ہو اور نہ وہ ختم ہو ایسا درود جو تیرے دام کے ساتھ ہمیشہ رہنے والا ہو اور آپ کی آغ

صَحْبِهِ وَسَلَوْتُ سَلِيمًا مِثْلَ ذَلِكَ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

اور اصحاب پر اور فقہ اسلام بیچ آپ پر مثل اس کے اے اللہ! درود بیچ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي مَلَأَتْ قَلْبُهُ مِنْ جَلَالِكَ وَعَيْنُهُ

ہمارے آقا محمد پر جن کے قلب مبارک کو تو نے اپنے جلال سے اور جن کی چشم پاک کو

مِنْ جَمَالِكَ فَاصْبِرْ فِرْحَانًا مَنصُورًا وَعَلَى إِلَهٍ

اپنے جمال سے لبریز کر دیا پس ہوئے وہ خوش اور مدد دینے ہوئے فتح یاب اور آپ کی آل پر

وَصَحْبِهِ وَسَلَوْتُ سَلِيمًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى ذَلِكَ ۝ اللَّهُمَّ

اور آپ کے صحابہ پر اور فقہ اسلام بیچ آپ پر سب تعریفیں اللہ کے لئے ہیں اس کی اس مہربانی پر اے اللہ!

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ أَوْرَاقِ الزَّيْتُونِ

درود بیچ ہمارے آقا و مولا محمد پر جتنے زیتون کے پتے ہیں

وَجَمِيعِ الشَّامِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ

اور جتنے پھل ہیں اے اللہ! درود بیچ ہمارے آقا اور مولا محمد پر

عَدَدَ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ وَعَدَدَ مَا أَظْلَمَ

بشمار اس کے جو ہو چکا ہو ہو رہا ہے اور جو ہوگا اور بشمار اُن چیزوں کے کہ تاریک ہوئی

عَلَيْهِ اللَّيْلُ وَأَضَاءَ عَلَيْهِ النَّهَارُ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ

اُن پر رات اور روشن ہو اُن پر دن اے اللہ درود بھیج

عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَآزْوَاجِهِ

ہمارے آقا و مولا محمد پر اور آپ کی آل پر اور آپ کی ازواج پر

وَذُرِّيَّتِهِ عَدَدَ أَنْفَاسِ أُمَّتِهِ ۝ اللَّهُمَّ بَرِّكْ

اور آپ کی اولاد پر بشمار آپ کی امت کے ماسنوں کے اے اللہ آپ پر

الصَّلَاةَ عَلَيْهِ اجْعَلْنَا بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ مِنَ الْفَائِزِينَ

درود کی برکت سے ہم کو آپ پر درود بھیجنے میں کامیاب لوگوں میں سے فرما

وَعَلَىٰ حَوْضِهِ مِنَ الْوَارِدِينَ الشَّارِبِينَ ۝ وَبَسْتِهِ

اور آپ کے حوض پر آنے والوں اور پینے والوں سے فرما اور آپ کی سنت پر

وَطَاعَتِهِ مِنَ الْعَامِلِينَ ۝ وَلَا تَحُلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ

اور اطاعت پر عمل کرنے والوں سے فرما اور ہمارے درمیان اور حضور کے درمیان

يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ۝ وَاعْفِرْ لَنَا وَلِوَالِدِنَا

قیامت کے دن کسی چیز کو حاصل نہ کر یا رب العالمین اور بخش دے ہمیں اور ہمارے والدین کو

وَلِجَمِيعِ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

اور تمام مسلمانوں کو دالحمد بشد رب العالمین

اِبْتِدَاءُ الثُّلُثِ الثَّانِي

دوسری تہائی کی ابتداء

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

اے اللہ درود و سلام بھیج اور برکتیں نازل فرما ہمارے آقا محمد اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَكْرَمِ خَلْقِكَ وَسِرَاجِ اَفْقِكَ

ہمارے آقا محمد کی آل پر جو تیری سب مخلوق سے معزز ہیں اور تیرے افق کے آفتاب ہیں

وَافْضَلِ قَائِمٍ بِحَقِّكَ الْمُبْعُوْتِ بِتَيْسِيْرِكَ وَ

اور تیرے حق کے قائم کرنے والوں سے افضل ہیں اور بھیجے گئے ہیں تیری آسانی اور

رِفْقِكَ صَلَوةً يَتَوَالِي تَكَرُّرُهَا وَتَلُوْحُ عَلَى الْاَكْوَانِ

تیری نعمت کیساتھ ایسا درود جو پے در پے دہرایا جاتا ہے اور چمکیں سب مخلوق پر

اَنْوَارُهَا ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا

اُس کے انوار ۝ اے اللہ درود اور سلام بھیج اور برکتیں نازل فرما ہمارے آقا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَفْضَلِ مَمْدُوْحٍ

محمد پر اور ہمارے آقا محمد کی اولاد پر جو ان سب سے افضل ہیں جن کی تعریف

بِقَوْلِكَ وَأَشْرَفِ دَاعٍ لِإِعْتِصَامِ بِحَبْلِكَ وَخَاتِمِ

تو نے اپنے کلام سے کی ہے اور ان سب سے افضل ہیں جنہوں نے تیری رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کی دعوت دی ہے

أَنْبِيَائِكَ وَرُسُلِكَ صَلَوَاتُ تَبْلِغُنَا فِي الدَّارَيْنِ

اوتیرے انبیاء و رسل کے خاتم ہیں ایسا درود کہ پہنچائے ہیں دونوں جہانوں میں تیرے علم فضل تک

عَمِيمٍ فَضْلِكَ وَكَرَامَةِ رِضْوَانِكَ وَوَصْلِكَ ۝

اور تیری خوشنودی کی عزت تک اور تیرے وصال تک

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ درود اور سلام بھیج اور برکتیں نازل فرما ہمارے آقا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَكْرَمِ الْكُرَّمَاءِ مِنْ عِبَادِكَ

ہمارے آقا محمد کی آل پر جو تیرے بندوں میں بزرگ ترین لوگوں سے

وَأَشْرَفِ الْمُنَادِينَ لِبَطْرِكَ وَشَرَّاحِ

بزرگ تر ہے اور پکارنے والوں میں سے اشرف ہے جو تیری ہدایت کئے استوں کی طرف بلتے ہیں

أَقْطَارِكَ وَبِلَادِكَ صَلَوَاتُ اللَّاتِفَةِ وَلَا تَبِيدُ

اوتیرے ملکوں اور شہروں کا آفتاب ہے ایسا درود جو نہ فنا ہو اور نہ ختم ہو

تُبْلِغُنَا بِهَا كَرَامَةَ الْمُرِيدِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

پہنچا تو ہمیں اس کی برکتوں سے مزید عزتوں تک اے اللہ درود و سلام بھیج

وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور برکتیں نازل فرما ہمارے آقا محمد پر اور ہمارے آقا محمد کی آل پر

الرَّفِيعِ مَقَامِهِ الْوَاجِبِ تَعْظِيمُهُ وَاحْتِرَامُهُ

جن کا مقام بہت بلند ہے جن کی تعظیم اور احترام فرض ہے

صَلَاةٌ لَا تَنْقَطِعُ أَبَدًا وَلَا تَفْنِي سِرْمًا وَلَا تَحْصِرُ

ایسا درود جو کبھی منقطع نہ ہو اور کبھی فنا نہ ہو اور جسے کوئی شمار نہ

عَدَدًا ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

کر سکے اے اللہ درود بھیج ہمارے آقا محمد اور ہمارے

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ

آقا محمد کی آل پر جس طرح درود بھیجا ہے تو نے حضرت ابراہیم پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ جَمِيدٌ مُجِيدٌ ۝

اور حضرت ابراہیم کی آل پر سارے جہانوں میں بے شک تو ہی سب سے بڑے اور سب سے

وَصَلِّ لِلَّهِ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كُلَّمَا

اور درود بھیج اے اللہ حضرت محمد پر اور حضرت محمد کی آل پر جب تک

ذِكْرُهُ الذَّاكِرُونَ وَغَفَلَ عَن ذِكْرِهِ الْغٰفِلُونَ ۝

یا دکر میں اسے یاد کرنے والے اور غافل ہوں اُس کی یاد سے غفلت کرنے والے

اللَّهُ وَصَلَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

اے اللہ درود بیچ ہمارے آقا محمد پر اور حضرت محمد کی

مُحَمَّدٍ وَآرْحَوْ سَيِّدِنَا مُحَمَّدًا وَآلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

آل پر اور رحمت فرما حضرت محمد پر اور حضرت محمد کی آل پر

وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور برکتیں نازل فرما حضرت محمد پر اور حضرت محمد کی آل پر

كَمَا صَلَّيْتَ وَرَحَّمْتَ وَبَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ

جس طرح تو نے درود بھیجا اور رحمت فرمائی اور برکت نازل کی حضرت ابراہیم پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ

اور حضرت ابراہیم کی آل پر بے شک تو حمید مجید ہے

اللَّهُ وَصَلَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ

اے اللہ درود بیچ ہمارے آقا محمد پر جو نبی امی ہیں

الطَّاهِرِ الْمُطَهَّرِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَصَلَ عَلَى

جو پاک اور پاک کئے گئے ہیں اور آپ کی آل پر اور سلام بیچ اے اللہ درود بیچ انہیں

مَنْ خَتَمْتَ بِهِ الرِّسَالَةَ وَأَيَّدْتَهُ بِالنَّصْرِ وَالْكَوْنِ

پر جس کے ساتھ تو نے رسالت کو ختم کیا اور تائید فرمائی اس کی اپنی مدد سے اور کون

وَالشَّفَاعَةِ ۝ اللَّهُ وَصَلَ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ

اور شفاعت سے اے اللہ درود بھیج ہمارے آقا و مولا محمد پر

نَبِيِّ الْحُكْمِ وَالْحِكْمَةِ السَّرَاجِ الْوَهَّاجِ الْمَخْصُوصِ

جو حکم اور حکمت کے نبی ہیں جو روشن چراغ ہیں اور مخصوص کئے گئے ہیں

بِالْخَلْقِ الْعَظِيمِ وَخَتَمِ الرُّسُلِ ذِي الْمِعْرَاجِ وَ

خلق عظیم کے ساتھ نبیوں کے خاتم ہیں معراج والے ہیں اور

عَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَاتَّبَاعِهِ السَّالِكِينَ عَلَى

آپ کی آل پر اور اصحاب پر آپ کے پیروؤں پر جو چلنے والے ہیں آپ کے

مَنْهَجِهِ الْقَوِيمِ ۝ فَأَعْطِ اللَّهُمَّ بِهِ مِنْهَا جِ

سیدھے راستے پر اور معظم کر دے اے اللہ آپ کی برکت سے راستہ

بِحُجُومِ الْإِسْلَامِ وَمَصَابِيحِ الظُّلَمِ الْمُهْتَدَى بِهِمْ

اسلام کے ستاروں کا اور اندھیروں کے چراغوں کا جن سے ہدایت حاصل کی جاتی

فِي ظُلْمَةِ الشَّكِّ الدَّاجِرِ صَلَوةً دَائِمَةً مُسْتَمِرَّةً

ہے شک کی اندھیری رات کی تاریکی میں ایسا درود جو ہمیشہ رہنے والا پلے درپلے ہو

مَا تَلَا طَمَتْ فِي الْأَجْرِ الْمَوَاجِرُ وَطَافَ بِالْبَيْتِ

جب تک تلاطم نہیں سمندروں میں لہریں اور طواف کرتے رہیں کعبہ شریف

العِيقِ مِنْ كُلِّ فِجْ عَمِيقِ الْحَجَّاجِ وَأَفْضَلِ الصَّلَاةِ

کا ہر دور دراز گھائی سے آنے والے حاجی اور افضل ترین درود

وَالْتَسْلِيُو عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِهِ الْكَرِيمِ وَصَفْوَتِهِ

و سلام ہوں حضرت محمد پر جو اللہ کے رسول کریم ہیں اور اس کے

مِنَ الْعِبَادِ وَشَفِيعِ الْخَلَائِقِ فِي الْبُعَادِ صَاحِبِ

بندوں سے چھنے ہوئے ہیں اور ساری مخلوق کے شفیع ہیں قیامت کے دن اور صاحب

الْمَقَامِ الْمُحْمُودِ وَالْحَوْضِ لِمُورُودِ النَّاهِضِ بِأَعْبَاءِ

مقام محمود ہیں اور اُس حوض کے مالک ہیں جس پر سب لوگ آئیں گے جو اٹھانے والے ہیں

الرِّسَالَةِ وَالتَّبْلِيغِ الْأَعْمِ وَالْمَخْصُوصِ بِشَرَفِ

رسالت اور تبلیغ عام کے بارہائے گراں کو اور مخصوص ہیں اس کوشش کے

السَّعَايَةِ فِي الصَّلَاحِ الْأَعْظَمِ ۝ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ

شرف سے جس میں لوگوں کی بڑی بھلائی ہے درود بھیجے اللہ تعالیٰ آپ پر اور

عَلَى إِلَهٍ صَلَوةً دَائِمَةً مُسْتَمِرَّةً الدَّوَامِ عَلَى مَرِّ

آپ کی آل پر ایسا درود جو ہمیشہ ہو ہمیشہ جاری رہنے والا ہو راتوں اور

الْيَالِي وَالْأَيَّامِ ۝ فَهُوَ سَيِّدُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ

دنوں کے گزرنے پر پس آپ آقا ہیں اگلوں اور پچھلوں کے

وَأَفْضَلُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ ○ عَلَيْهِ أَفْضَلُ صَلَوةٍ

بزرگ ترین اگلوں اور کچھپوں کے آپ پر درود پڑھنے والوں کا

الْمُصَلِّينَ ○ وَأَزْكَى سَلَامِ الْمُسْلِمِينَ ○ وَأَطْيَبُ

افضل ترین درود ہو اور سلام ایچھے والوں کا پاکیزہ ترین سلام ہو اور ذکر کرنے والوں کا

ذِكْرُ الذَّاكِرِينَ ○ وَأَفْضَلُ صَلَوَاتِ اللَّهِ ○ وَأَحْسَنُ

نہایت پاک ذکر ہو اور اللہ تعالیٰ کے بزرگ ترین درود اور اللہ تعالیٰ کے

صَلَوَاتِ اللَّهِ ○ وَأَجَلُّ صَلَوَاتِ اللَّهِ ○ وَأَجْمَلُ

نہایت خوبصورت درود اور اللہ تعالیٰ کے جلیل الشان درود اور اللہ تعالیٰ کے

صَلَوَاتِ اللَّهِ ○ وَأَكْمَلُ صَلَوَاتِ اللَّهِ ○ وَأَسْبَغُ

نہایت زیبا درود اور اللہ تعالیٰ کے کامل ترین درود اور اللہ تعالیٰ کے

صَلَوَاتِ اللَّهِ ○ وَاتَّعَرُّ صَلَوَاتِ اللَّهِ ○ وَأَظْهَرُ

وسیع ترین درود اور اللہ تعالیٰ کے مکمل ترین درود اور اللہ تعالیٰ کے

صَلَوَاتِ اللَّهِ ○ وَأَعْظَمُ صَلَوَاتِ اللَّهِ ○ وَأَذْكَ

روشن ترین درود اور اللہ تعالیٰ کے عظیم المرتبت درود اور اللہ تعالیٰ کے

صَلَوَاتِ اللَّهِ ○ وَأَطْيَبُ صَلَوَاتِ اللَّهِ ○ وَأَبْرَكُ

روشن ترین درود اور اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ ترین درود اور اللہ تعالیٰ کے

صَلَوَاتِ اللَّهِ ۞ وَأَزْكَ صَلَوَاتِ اللَّهِ ۞ وَأَسْمَى

بڑے بابرکت دُرُود اور اللہ تعالیٰ کے بہ خطہ بڑھنے والے دُرُود اور اللہ تعالیٰ کے

صَلَوَاتِ اللَّهِ ۞ وَأَوْفَى صَلَوَاتِ اللَّهِ ۞ وَأَسْنَى

ہر آن پھلنے پھولنے والے دُرُود اور اللہ تعالیٰ کے مکمل ترین دُرُود اور اللہ تعالیٰ کے

صَلَوَاتِ اللَّهِ ۞ وَأَعْلَى صَلَوَاتِ اللَّهِ ۞ وَأَكْثَرُ

روشن تر دُرُود اور اللہ تعالیٰ کے بلند تر دُرُود اور اللہ تعالیٰ کے

صَلَوَاتِ اللَّهِ ۞ وَأَجْمَعُ صَلَوَاتِ اللَّهِ ۞ وَأَعْمَرُ

زیادہ تر دُرُود اور اللہ تعالیٰ کے جامع ترین دُرُود اور اللہ تعالیٰ کے

صَلَوَاتِ اللَّهِ ۞ وَأَدْوَمُ صَلَوَاتِ اللَّهِ ۞ وَأَبْقَى

کامل ترین دُرُود اور اللہ تعالیٰ کے ہمیشہ رہنے والے دُرُود اور اللہ تعالیٰ کے

صَلَوَاتِ اللَّهِ ۞ وَأَعَزُّ صَلَوَاتِ اللَّهِ ۞ وَأَرْفَعُ

باتی رہنے والے دُرُود اور اللہ تعالیٰ کے عزت والے دُرُود اور اللہ تعالیٰ کے

صَلَوَاتِ اللَّهِ ۞ وَأَعْظَمُ صَلَوَاتِ اللَّهِ ۞ عَلَى أَفْضَلِ

رفع الشان دُرُود اور اللہ تعالیٰ کے عظیم البرکت دُرُود ہوں اللہ تعالیٰ کی سب

خَلْقِ اللَّهِ ۞ وَأَحْسَنِ خَلْقِ اللَّهِ ۞ وَأَجَلِ خَلْقِ اللَّهِ ۞

مخلوق سے افضل پر اور اللہ تعالیٰ کی سب مخلوق سے خوبصورت پر اور اللہ تعالیٰ کی سب مخلوق پر

وَ اَكْرَمُ خَلْقِ اللّٰهِ ۝ وَ اَجْمَلِ خَلْقِ اللّٰهِ ۝ وَ اَكْمَلِ

اور اللہ تعالیٰ کی سب مخلوق سے سخی پر اور اللہ تعالیٰ کی سب مخلوق سے جمیل پر اور اللہ تعالیٰ کی سب

خَلْقِ اللّٰهِ ۝ وَ اَتَوْا خَلْقِ اللّٰهِ ۝ وَ اعْظَمِ خَلْقِ اللّٰهِ

مخلوق سے مکمل پر اور اللہ تعالیٰ کی سب مخلوق سے کامل پر اور اس پر جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں

عِنْدَ اللّٰهِ ۝ رَسُوْلِ اللّٰهِ ۝ نَبِيِّ اللّٰهِ ۝ وَ جَبِيْبِ اللّٰهِ

سب مخلوق سے عظیم الشان ہے جو اللہ کا رسول ہے اللہ کا نبی ہے اور اللہ کا حبیب ہے

وَ صَفِيِّ اللّٰهِ ۝ وَ نَجِيِّ اللّٰهِ ۝ وَ خَلِيْلِ اللّٰهِ ۝ وَ وَلِيِّ

اور اللہ کا برگزیدہ ہے اور اللہ کا راز دار ہے اور اللہ کا خلیل ہے اور اللہ کا

اللّٰهِ ۝ وَ اَمِيْنِ اللّٰهِ ۝ وَ خَيْرَةِ اللّٰهِ مِنْ خَلْقِ اللّٰهِ

ولی ہے اور اللہ کا امین ہے اور اللہ کا پسندیدہ ہے اُس کی ساری مخلوق سے

وَ نَحْبَةِ اللّٰهِ مِنْ بَرِيَّةِ اللّٰهِ ۝ وَ صَفْوَةِ اللّٰهِ مِنْ

اور اللہ کا چننا ہوا ہے اُس کی ساری خلق سے اور اللہ کا چننا ہوا ہے اُس کے

اَنْبِيَاءِ اللّٰهِ ۝ وَ عُرْوَةِ اللّٰهِ ۝ وَ عِصْمَةِ اللّٰهِ ۝

سارے نبیوں سے اور اللہ تعالیٰ کا حلقہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہے

وَ نِعْمَةِ اللّٰهِ ۝ وَ مِفْتَاحِ رَحْمَةِ اللّٰهِ ۝ الْمَخْتَارِ

اور اللہ کی نعمت ہے اور اللہ کی رحمت کے خزانوں کی کنبی ہے اللہ کے رسولوں سے

مَنْ رُسِلَ لِلَّهِ ۝ الْمُنْتَخَبِ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ الْفَائِزِ

پُنا گیا ہے اللہ کی ساری خدائی سے منتخب ہے پانے والا ہے

بِالْمُطَلَبِ فِي الْمَرْهَبِ وَالْمَرْغَبِ ۝ الْمُخْلِصِ فِي

اپنے مقصد کو خوف کی حالت میں اور اُمید کی حالت میں خالص کئے گئے اُس میں

مَا وَهَبَ ۝ أَكْرَمِ مَبْعُوثٍ ۝ أَصْدَقِ قَائِلٍ ۝

جو دی گئی ہر بھیجے ہوئے سے بزرگ تر ہیں ہر بولنے والے سے زیادہ سچے ہیں

أَنْجَحِ شَافِعٍ ۝ أَفْضَلِ مُشْفَعٍ ۝ الْإِمِينِ فِي مَا

بِشَفَاعَتِهِ كَرْنِے والے سے زیادہ کامیاب ہیں جلی شفاعت قبول کی گئی ہے ان میں سے افضل ہیں ارا میں

أَسْتَوْدِعُ الصَّادِقِ فِي مَا بَلَّغَ الصَّادِعِ بِأَمْرِ رَبِّهِ

میں ان ارا میں جو ان کے پاس امانت رکھے گئے ہیں اراپستے ہیں اس میں جو انہوں نے پہنچایا ہے ظاہر کرنے والے

الْمُضْطَلَعِ بِمَا حَمَلَ ۝ أَقْرَبِ رُسُلِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ

میں اپنے بے حکم کو قوت سے اٹھانے والے ہیں جو بوجھ اُن پر اٹھایا گیا اللہ کے تمام رسولوں سے بارگاہِ الہی میں زیادہ

وَسَيْلَةً ۝ وَأَعْظَمُهُمْ غَدًّا عِنْدَ اللَّهِ مَزِيلَةً ۝ وَفَضِيلَةً ۝

مقرب ہیں سب سے اور ان کا مرتبہ اور شان بڑی بلند ہوگی کل بارگاہِ الہی میں

وَأَكْرَمِ أَنْبِيَاءِ اللَّهِ الْكِرَامِ الصَّفْوَةِ عَلَى اللَّهِ ۝

اللہ کے تمام بزرگ نبیوں سے بزرگ تر ہیں جو اُس کے نزدیک چنے ہوئے ہیں

وَاجِبُهُ إِلَى اللَّهِ وَاقْرَبَهُمْ لِي لَدَى اللَّهِ ۝ وَكَرَّمُوا

اور ان سب سے محبوب ترین اللہ کے نزدیک اور ان کا مرتبہ اللہ کی جانب بہت نزدیک ہے۔ اللہ کی جناب

الْخَلْقِ عَلَى اللَّهِ ۝ وَأَحْطَاهُمْ وَأَرْضًا هُوَ لَدَى اللَّهِ ۝

میں سب مخلوق سے مکرم ہیں اور سب زیادہ مرتبے والے ہیں اور ان سب زیادہ اللہ سے راضی ہے

وَأَعْلَى النَّاسِ قَدْرًا ۝ وَأَعْظَمَهُمْ مَحَلًّا وَأَكْمَلَهُمْ

اور سب لوگوں سے آپ کی قدر اعلیٰ ہے اور آپ کا مرتبہ بڑا ہے اور خوبیوں اور

مَحَسِّنًا وَفَضْلًا وَأَفْضَلَ الْأَنْبِيَاءِ دَرَجَةً ۝ وَ

بزرگی کے لحاظ سے آپ ان سب کا مل ترین ہیں اور درجہ کے لحاظ سے آپ سب نبیوں سے افضل ہیں اور

أَكْمَلَهُمْ شَرِيعَةً وَأَشْرَفَ الْأَنْبِيَاءِ نَصَابًا وَأَبْنَاهُمْ

شریعت کے لحاظ سے آپ ان سب کا مل ترین اور منصب کے اعتبار سے سب نبیوں کے اشرف ہیں اور بیانیہ خطا

بَيَانًا وَخَطَابًا وَأَفْضَلَهُمْ مَوْلِدًا وَمُهَاجِرًا وَعِتْرَةً

کے لحاظ سے ان سب زیادہ فصیح ہیں اور جائے پیدائش کے اعتبار سے اور آل و اصحاب کے اعتبار سے ان سے

وَأَصْحَابًا وَأَكْرَمَ النَّاسِ أَرْوَمَةً وَأَشْرَفَهُمْ

افضل ہیں اور اصل کے لحاظ سے سب لوگوں سے عزیز ہیں اور نسل کے لحاظ سے سب سے اشرف ہیں

جُرْتُومَةً وَخَيْرِ هُوَ نَفْسًا وَأَطْهَرَهُمْ قَلْبًا وَأَصْدَقَهُمْ

آپ کا نفس سب سے بہتر، آپ کا دل سب سے پاک، آپ کا قول سب سے سچا،

قَوْلًا وَازْكُهُمْ فِعْلًا وَابْتِهَامًا صِلًا وَأَوْفَهُمْ

آپ کا فعل سب سے پاکیزہ اور آپ کی نسب سب مضبوط اپنے دعوے کو سب سے

عَمْدًا وَأَمْنَهُمْ فِجْدًا وَكَرِيمَهُمْ طَبْعًا وَأَحْسَنَهُمْ

زیادہ پورا کرنے والے اور بزدگی میں سب زیادہ بختہ اور طبیعت میں سب زیادہ کریم اور ان سب

صُنْعًا وَأَلْيَبَهُمْ فِرْعًا وَكَثْرَهُمْ طَاعَةَ وَسَمْعًا

سے زیادہ حسین اور اولاد کے لحاظ سے زیادہ پاکیزہ اور اطاعت و فرمان ماری کے لحاظ سے سب زیادہ بختہ

وَأَعْلَهُمْ مَقَامًا وَأَحْلَهُمْ كَلَامًا وَازْكَهُمْ سَلَامًا

بڑے اور ان کا مقام سب بلند اور ان کا کلام سب سے میٹھا اور ان کا سلام سب سے پاکیزہ

وَأَجْلَهُمْ قَدْرًا وَأَعْظَمَهُمْ فِخْرًا وَأَسْنَمَهُمْ فِجْرًا وَأَرْفَعَهُمْ

اور سب سے جلیل القدر اور فخر میں سب سے زیادہ بلند آپ کی صبح سب زیادہ روشن اور

فِي السَّلَاةِ الْأَعْلَى ذِكْرًا وَأَصْدَقَهُمْ وَعَدًّا وَكَثْرَهُمْ

ملا اعلیٰ میں آپ کا ذکر سب سے بلند اور اپنے عہد کو سب زیادہ پورا کرنے والے میں سب سے

شُكْرًا وَأَعْلَهُمْ أَمْرًا وَأَجْمَلَهُمْ صَبْرًا وَأَحْسَنَهُمْ

زیادہ ہے ان سب زیادہ شکر کرنے والے اور فرمان میں سب بلند اور صبر کرنے میں سب زیادہ عمدہ اور بھلائی میں

خَيْرًا وَأَقْرَبَهُمْ نُيْرًا وَأَبْعَدَهُمْ مَكَانًا وَأَعْظَمَهُمْ شَانًا

سب سے بہتر اور آسانی میں سب زیادہ قریب تر اور مرتبہ میں بلند تر اور شان میں بڑے اونچے

وَأَشْبَهُوْ بُرْهَانًا وَأَرْجَحَهُمْ مِّزَانًا وَأَوْلَهُمْ إِيْمَانًا

اور دلیل میں بڑے پختہ اور میزان میں جھکے ہوئے بڑے والے سب سے پہلے ایمان لانے والے

وَأَوْضَحَهُمْ بَيَانًا وَأَفْصَحَهُمْ لِسَانًا وَأَظْهَرَهُمْ

بیان میں سب سے واضح اور زبان میں سب سے فصیح اور بُرہان نبوت میں سب سے

سُلْطَانًا ○

زیادہ غالب

کسی نے حضرت ابراہیم احم رحمة اللہ علیہ سے کہا۔ اَوْصِنِي۔ قَالَ اتَّخِذِ اللّٰهَ

صَاحِبًا وَذَرِ النَّاسَ جَانِبًا۔

ترجمہ۔ مجھے وصیت فرمائیے۔ آپ نے کہا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست بنا لے۔ باقی

سب لوگوں کو نظر انداز کر دے۔

حضرت بشر حافی رحمة اللہ علیہ نے فرمایا۔ اِعْمَلْ فِي تَرْكِ التَّصْنِيعِ وَلَا تَعْمَلْ

فِي التَّصْنِيعِ۔

ترجمہ۔ تصنع اور بناوٹ کو ترک کرنے میں کوشش کر اور بناوٹ کے لئے کوشش

مت کر۔

الْقَبْرِ الْجَمِيْلِ هُوَ الَّذِي لَا شَكُوْى فِيْهِ اِلَى النَّاسِ۔ حضرت بشر نے

فرمایا۔ صبرِ جمیل یہ ہے کہ تو کسی تکلیف کا شکوہ لوگوں کے سامنے نہ کرے۔

الْحِزْبُ الرَّابِعُ فِي يَوْمِ الْخَمِيسِ

پونجھی منزل جو جمعہ کے روز پڑھی جاتی ہے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ

اے اللہ! درود بھیج ہمارے آقا محمد پر جو تیرے بندے اور تیرے رسول

النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ۝ اللَّهُمَّ

نبی اُمی ہیں اور آپ کی آل پر اے اللہ!

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

درود بھیج ہمارے آقا محمد پر اور ہمارے آقا محمد کی آل پر

صَلْوَةٌ تَكُونُ لَكَ رِضَىٰ وَوَلَهُ جِزَاءٌ وَوَلِحَقِّهِ

ایسا درود جو تیری رضا کا باعث ہو اور آپ کی جزا اور آپ کے حق کی

أَدَاءٌ ۖ وَأَعْطِهِ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالْمَقَامَ

ادائیگی کا اور عطا فرما آپ کو مقام و وسیلہ اور بزرگی اور مقام

الْمَحْمُودِ الَّذِي وَعَدْتَهُ ۖ وَأَجْرُهُ عَنَّا مَا هُوَ

محمود جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا اور جزا اے آپ کو ہماری طرف سے جس

أَهْلُهُ ۖ وَأَجْرُهُ أَفْضَلُ مَا جَارَيْتَ نَبِيًّا عَنِ قَوْمِهِ

کے آپ سے تمہیں ہیں اور جزا اے آپ کو افضل ترین جزا جو تو نے کسی نبی کو دی ہے اس کی قوم کی طرف سے

وَرَسُولًا عَنِ أُمَّتِهِ وَصَلَّ عَلَى جَمِيعِ إِخْوَانِهِ مِنْ

اور کسی رسول کو اُس کی اُمت کی طرف سے اور رحمت نازل فرما آپ کے تمام بھائیوں پر

النَّبِيِّينَ وَالصَّالِحِينَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ۝ اَللّٰهُمَّ

انبیاء سے اور صلحاء پر یا ارحم الراحمین اے اللہ!

اجْعَلْ فِضَائِلَ صَلَوَاتِكَ وَسَرَائِفَ زَكَوَاتِكَ

نازل فرما اپنے دُرودوں میں سے بزرگ ترین دُرود اور اپنے انعاموں میں سے شریف ترین

وَنَوَامِي بَرَكَاتِكَ وَعَوَاطِفَ رَأْفَتِكَ وَرَحْمَتِكَ

انعام اور ہر لحظہ بڑھنے والی برکتیں اور اپنے لطف ، اپنی رحمت

وَتَحِيَّتِكَ وَفَضَائِلَ الْأَيْكِ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور اپنے سلام کی خصوصی عنایتیں اور اپنی نعمتوں میں سے بہترین نعمتیں ہمارے سردار محمد پر

سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَرَسُولِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قَائِدِ

جو سامنے رسولوں کے آقا اور رب العالمین کے رسول ہیں بھلائیوں

الْخَيْرِ وَفَاتِحِ الْبُرُوقِ وَنَبِيِّ الرَّحْمَةِ وَسَيِّدِ الْأُمَّةِ ۝

کے رہنما اور نبی کا دروازہ کھولنے والے نبی رحمت اور اُمت کے سردار ہیں

اَللّٰهُمَّ اَبْعَثْهُ مَقَامًا قَدْ حُوِّدَ اَتْرَافُهُ بِقُرْبِهِ وَ

اے اللہ! مبعوث فرما آپ کو مقام محمود جس سے اور نزدیک کرے تو ان کے قرب کو

وَأَجْعَلْنَا مِنْ أَهْلِ شَفَاعَتِهِ ۝ وَأَحْشُرْنَا فِي

اُور داخل کرہوں ان لوگوں میں جن کی حضور شفاعت کو پس گے اُور حشر فرما ہمارا آپ کے

زَمْرَتِهِ ۝ وَأُورِدْنَا حَوْضَهُ ۝ وَأَسْقِنَا مِنْ كَأْسِهِ

گروہوں میں پہنچائے ہیں آپ کے حوض پر اُور سیراب کر دے ہیں آپ کے جام سے

غَيْرِ خَزَايَا وَلَا نَادِمِينَ وَلَا شَاكِينَ وَلَا مُبَدِّلِينَ وَ

دو آں حاکم ہم نہ رسوا ہوں نہ نادم ہوں اُور نہ کرہیں شک کرنے والوں، بدین تبدیل کرنے والوں اُور

لَا مُغَيِّرِينَ وَلَا فَاتِنِينَ وَلَا مَفْتُونِينَ أَمِينَ يَا

نہ تغیر دہنے والوں اُور نہ فتنہ ڈالنے والوں اُور نہ فتنہ میں مبتلا ہونے والوں میں سے آمین یا

رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

رَبِّ الْعَالَمِينَ اے اللہ دُرود بھیج ہمارے آقا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَأَعْطِهِ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ

اُور ہمارے آقا محمد کی آل پر اُور عطا فرما آپ کو وسیلہ ، بزرگی

وَالذَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي

اُور درجہ بلند اُور مبعوث فرما آپ کو مقام محمود پر جس کا تونے

وَعَدْتَهُ مَعَ إِخْوَانِهِ النَّبِيِّينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى

آپ سے وعدہ کیا ہے اُور آپ کے انبیاء بھائیوں پر بھی دُرود بھیج اُور دُرود نبی سے اللہ تعالیٰ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٌ نَبِيُّ الرَّحْمَةِ وَسَيِّدِ الْأُمَّةِ وَعَلَىٰ أَيْدِينَا

ہمارے آقا محمد پر جو نبی رحمت ہیں اور امت کے سردار ہیں اور ہمارے باپ

سَيِّدِنَا آدَمَ وَأَمِنَّا سَيِّدَتِنَا حَوَاءَ وَمَنْ وَوَلَدَا

آدم اور ہماری ماں جناب حوا پر اور جنہیں انہوں نے بنا

مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ

انبیاء اور صدیقین، شہداء اور صالحین سے

وَصَلِّ عَلَىٰ مَلَائِكَتِكَ أَجْمَعِينَ مِنْ أَهْلِ السَّمَوَاتِ

اور درود بھیج اپنے تمام فرشتوں پر جو آسمانوں میں رہتے ہیں

وَالْأَرْضِينَ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ۝ اللَّهُمَّ

اور زمینوں میں رہتے ہیں اور ہم پر بھی ان کے ساتھ یا ارحم الراحمین اے اللہ!

اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَلِوَالِدَيَّ وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي

بخش دے میرے لئے میرے گناہ اور بخش دے میرے ماں باپ کو اور رحم فرما ان دونوں پر جس طرح

صَغِيرًا أَوْ لَجَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ

انہوں نے مجھے پالا تھا جب کہ میں بچہ تھا اور بخش دے تمام مومنوں، مومن عورتوں، مسلمان مردوں

وَالْمُسْلِمَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ وَتَابِعْ بَيْنَنَا

اور مسلمان عورتوں کو جو زندہ ہیں اور جو وفات پا چکے ہیں اور ہمیں ان کی بھڑکی نصیب کر

وَبَيْنَهُمُ الْخَيْرَاتِ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ

نیکیوں میں آسے پروردگار ہم سب کو بخش دے اور رحم فرما اور تُو سب ہم کرنے والوں

الرَّاحِمِينَ ۝ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ

سے بہترین ہے ہمارے پاس گناہوں سے بچنے کی نہ طاقت نہ بھیگی کی قوت مگر اللہ کی مدد سے جو

الْعَظِيمِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نُورِ الْأَنْوَارِ

بلند نور بزرگ ہے اے اللہ! درود بھیج ہمارے آقا محمد پر جو تمام انوار کا منبع ہیں

وَسِرِّ الْأَسْرَارِ وَسَيِّدِ الْأَبْرَارِ وَزَيْنِ الْمُرْسَلِينَ الْاِخْيَارِ

اور تمام اسرار کا مخزن اور تمام نیکیوں کے سردار ہیں اور سب جلیل القدر رسولوں کی زینت ہیں

وَآكْرُمٍ مِّنْ أَظْلَمَ عَلَيْهِ الْيَلُّ وَأَشْرَقَ عَلَيْهِ النَّهَارُ

ان تمام سے افضل جن پر رات اپنی تاریکی کا دامن پھیلاتے اور دن ان پر ضیا پاشی کرے

عَدَدَ مَا نَزَلَ مِنْ أَوَّلِ الدُّنْيَا إِلَىٰ آخِرِهَا مِنْ قَطْرِ

بشماران بارش کے قطرؤں کے جو ابتداء دُنیا سے اس کی انتہا تک

الْأَمْطَارِ وَعَدَدَ مَا نَبَتَتْ مِنْ أَوَّلِ الدُّنْيَا إِلَىٰ آخِرِهَا

برسوں اور بشماران جڑی بوٹیوں اور درختوں کے جو دُنیا کی ابتداء سے اُس کی انتہا تک

مِنَ النَّبَاتِ وَالشَّجَارِ صَلَوةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ

اُنہیں ایسا درود جو اُس وقت تک ہمیشہ رہے جب تک اللہ واحد

اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور قہار کا معنی قائم ہے اے اللہ درود بھیج ہمارے آقا محمد پر

صَلٰوةً تُكْرَمُ بِهَا مَثْوَاهُ وَتُسْرَفُ بِهَا عَقْبُهُ وَتَبْلُغُ

ایسا درود جس سے توباعت کرتے آپ کی آرام گاہ کو اور توشرف فرمائے اس سے آپ کی عاقبت

بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنَاهُ وَرِضَاهُ ۝ هَذِهِ الصَّلٰوةُ تَعْظِيْمًا

کو اور پنچائے تو آپ کو اس قیامت کے ان آپ کی مراد اور آپ کی خوشنودی تک۔ یہ ہدیہ درود یا رسول اللہ!

لِحَقِّكَ يَا سَيِّدَنَا مُحَمَّدٌ ۝ ثَلَاثًا ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى

آپ کے حق کی تعظیم کے لئے ہے (تین مرتبہ کہے) اے اللہ! درود بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَاءِ الرَّحْمَةِ وَمِيْمِي الْمَلِكِ وَدَالِ

ہمارے آقا محمد پر جس کے نام پاک کی حکایت رحمت ہے جس کے نام کی میموں سے مراد ملک و دنیا و آخرت

الدَّوَامِ وَالسَّيِّدِ الْكَامِلِ الْفَاتِحِ الْخَاتِمِ عَدَدَ مَا فِي

ہے اور دال سے مراد ہمیشگی ہے جو تید ہے کامل ہے ہر در رحمت کو کھولنے والا ہے تمام نبیوں کا نام ہے

عَلَيْكَ كَاتِبٌ اَوْ قَدْ كَانَ كَلِمًا ذَكَرَكَ وَذَكَرَهُ

بشمال اس کے جو تیرے علم میں معنی ہے یا ہو چکا ہے ہر بار جب کہ یاد کریں تجھے اور ان کو

الذَّاكِرُونَ وَكَلِمًا غَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ وَذَكَرَهُ الْغَافِلُونَ ۝

ذکر کرنے والے اور ہر بار جب کہ غافل ہوں تیری یاد سے اور ان کی یاد سے غافل لوگ

صَلَاةٌ دَائِمَةٌ بَدَاؤِكَ بِبَقَائِكَ لَا مُنْتَهَى

ایسا درود جو ہمیشہ رب تیرے دوام کے ساتھ اور باقی رب تیری بقا کے ساتھ جس کی کوئی انتہاء نہ ہو

لَهَادُونَ عِلْمِكَ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ ثَلَاثًا ۝

تیرے علم کے بغیر بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے (تین مرتبہ پڑھے)

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِ

اے اللہ! درود بھیج ہمارے آقا محمد پر جو نبی امی ہیں اور ہمارے

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي هُوَ أَبِي شَمُوسٍ لَهْدِي

آقا محمد کی آل پر جو ہدایت کے آفتابوں میں سے حسین اور روشن ترین

نُورًا وَأَبْهَرَهَا ۝ وَأَسِيرُ الْأَنْبِيَاءِ فِخْرًا وَأَوْشَرَهَا ۝

آفتاب ہیں فخر اور شہرت کے لحاظ سے آپ کا ذکر محمد انبیاء سے زیادہ پھیلانے والا ہے

وَنُورَةٌ أَزْهَرُ أَنْوَارِ الْأَنْبِيَاءِ وَأَشْرَفُهَا وَأَوْضَحُهَا وَأَزْكَ

نور آپ کا نور تمام انبیاء کے انوار سے زیادہ تابندہ، بزرگ تر اور واضح تر ہے اور آپ

الْخَلِيقَةِ أَحْلَقًا وَأَطْهَرَهَا وَأَكْرَمُهَا خَلْقًا وَأَعَدْلَهَا ۝

اخلاق کے لحاظ سے سب مخلوق سے پاکیزہ اور اطہر ہیں اور حسنِ صورت کے لحاظ سے سب بزرگ اور

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِ

معتدل ہیں اے اللہ! درود بھیج ہمارے آقا محمد پر جو نبی امی ہیں اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي هُوَ أَبِي مِنَ الْقَمَرِ التَّامِّ وَ

آل پر جو چودھویں کے چاند سے زیبا تر ہیں اور

اَكْرَمٍ مِنَ السَّحَابِ الْمُرْسَلَةِ وَالْبَحْرِ الْخَضِيعِ ۝ اللَّهُمَّ

برسنے والے بادل اور بے کراں سمندر سے زیادہ سخی ہیں اے اللہ!

صَلِّ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الرَّافِقِيِّ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

دُرُودِ بَيْحِجِ بھارے آقا محمد پر جو نبی امی ہیں اور ہمارے آقا

مُحَمَّدٍ الَّذِي قُرِنَتْ الْبُرْكَاتُ بِذَاتِهِ وَحَيَاتِهِ وَتَعَطَّرَتْ

محمد کی آل پر جن کی ذات سے اور چہرہ انور سے برکت ملا دی گئی ہے اور معطر ہو گئے ہیں

الْعَوَالِمُ بِطَيْبِ ذِكْرِهِ وَرِيَاةٍ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ سَيِّدِنَا

سائے جہان آپ کے ذکر کی مہک اور خوشبو سے اے اللہ! دُرُودِ بَيْحِجِ بھارے آقا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَلِّمْ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ سَيِّدِنَا

محمد پر اور آپ کی آل پر اور سلام بیجج اے اللہ! دُرُودِ بَيْحِجِ بھارے آقا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا

محمد پر اور ہمارے آقا محمد کی آل پر اور برکتیں نازل فرما ہمارے آقا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَارْحَمْ سَيِّدِنَا مُحَمَّدًا

محمد پر اور آپ کی آل پر اور رحمت فرما ہمارے آقا محمد پر

کَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ وَتَرَحَّمْتَ عَلَيَّ سَيِّدَنَا اِبْرَاهِيمَ

جس طرح درود بھیجا تو نے، برکت تیری تو نے اور رحم فرمایا تو نے ہمارے سردار ابراہیم

وَعَلَى اِل سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيمَ اِنَّكَ حَمِيدٌ مُّبِجِدٌ ۝ اَللّٰهُمَّ

اور اُن کی آل پر بے شک تو حمید مجید ہے اے اللہ!

صَلِّ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَبَنِيكَ وَرَسُوْلِكَ

درود بھیج ہمارے آقا محمد پر جو تیرے بندے، تیرے نبی اور تیرے رسول ہیں

النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلَى اِل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ

جو نبی امی ہیں اور آپ کی آل پر اے اللہ! درود بھیج

عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اِل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مِنْ الدُّنْيَا

ہمارے آقا محمد پر اور ہمارے آقا محمد کی آل پر اتنی مقدار کہ بھرجائے اس

وَمِنْ الْاٰخِرَةِ ۝ وَبَارِكْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

سے دنیا اور بھرجائے اس سے آخرت اور برکت نازل فرما ہمارے آقا محمد پر اور آپ

اِل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مِنْ الدُّنْيَا وَمِنْ الْاٰخِرَةِ ۝ وَاَرْحَمِ

کی آل پر اتنی مقدار کہ بھرجائے اس سے دنیا اور بھرجائے اس سے آخرت اور رحم فرما

سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا وَاِل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مِنْ الدُّنْيَا وَاِل

ہمارے آقا محمد پر اور ہمارے آقا محمد کی آل پر اتنی مقدار کہ بھرجائے اس سے دنیا اور

مِنَ الْآخِرَةِ ۝ وَاجْرِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا وَال سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا

بھرجائے اس سے آخرت اور جزا عطا فرما ہمارے آقا محمد کو اور آپ کی آل کو اس قدر

مِنَ الدُّنْيَا وَمِنَ الْآخِرَةِ ۝ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کہ بھرجائے اس سے دنیا اور بھرجائے اس سے آخرت اور سلام بھیج ہمارے آقا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مِّنَ الدُّنْيَا وَمِنَ الْآخِرَةِ ۝

اور ہمارے آقا محمد کی آل پر اتنی مقدار کہ بھرجائے اس سے دنیا اور بھرجائے اس سے آخرت

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا أَمَرْتَنَا أَنْ نُصَلِّيَ

اے اللہ درود بھیج ہمارے آقا محمد پر جس طرح تو نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم آپ پر درود

عَلَيْهِ ۝ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا يَتَّبِعُنِي أَنْ نُصَلِّيَ

بھیجیں اور درود بھیج ہمارے آقا محمد پر جس طرح چاہیے کہ آپ پر درود

عَلَيْهِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى نَبِيِّكَ الْمُصْطَفَىٰ وَرَسُولِكَ

بھیجا جائے اے اللہ درود بھیج اپنے نبی پر جو چننا ہوا ہے اور اپنے رسول پر

الْمُرْتَضَىٰ وَوَلِيِّكَ الْمُجْتَبَىٰ وَأَمِينِكَ عَلَىٰ وَحْيِ السَّمَاءِ ۝

جو پسندیدہ ہے اور اپنے دوست پر جو برگزیدہ ہے اور جس کو تو نے وحی آسمانی کا امین بنایا ہے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَكْرَمِ الْأَسْلَافِ الْقَائِمِ

اے اللہ درود بھیج ہمارے آقا محمد پر جو سب گزشتہ نبیوں سے بزرگ ترین

بِالْعَدْلِ وَالْإِنصَافِ الْمُنْعَوْتِ فِي سُورَةِ الْأَعْرَافِ

جو عدل و انصاف کے ساتھ قائم ہیں جن کی تعریف سورہ اعراف میں کی گئی ہے

الْمُنْتَخِبِ مِنْ أَصْلَابِ الشَّرَافِ وَالْبَطُونِ الظَّرَافِ

جسے بزرگوں کی پشتوں سے چُنا گیا ہے اور پاکیزہ اور شفاف اور شکوں

الْمُصَفِّ مِنْ مَّصَاصِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ

سے جو خلاصہ ہیں خاندان عبدالمطلب بن عبد مناف کے

بِالَّذِي هَدَيْتَ بِهِ مِنَ الْخِلَافِ وَبَيَّنْتَ بِهِ سَبِيلَ

وہ جس کے ذریعہ ہدایت دی ہے تو نے اختلاف سے اور واضح کیا ہے تو نے جس سے

الْعَفَافِ ۝ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَفْضَلِ مَسْأَلَتِكَ

پاک امنی کا راستہ اے اللہ! میں سوال کرتا ہوں اس بزرگ ترین سوال کے وسیلے سے

وَبِأَحَبِّ أَسْمَائِكَ إِلَيْكَ وَأَكْرَمَهَا عَلَيْكَ وَبِمَا

جو تجھ سے کیا جاتا ہے تیرے ان اسماء کے وسیلے سے جو تجھے از حد محبوب ہیں اور تیرے نزدیک

مَنْذَتَ عَلَيْنَا بِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

بڑی عزت والے ہیں اور بوسیلہ اس کے کہ تو نے احسان فرمایا ہم پر اپنے محبوب محمد کو بھیج کر جو

وَسَلِّمْ فَاسْتَنْقِذْنَا بِهِ مِنَ الضَّلَلَةِ وَأَمِّرْنَا بِالصَّلَاةِ

ہم سے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور نکالنا تو نے ہمیں اس کے سبب گمراہی سے اور حکم دیا کہ ہم اپنے رب کو یاد رکھیں

عَلَيْهِ وَجَعَلَتْ صَلَاتِنَا عَلَيْهِ دَرَجَةً وَكَفَّارَةً وَطَفًّا

اور بنا دیا آپ پر ہمارے درود کو بلندی درجہ، کفارہ گناہ اور نطف

وَمَنْ أَقْرَبُكَ فَادْعُوكَ تَعْظِيمًا لِامْرِكِ وَاتِّبَاعًا

واحسان کا سبب اپنی بخششوں سے پس میں تیرے حکم کی تعظیم کرتے ہوئے (تجا کرتا ہوں اور

لَوْصِيَّتِكَ وَمُنْتَجِزًا لِمَوْعُودِكَ لِمَا يَجِبُ لِنَبِيِّنَا

تیری وصیت کی پیروی کرتے ہوئے اور تیرے وعدہ کے ایفا کی طلب کرتے ہوئے اس کے لئے جو ہمارے

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آدَاءِ حَقِّهِ

نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حق کی ادائیگی ہم پر لازم ہے

قَبْلَنَا إِذْ آمَنَّا بِهِ وَصَدَّقْنَاهُ وَاتَّبَعْنَا النُّورَ الَّذِي

کیونکہ ہم ایمان لاتے آپ کے ساتھ اور تصدیق کی آپ کی اور پیروی کی ہم نے اس نور کی جو آپ کے

أَنْزَلَ مَعَهُ وَقُلْتَ وَقَوْلِكَ الْحَقُّ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ

ساتھ نازل کیا اور تو نے فرمایا ہے اور تیرا فرمان حق ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے

يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ

درود بھیجتے ہیں بس نبی پر اے ایمان والو درود بھیجو آپ پر اور اوب دنیا سے

سَلِّمُوا وَسَلِّمًا ۝ وَأَمَرْتُ الْعِبَادَ بِالصَّلَاةِ عَلَى نَبِيِّهِمْ

سلام عرض کرو اور تو نے حکم دیا ہے بندوں کو کہ درود بھیجیں اپنے نبی پر

فَرِيضَةً اِفْتَرَضْتَهَا وَاَمَرْتَهُمْ بِهَا فَاسْتَسْأَلُكَ بِجَلَالِ

یہ ایسا فریضہ ہے جو تو نے فرض کیا ہے ان پر اور تو نے حکم دیا ہے انہیں اس کا پس ہم سوال کرتے ہیں تجھ سے

وَجُحْكَ وَنُورِ عَظَمَتِكَ وَبِمَا اَوْجَبْتَ عَلٰى نَفْسِكَ

اے اللہ تیری ذات کی بزرگی اور تیری عظمت کے نور اور محسین پر جو احسان تو نے اپنے نفس پر لازم

لِلْمُحْسِنِينَ اَنْ تُصَلِّيَ اَنْتَ وَمَلَائِكَتُكَ عَلٰى سَيِّدِنَا

کئے ہیں کہ تو بھی درود پڑھے اور تیرے فرشتے بھی ہمارے آقا

مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَبَنِيكَ وَصَفِيكَ خَيْرِيكَ

محمد پر جو تیرے بندے، تیرے رسول، تیرے نبی تیرے چنے ہوئے تیرے پسندیدہ ہیں

مِنْ خَلْقِكَ اَفْضَلُ مَا صَلَّيْتَ عَلٰى اَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ

تیری سب مخلوق سے ایسا درود جو افضل ہو ان درودوں سے جو تو نے اپنی مخلوق سے کسی پر بھیجا ہے

اِنَّكَ حَمِيدٌ مُّجِيدٌ ۝ اَللّٰهُمَّ اَرْفَعْ دَرَجَتَهُ وَاكْرِمْ

بے شک تو حمید مجید ہے اے اللہ! بلند کر دے آپ کے درجہ کو اور معزز کر دے

مَقَامَهُ وَثِقِلْ مِيزَانَهُ وَاَبْدِجْ مَجْدَتَهُ وَاظْهَرْ مِلَّتَهُ

آپ کے مقام کو اور وزنی بنا دے ان کے میزان عمل کو اور روشن کر دے آپ کی دلیل کو اور غالب کر دے آپ

وَاَجْزِلْ ثَوَابَهُ وَاَضْيُ نُورَهُ وَاَدِمْ كَرَامَتَهُ وَالْحَقُّ بِهَا

کی حق کو اور زیادہ کر دے آپ کے ثواب کو اور روشن کر دے آپ کے نور کو اور وہ انہیں آپ کی عزت کو اور ملا دے

مِنْ ذُرِّيَّتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ مَا تَقْرِبُهُ عَيْنُهُ وَعَظْمُهُ

آپ کے ساتھ آپ کی اولاد کو اور آپ کے اہل بیت کو جس سے ٹھنڈی ہو جائے حضور کی چشم پاک اور ہڈی

فِي النَّبِيِّينَ الَّذِينَ خَلَوْا قَبْلَهُ ۝ اللَّهُ جَعَلَ سَيِّدًا

کروے آپ کو نبیوں میں جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں اے اللہ بنا دے ہمارے آقا

مُحَمَّدًا أَكْثَرَ النَّبِيِّينَ تَبَعًا وَأَكْثَرَهُمْ وُزَرَءَ وَأَفْضَلَهُمْ

محمد کو کہ تمام نبیوں سے زیادہ آپ کے متبعین ہوں اور آپ کے زرارہ بکثرت ہوں اور کرامت و نور

كِرَامَةٍ وَنُورًا ۝ وَأَعْلَمَهُمْ دَرَجَةً ۝ وَأَفْسَحَهُمْ فِي

کے گناہ سے ان سب افضل ہوں اور آپ کا درجہ سب سے بلند ہو نور جنت میں آپ کی منزل سب

الْجَنَّةِ مَنَزِلًا ۝ اللَّهُ جَعَلَ فِي السَّابِقِينَ غَايَتَهُ وَ

سے وسیع ہو اے اللہ بنا دے ان میں جو تیری یاد میں بوقتے جانے والے ہیں

وَالْمُنْتَجِبِينَ مَنَزِلَةً ۝ وَفِي الْمُقَرَّبِينَ دَارَةً وَفِي

آپ کی غایت اور جو تیرے چنے چنے ہوئے میں ان میں آپ کی منزل اور مقربین میں آپ کا گھر اور برگزیدہ

الْمُصْطَفِينَ مَنَزِلَةً ۝ اللَّهُ جَعَلَهُ أَكْرَمَ

لوگوں میں آپ کی منزل اے اللہ آپ کا مرتبہ اپنی بارگاہ کے

الْأَكْرَمِينَ عِنْدَكَ مَنَزِلًا وَأَفْضَلَهُمْ ثَوَابًا وَأَقْرَبَهُمْ

تمام معززین سے معزز بنا دے اور ان سب سے آپ کا درجہ افضل کروے اور ان سب سے

فَجَلَسَا وَابْتُهِمُوا مَقَامًا وَاصْوَبَهُمْ كَلَامًا وَأَنْجَحَهُمْ

آپ کو اپنے قریب بٹھا اور ان سب مضبوط مقام آپ کو عطا فرمایا اور گفتگو کے زمانہ سے ان سب سچی گفتگو کرنے

مَسْئَلَةً وَأَفْضَلَهُمْ لَدَيْكَ نَصِيبًا وَأَعْظَمَهُمْ فِي مَا

والا بنا اور سوال کرنے میں ان سب ہامراؤ اور جس کے لحاظ سے تیری بانگاہ میں سب افضل اور جو کچھ تیرے

عِنْدَكَ رَغْبَةً وَأَنْزَلَهُ فِي غُرُفَاتِ الْفِرْدَوْسِ مِنْ

پس جان میں سب زیادہ رغبت کرنے والا اور آتا آپ کو فردوس میں کے عملات کے

الدرجات العلیٰ التي لا درجۃ فوقها ۝ اللَّهُ اجعل

اوپر نچے درجے میں جن سے اوپر اور کوئی درجہ نہیں ہے اے اللہ بنا دے آپ کو

سَيِّدًا نَامُحَمَّدًا أَصْدَقَ قَائِلٍ وَأَنْجَحَ سَائِلٍ وَأَوَّلَ

ہر بونے والے سے زیادہ سچا اور ہر مانگنے والے سے زیادہ ہامراؤ اور سب

شَافِعٍ وَأَفْضَلَ مُشْفَعٍ وَشَفَعَهُ فِي أُمَّتِهِ بِشَفَاعَتِهِ

پہلا شفاعت کرنے والا اور ان سب افضل جن کی شفاعت قبول کی جائے گی اور آپ کو شفیع بنا آپ کی امت کا

يَغِيْطُهَا بِهَا الْاَوَّلُونَ وَالْاٰخِرُونَ وَاِذَا مَيَّزْتَ عَبْدَكَ

ایسی شفاعت کے ساتھ کہ شک کرنے لگیں آپ کے ساتھ پیٹے بھی اور پھلے بھی اور جب تو انکے الگ کرے

بِفَضْلِ قَضَائِكَ فَاجْعَلْ سَيِّدًا نَامُحَمَّدًا فِي

اپنے بندوں کو اپنے حکم کے ساتھ پس کر دے ہمارے آقا محمد کو ان بندوں میں جو

الْأَصْدَقِينَ قِتِيلًا وَفِي الْحُسَيْنِ عَمَلًا وَفِي الْمُهْدِيِّينَ

جو قول کے لحاظ سے سب سے سچے ہیں اور عمل کے لحاظ سے سب سچے ہیں اور جو بیخ راہ پر

سَبِيلًا ۞ اللَّهُوَ اجْعَلْ نَيْتِنَا لِنَا فَرَطًا وَاجْعَلْ حَوْضَهُ

گامزن ہیں اے اللہ! بنائے ہماری نیت کو ہمارے لئے ہمارا پیشوا اور بنائے آپ کے حوض کو

لِنَا مَوْعِدًا لِوَلِنَا وَاجِرْنَا ۞ اللَّهُوَ احْشُرْنَا فِي زُمْرَتِهِ

ہمارے لئے وعدہ کی جگہ ہمارے پہلوں کے لئے اور گھیلوں کے لئے اے اللہ! ہمارا حشر فرما آپ کے گروہ میں

وَاسْتَعْمَلْنَا بِسُنَّتِهِ وَتَوَفَّقْنَا عَلَى مِلَّتِهِ وَعَرَفْنَا وَجْهَهُ

اور ہمیں آپ کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور آپ کی ملت پر ہماری وفات ہو اور آپ کے رخ انور کو

وَاجْعَلْنَا فِي زُمْرَتِهِ وَحِزْبِهِ ۞ اللَّهُوَ اجْمَعْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ

پہننے کی میں توفیق عطا فرما اور میں کر دے آپ کے گروہ اور آپ کی جماعت کے لئے اللہ! اکٹھا کر میں آپ کے ساتھ

كَمَا آمَنَّا بِهِ وَلَوْ نَرَاهُ وَلَا تَفَرِّقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ حَتَّى تَدْخُلْنَا

جس طرح ہم ایمان لائے آپ کے ساتھ حالاکہ ہم نے آپ کو دیکھا نہیں لیکن خدا کرنا ہمیں آپ سے یہاں تک کہ

مَدْخَلَهُ وَتَوَرَّدْنَا حَوْضَهُ وَتَجْعَلْنَا مِنْ رَفَقَاتِهِ مَعَ

داخل فرمائے تو میں آپ کے داخل ہونے کی جگہ میں اُردو کرے تو میں آپ کے حوض پر اور بنائے تو میں آپ کے

لِمَنْعُو عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

رُفَقَاتِهِ مِنْ بَرَاءَتِهَا كَمَا يَأْتِي فِي نَبِيِّنَ ، صَدِيقِينَ ، شَهِيدِينَ

وَالصَّالِحِينَ وَحَسَنَ أَوْلِيَّكَ رَفِيقًا ۝ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

اور صالحین سے اور یہ لوگ کتنے اچھے ساتھی ہیں سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے

رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

جو رب العالمین ہے

إِبْتِدَاءُ الرَّبِّعِ الثَّالِثِ

تیسری چوتھائی کا آغاز

اللَّهُ وَصَلَ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نُورِ الْهُدَى وَالْقَائِدِ

اے اللہ! درود بھیج ہمارے آقا محمد پر جو ہدایت کا نور ہیں اور بھلائی کے

إِلَى الْخَيْرِ وَالذَّاعِي إِلَى الرَّشْدِ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ وَإِمَامِ

راہنما ہیں اور راہِ راست کی طرف بلانے والے ہیں نبی رحمت ، متعین

الْمُتَّقِينَ وَرَسُولِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لِأَنِّي بَعْدَكَ كَمَا

کے امام اور رسول رب العالمین ہیں ان کے بعد کوئی نبی نہیں جس طرح

بَلَّغَ رِسَالَتِكَ وَنَصَحَ لِعِبَادِكَ وَتَلَا آيَاتِكَ وَأَقَامَ

پہنچایا آپ نے تیرے پیغام کو اور نیر خواہی کی تیرے بندوں کی اور تلاوت کی تیری آیتوں کی اور قائم کیا

حُدُودَكَ وَوَفَّى بِعَهْدِكَ وَأَنْفَذَ حُكْمَكَ وَأَمَرَ

تیری حدوں کو اور پورا کیا تیرے عہد کو نافذ کیا تیرے حکم کو اور حکم دیا

بَطَاعَتِكَ وَفِي عَنْ مَعْصِيَتِكَ وَوَالِي وَلِيَّتِكَ الَّذِي

تیری فرمانبرداری کا اور منع کیا تیری نافرمانی سے اور دوستی کی تیرے ایسے دوست سے

مُحِبُّ أَنْ تُوَالِيَهُ وَعَادِي عَدُوَّكَ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ

جس کو تو پسند کرتا ہے کہ اُس سے دوستی کی جائے اور دشمنی کی تیرے دشمن سے جس سے دشمنی کرنے

تُعَادِيَهُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ

کو تو پسند کرتا ہے جو رُوہ بھیجے اللہ تعالیٰ ہمارے آقا محمد پر اے اللہ! رُوہ بھیج

عَلَى جَسَدِهِ فِي الْجَسَادِ وَعَلَى رُوحِهِ فِي الْأَرْوَاحِ وَ

آپ کے جسدِ اطہر پر جسموں میں، آپ کی رُوہ مبارک پر تمام رُوہوں میں اور

عَلَى قَبْرِهِ فِي الْقُبُورِ وَعَلَى مَوْقِفِهِ فِي الْمَوَاقِفِ وَعَلَى

آپ کی مرقہ منورہ پر تمام قبروں میں اور آپ کے کھڑے ہونے کی جگہ پر تمام مواضع میں اور آپ کے

مَشْهَدِهِ فِي الْمَشَاهِدِ وَعَلَى ذِكْرِهِ إِذَا ذُكِرَ صَلَوةٌ

تشریح: ہونے کی جگہ پر تمام مشاہد میں اور آپ کے ذکر پر جب ہماری طرف سے اپنے نبی کریم

مِنَّا عَلَى نَبِيِّنَا ۝ اللَّهُمَّ أْبَلِّغْهُ مِنَّا السَّلَامَ كَمَا ذُكِرَ

پر رُوہ کا ذکر کیا جائے اے اللہ! پہنچائے آپ کی بارگاہ میں ہماری طرف سے سلام جب بھی

السَّلَامُ وَالسَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى وَبَرَكَاتُهُ ۝

سلام کا ذکر کیا جائے اور سلامتی جو نبی کریم پر اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں آپ پر

اللَّهُ وَصَلْ عَلَى مَلَائِكَتِكَ الْمُقَرَّبِينَ وَعَلَى ابْنِيَايِكَ

اے اللہ اپنے مقرب فرشتوں پر درود بھیج اور اپنے پاکیزہ

الْمُطَهَّرِينَ وَعَلَى رُسُلِكَ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى حَمَلَةِ

انبیاء پر اپنے بھیجے ہوئے رسولوں پر اور حاملین

عَرْشِكَ وَعَلَى سَيِّدِنَا جِبْرِئِيلَ وَسَيِّدِنَا مِيكَائِيلَ وَ

عرش پر اور سیدنا جبریل سیدنا میکائیل

سَيِّدِنَا اِسْرَافِيْلَ وَسَيِّدِنَا مَلِكِ الْمَوْتِ وَسَيِّدِنَا

سیدنا اسرائیل سیدنا ملک الموت سیدنا

رِضْوَانَ خَازِنِ جَنَّتِكَ وَسَيِّدِنَا مَالِكِ وَصَلْ عَلَى

رضوان جو جنت کے نگہبان ہیں اور سیدنا مالک جو دوزخ کے داروغہ ہیں ان سب پر

الْكِرَامِ الْكَاتِبِينَ وَصَلْ عَلَى اَهْلِ طَاعَتِكَ اَجْمَعِينَ

اور درود بھیج کر ان کاتبین پر اور درود بھیج اپنے تمام فرمانبرداروں پر

مِنْ اَهْلِ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِينَ ۝ اَللّٰهُمَّ اَهْلَ بَيْتِ

جو آسمانوں میں ہیں اور زمینوں میں اے اللہ عطا فرما اپنے نبی کریم کی اہل بیت

نَبِيِّكَ اَفْضَلَ مَا آتَيْتَ اَحَدًا مِنْ اَهْلِ بَيْتِ

کو افضل ترین ان نعمتوں سے جو تو نے بخشی ہیں کسی کو اپنے دوسرے پیغمبروں کے اہل بیت

الْمُرْسَلِينَ وَاجْرَاصْحَابِ نَبِيِّكَ اَفْضَلَ مَا جازَيْتَ

میں سے اور جزا دے اپنے نبی کریم کے صحابہ کو ان جزاؤں سے افضل جو دوسرے

اَحَدًا مِنْ اَصْحَابِ الْمُرْسَلِينَ ۝ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ

رسولوں کے اصحاب میں سے کسی کو تو نے دی ہے اے اللہ بخش دے مومن مردوں

وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْاَحْيَاءِ مِنْهُمْ

مومن عورتوں، مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو جو زندہ ہیں ان میں سے

وَالْاَمْوَاتِ ۝ وَاغْفِرْ لَنَا وَاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا

اور جو وفات پا چکے ہیں اور بخش دے ہم سب کو اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ہم سے پہلے

بِالْاِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَا

گزر چکے ہیں ایمان کے ساتھ اور نہ ڈال ہمارے دلوں میں کینہ مَن لوگوں کے لئے جو ایمان لائے

اِنَّكَ رَعُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَ النَّبِيِّ الْهَاشِمِيِّ

اے ہمارے پروردگار بے شک تو انہیں ہمیشہ رحم فرمائے اللہ ہے اے اللہ درود بھیج نبی ہاشمی پر

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ وَسَلِّمْ ۝ اَللّٰهُمَّ

جن کا نام نامی محمد ہے اور آپ کی آل اور اصحاب پر اور سلام بھیج اے اللہ!

صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ الْبَرِيَّةِ صَلَوةً تُرَضِّيْكَ

درود بھیج ہمارے آقا محمد پر جو سب مخلوق سے بہترین ایسا درود جو تجھے ہی خوش کرے

وَتَرْضِيهِ وَتَرْضَى بِهَا عَنَانًا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ۝ اللَّهُمَّ

اور آپ کو بھی خوش کر دے اور اس کی برکت سے تو ہم پر بھی راضی ہو جائے اے رحم الراحمین اے اللہ!

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا

دُرُودِ بَيْحِ ہمارے آقا محمد پر اور آپ کی آل اور اصحاب پر اور سلام بھیج ایسا سلام

كَثِيرًا طَيِّبًا مُبْرَكًا فِيهِ جَزِيلٌ جَمِيلٌ ۝ اِسْمًا بَدْوَامِ

جو کثیر ہو پاکیزہ ہو بابرکت ہو بہت عمدہ ، خوبصورت دائم رہنے والا ہو اللہ تعالیٰ کے

مُلْكِ اللَّهِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ

ملک کے دام کے ساتھ اے اللہ دُرُودِ بَيْحِ ہمارے آقا محمد پر اور آپ کی آل پر

مِلْءَ الْفَضَاءِ وَعَدَدِ النُّجُومِ فِي السَّمَاءِ صَلَوةً تَوَازُنُ

بمقدار اس کے کہ پُر ہو جائے ساری فضا اور بشمار آسمان کے ستاروں کے ایسا دُرُودِ بَيْحِ وزن ہو

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَدَدِ مَا خَلَقْتَ وَمَا أَنْتَ

آسمانوں اور زمین کے اہم تنی تعداد میں جتنی مخلوق تو نے پیدا کی ہے اور جو تو قیامت تک

خَالِقُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

پیدا فرمانے والا ہے اے اللہ دُرُودِ بَيْحِ ہمارے آقا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ

اور آپ کی آل پر جس طرح دُرُودِ بَيْحِما تو نے حضرت ابراہیم پر

وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور برکتیں نازل فرما ہمارے آقا محمد پر اور آپ کی آل پر

كَمَا بَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

جس طرح برکت نازل فرمائی تو نے ہمارے سردار ابراہیم پر اور آل ابراہیم

إِبْرَاهِيمَ وَالْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ ۝ اللَّهُ

پر جہانوں میں بے شک تو حمید مجید ہے اے اللہ!

إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدِّينِ وَالْدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

میں تجھ سے گناہوں کی معافی اور دین و دنیا میں سلامتی کی التجا کرتا ہوں

ثَلَاثًا ۝ اللَّهُمَّ اسْتُرْنَا بِسِتْرِكَ الْجَمِيلِ ۝ ثَلَاثًا ۝ اللَّهُ

(یہ دعائیں بارہم) اے اللہ! میں اپنے خوبصورت پردے سے ڈھانپ لے (یہ دعائیں بارہم) اے اللہ!

إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّكَ الْعَظِيمِ وَبِحَقِّ نُورِ وَجْهِكَ الْكَرِيمِ

میں سوال کرتا ہوں تجھ سے تیرے عظیم حق کا اور تیری کریم ذات کے نور کے حق کا

وَبِحَقِّ عَرْشِكَ الْعَظِيمِ وَبِحَاصِلِ كُرْسِيِّكَ مِنْ

اور تیرے عرش عظیم کے حق کا اور جو کچھ اٹھا رکھا ہے تیری کرسی نے

عَظَمَتِكَ وَجَلَالِكَ وَجَمَالِكَ وَبِهَائِكَ وَقُدْرَتِكَ

تیری عظمت، تیرے جلال، تیرے جمال، تیری بھگ دمک، تیری قدرت،

وَسُلْطَانِكَ وَبِحَقِّ أَسْمَائِكَ الْمَخْرُوجَةِ الْمَكُونَةِ الَّتِي

تیری سلطان سے اور تیرے اُن ناموں کے حق سے جو مخرُوجوں اور پوشیدہ ہیں جس پر

لَوْ يُطْلَعُ عَلَيْهَا أَحَدٌ مِّنْ خَلْقِكَ ۝ اللَّهُمَّ وَاسْأَلُكَ

کوئی تیری مخلوق سے آگاہ نہیں ہے اے اللہ! سو میں سوال کرتا ہوں

يَا اسِوَالِذِي وَضَعْتَهُ عَلَى الْيَلِّ فَاظْلَمَ وَعَلَى النَّهَارِ

تجھ سے اس ایم پاک کے ساتھ جس کو تو نے رات پر رکھا تو وہ تاریک ہو گئی اور دن پر رکھا

فَاسْتَنَارَ وَعَلَى السَّمَوَاتِ فَاسْتَقَلَّتْ ۝ وَعَلَى الْأَرْضِ

تو وہ روشن ہو گیا اور آسمانوں پر رکھا تو وہ بے ستون ٹھہر گئی اور زمین پر رکھا تو وہ

فَاسْتَقَرَّتْ وَعَلَى الْجِبَالِ فَارْسَتْ وَعَلَى الْبِحَارِ

قرار پکڑ گئی پہاڑوں پر رکھا تو وہ گڑ گئی سمندروں اور وادیوں

وَالْأودية فَجَرَتْ ۝ وَعَلَى الْعُيُونِ فَنَبَعَتْ ۝ وَعَلَى

پر رکھا تو وہ جاری ہو گئیں چشموں پر رکھا تو وہ ابل پڑے بادلوں

السَّحَابِ فَاْمْطَرَتْ ۝ وَاسْأَلُكَ اللَّهُمَّ بِالْأَسْمَاءِ

پر رکھا تو وہ برسے اے اللہ! اور سوال کرتا ہوں میں تجھ سے اے اللہ! ان جہانوں

الْمَكْتُوبَةِ فِي جَبْهَةِ سَيِّدِنَا إِسْرَافِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ

سے جو اسرائیل علیہ السلام کی پیشانی پر لکھے ہوئے ہیں

وَبِالْأَسْمَاءِ الْمَكْتُوبَةِ فِي جِبْهَةِ سَيِّدِ نَاجِرِيْلٍ عَلَيْهِ

اُور ان ناموں سے جو جبریل علیہ السلام کی پیشانی پر لکھے ہوئے

السَّلَامِ وَعَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ ۝ وَاسْأَلِكَ اللَّهُوَ

ہیں اور مقرب فرشتوں کی پیشانیوں پر رقم ہیں اور میں التجا کرتا ہوں تجھ سے اے اللہ!

بِالْأَسْمَاءِ الْمَكْتُوبَةِ حَوْلَ الْعَرْشِ وَبِالْأَسْمَاءِ الْمَكْتُوبَةِ

اُن مبارک ناموں سے جو عرش کے ارد گرد مکتوب ہیں اور میں سوال کرتا ہوں تجھ سے اے اللہ

حَوْلَ الْكُرْسِيِّ ۝ وَاسْأَلِكَ اللَّهُوَ بِالْأَسْمَاءِ الْمَكْتُوبِ

اُن ناموں سے جو کرسی کے ارد گرد لکھے ہوئے ہیں اور میں سوال کرتا ہوں تجھ سے اے اللہ اُن ناموں سے جو

عَلَى وَرَقِ الزَّيْتُونِ ۝ (وَاسْأَلِكَ اللَّهُوَ بِالْأَسْمَاءِ

زیتون کے پتوں پر تحریر ہیں اور سوال کرتا ہوں تجھ سے اے اللہ اُن بزرگ ناموں

الْعِظَامِ الَّتِي سَمَّيْتَ بِهَا نَفْسَكَ مَا عَلِمْتُ مِنْهَا

کے طفیل جن سے تو نے اپنی ذات کا نام رکھا وہ جنہیں میں جانتا ہوں

وَمَا لَمْ أَعْلَمْ) ۝

اور جنہیں میں نہیں جانتا

الْحَزْبُ الْخَامِسُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ

پانچویں منزل جو جمعہ کے روز پڑھی جاتی ہے

أَسْأَلُكَ اللَّهُ بِأَسْمَاءِ الْعِظَامِ الَّتِي سَمَّيْتَ بِهَا

سوال کرتا ہوں میں تجھ سے اے اللہ تیرے ان بزرگ اسماء کے طفیل جن سے تو نے اپنی

نَفْسِكَ مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمْهُ وَأَسْأَلُكَ

ذات کا نام رکھا وہ جنہیں میں جانتا ہوں اور وہ جنہیں میں نہیں جانتا سوال کرتا ہوں میں

اللَّهُ بِأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُ نَا أَدَمَ عَلَيْهِ

تجھ سے اے اللہ تیرے ان اسماء کے وسیلہ سے جن سے تجھے آدم علیہ السلام نے

السَّلَامُ وَبِأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُ نَا نُوحَ

پکارا اور ان ناموں کے وسیلہ سے جن سے تجھے نوح علیہ السلام

عَلَيْهِ السَّلَامُ وَبِأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُ نَا

نے پکارا ان ناموں کے وسیلہ سے جن سے تجھے

هُودَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَبِأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُ نَا

ہود علیہ السلام نے پکارا ان ناموں کے وسیلہ سے تجھے

إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَبِأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا

ابراہیم علیہ السلام نے پکارا ان ناموں کے وسیلہ سے جن سے تجھے

سَيِّدُ نَاصِحٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ۝ وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ

صالح علیہ السلام نے پکارا اور اُن ناموں کے وسیلہ سے جن سے

بِهَاسَيْدُ نَايُوسُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ۝ وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ

تجھے یونس علیہ السلام نے پکارا اور اُن ناموں کے وسیلہ سے جن

بِهَاسَيْدُ نَايُوبُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ۝ وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي

سے تجھے ایوب علیہ السلام نے پکارا اور ان ناموں کے وسیلہ سے

دَعَاكَ بِهَاسَيْدُ نَايَعْقُوبُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ۝ وَبِالْأَسْمَاءِ

جن سے تجھے یعقوب علیہ السلام نے پکارا اور اُن ناموں

الَّتِي دَعَاكَ بِهَاسَيْدُ نَايُوسُفُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ۝

کے وسیلہ سے جن سے تجھے یوسف علیہ السلام نے پکارا

وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَاسَيْدُ نَامُوسَى عَلَيْهِ

اور اُن ناموں کے وسیلہ سے جن سے تجھے موسیٰ علیہ السلام

السَّلَامُ ۝ وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَاسَيْدُ نَاهَارُونَ

نے پکارا اور اُن ناموں کے وسیلہ سے جن سے تجھے ہارون

عَلَيْهِ السَّلَامُ ۝ وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَاسَيْدُ نَا

علیہ السلام نے پکارا اور ان ناموں کے وسیلہ سے جن سے تجھے

شُعَيْبٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا

شعیب علیہ السلام نے پکارا اور اُن ناموں کے وسیلہ سے جن سے

سَيِّدُ نَاسِ سَمِيعٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي

تجھے اسمعیل علیہ السلام نے پکارا اور اُن ناموں کے وسیلہ

دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُ نَادَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَبِالْأَسْمَاءِ

سے جن سے تجھے داؤد علیہ السلام نے پکارا اور اُن اسماء کے

الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُ نَاسِ يَمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ

وسیلہ سے جن سے تجھے سلیمان علیہ السلام نے پکارا

وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُ نَاذِرِيَا عَلَيْهِ السَّلَامُ

اور اُن ناموں کے وسیلہ سے جن سے تجھے زکریا علیہ السلام نے پکارا

وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُ نَايْحِي عَلَيْهِ السَّلَامُ

اور اُن ناموں کے وسیلہ سے جن سے تجھے یحییٰ علیہ السلام نے پکارا

وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُ نَاارَمِيَاءَ عَلَيْهِ السَّلَامُ

اور اُن ناموں کے وسیلہ سے جن سے تجھے ارمیاء علیہ السلام نے پکارا

وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُ نَاشَعِيَاءَ عَلَيْهِ السَّلَامُ

اور اُن ناموں کے وسیلہ سے جن سے تجھے شعیاء علیہ السلام نے پکارا

وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُ نَايَاسٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ

اور اُن ناموں کے وسیلہ سے جن سے تجھے ایاس علیہ السلام نے پکارا

وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُ نَايَسَعٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ

اور اُن ناموں کے وسیلہ سے جن سے تجھے ایسع علیہ السلام نے پکارا

وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُ نَاذُو الْكِفْلِ عَلَيْهِ السَّلَامُ

اور اُن ناموں کے وسیلہ سے جن سے تجھے ذوا کفیل علیہ السلام نے پکارا

وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُ نَايُوشَعٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ

اور اُن ناموں کے وسیلہ سے جن سے تجھے یوشع علیہ السلام نے پکارا

وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُ نَاعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ

اور اُن ناموں کے وسیلہ سے جن سے تجھے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام

السَّلَامُ وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُ نَا مُحَمَّدٍ

نے پکارا اور ان ناموں کے وسیلہ سے جن سے تجھے ہمارے آقا و مولا محمد

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى جَمِيعِ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وعلی جمیع النبیین والمرسلین نے پکارا

أَنْ تَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِبَيْتِكَ عَدَا مَا خَلَقْتَهُ مِنْ

ہمیں کرتے ہیں کہ وہ بیعت ہمارے آقا محمدؐ سے نبیوں میں ہمارے عزیزوں کے جو تو نے پیدا کیے اس سے

قَبْلَ أَنْ تَكُونَ السَّمَاءُ مَبْنِيَّةً وَالْأَرْضُ مَدْحِيَّةً

پہلے کہ آسمان بنایا گیا اور زمین پہچانی گئی

وَالْجِبَالُ مُرْسَاةٌ وَالْبِحَارُ مُجْرَاةٌ وَالْعُيُونُ مُنْفَجْرَةٌ

اور پہاڑ گاڑے گئے اور دریا رواں ہوئے اور چشمے اُبنے لگے

وَالنَّهَارُ مُنْهَرَةٌ وَالشَّمْسُ مُضْحِيَّةٌ وَالْقَمَرُ مُضِيئًا

اور نندیاں بننے لگیں اور سورج پھکنے لگا اور چاند روشن ہوا

وَاللَّوَاكِبُ مُسْتَنِيرَةٌ كُنْتَ حَيْثُ كُنْتَ لَا يَعْلَمُ أَحَدٌ

اور سارے جگہگانے لگے تو تھا جہاں کہ تو تھا کوئی نہیں جانتا

حَيْثُ كُنْتَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ ۝

کہ تو کہاں تھا سوائے تیرے تو کیسا ہے تیرا کوئی شریک نہیں

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدِ حَلِيمِكَ ۝ وَصَلِّ

اے اللہ! درود بھیج ہمارے آقا محمد پر بشمار اپنے رحیم کے اور درود بھیج

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدِ عَلِيمِكَ ۝ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

ہمارے آقا محمد پر بشمار اپنے علم کے اور درود بھیج ہمارے آقا

مُحَمَّدٍ عَدَدِ كَلِمَاتِكَ ۝ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

محمد پر بشمار اپنے کلمات کے اور درود بھیج ہمارے آقا محمد پر

عَدَدُ نِعْمَتِكَ ۝ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مِّنْ سَمَوَاتِكَ

بشمار اپنی نعمتوں کے اور دُرُودِ بَیْحِ ہمارے آقا محمد پر اس قدر کہ بھر جائیں تیرے آسمان

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مِّنْ أَرْضِكَ ۝ وَصَلِّ عَلَيَّ

اور دُرُودِ بَیْحِ ہمارے آقا محمد پر اس قدر کہ بھر جائے تیری زمین اور دُرُودِ بَیْحِ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مِّنْ عَرْشِكَ ۝ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ہمارے آقا محمد پر اس قدر کہ بھر جائے تیرا عرش اور دُرُودِ بَیْحِ ہمارے آقا محمد پر

زِنَةَ عَرْشِكَ ۝ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا جَرَى

اپنے عرش کی وزن کے برابر اور دُرُودِ بَیْحِ ہمارے آقا محمد پر بشمار اس کے کہ چلا تیرا

بِهِ الْقَلَمُ فِي أَمْرِ الْكُتَابِ ۝ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

قلم لوح محفوظ میں اور دُرُودِ بَیْحِ ہمارے آقا محمد پر

عَدَدَ مَا خَلَقْتَ فِي سَبْعِ سَمَوَاتِكَ ۝ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

بشمار اس کے کہ تو نے پیدا فرمایا اپنے سات آسمانوں میں اور دُرُودِ بَیْحِ ہمارے آقا

مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا أَنْتَ خَالِقٌ فِيهِنَّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي

محمد پر بشمار اس کے کہ تو پیدا فرمانے والا ہے انہیں روزِ قیامت تک ان میں ہر

كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

دن میں ہزار ہزار بار اے اللہ دُرُودِ بَیْحِ ہمارے آقا محمد پر

عَدَّ كُلَّ قَطْرَةٍ قَطْرَتٌ مِنْ سَمَوَاتِكَ إِلَى أَرْضِكَ مِنْ

بشمار ہر قطرہ کے جو ٹپکا تیرے آسمانوں سے تیری زمین پر جس

يَوْمٍ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ

دن سے تو نے دنیا کو پیدا کیا قیامت کے روز تک ہر دن میں ہزار

مَرَّةٍ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ

ہزار بار اے اللہ! درود بھیج ہمارے آقا محمد پر بشمار اس کے جو

يَسْبُحُكَ وَيُهَلِّدُكَ وَيُكَبِّرُكَ وَيُعْظِمُكَ مِنْ يَوْمٍ

تسبیح کرتے ہیں تیری، تہلیل کرتے ہیں تیری، بڑائی بیان کرتے ہیں تعظیم بجالاتے ہیں تیری اس روز

خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ ۝

سے جب کہ تو نے دنیا کو پیدا کیا قیامت کے دن تک ہر دن میں ہزار ہزار مرتبہ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ أَنْفَاسِهِمْ وَ

اے اللہ! درود بھیج ہمارے آقا محمد پر بشمار ان کے سانوں کے اور

الْفَاظِهِمْ ۝ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ كُلِّ نَسَمَةٍ

ان کے الفاظ کے اور درود بھیج ہمارے آقا محمد پر بشمار ہر روح کے

خَلَقْتَهَا فِيهِمْ مِنْ يَوْمٍ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

جسے تو نے پیدا فرمایا ان میں اس روز سے جب تو نے دنیا کو پیدا کیا قیامت کے دن تک

فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ ۝ اللَّهُ وَصَلَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ہر دن میں ہزار ہزار بار اے اللہ درود بھیج ہمارے آقا محمد پر

عَدَدِ السَّحَابِ الْجَارِيَةِ وَصَلَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ

بشمار پلنے والے بادلوں کے اور درود بھیج ہمارے آقا محمد پر بشمار

الرِّيحِ الذَّارِيَةِ مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

پلنے والی ہواؤں کے اُس دن سے جب دُنیا کو تو نے پیدا کیا قیامت کے دن تک

فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ ۝ اللَّهُ وَصَلَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ہر دن میں ہزار ہزار بار اے اللہ درود بھیج ہمارے آقا محمد پر

عَدَدَ مَا هَبَّتْ عَلَيْهِ الرِّيحُ وَحَرَكَتُهُ مِنَ الْأَعْصَابِ

بشمار اُن کے جن پر ہوائیں پھتی ہیں اور نہیں حرکت دیتی ہیں ہنسیوں ،

وَالْأَشْجَارِ وَالْأَوْزَاقِ وَالشَّمَارِ وَجَمِيعِ مَا خَلَقْتَ عَلَى

درختوں ، پتوں اور پھلوں کو اور بشمار ہر اُس چیز کے جو پیدا کی ہے تو

أَرْضِكَ وَبَيْنَ سَمَوَاتِكَ مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى

سے پہلے زمین پر اور اپنے آسمانوں کے درمیان اُس روز سے کہ پیدا کیا تو نے دُنیا کو یوم

يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ ۝ اللَّهُ وَصَلَ عَلَى

قیامت تک ہر دن میں ہزار ہزار بار اے اللہ درود بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ نَجْوَمِ السَّمَاءِ مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا

ہمارے آقا محمد پر آسمان کے ستاروں کی تعداد کے مطابق اُس دن سے جب تو نے دنیا کو پیدا کیا

إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

روزِ قیامت تک ہر دن میں ہزار ہزار بار اے اللہ! درود بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مِنْ أَرْضِكَ مِمَّا حَمَلَتْ وَأَقَلَّتْ مِنْ

ہمارے آقا محمد پر اس قدر کہ بھر جائے تیری زمین اُن چیزوں سے کہ برداشت کیا ہوا ہے اور اٹھایا

قُدْرَتِكَ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا

تو جتنی تیری قدرت سے اے اللہ! درود بھیج ہمارے آقا محمد پر بشار اس کے

خَلَقْتَ فِي سَبْعِ بَحَارِكَ فَمَا لَا يَعْلَمُ عِلْمَةً إِلَّا أَنْتَ وَمَا أَنْتَ

کو پیدا فرمایا ہے تو نے اپنے سات سمندروں میں اُن چیزوں میں سے کہ نہیں جانتا اُسے کوئی تیرے سوا

خَالِقُهُ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ ۝

اور مقدار اس کے کہ تو پیدا فرمانے والی ہے اُسے قیامت کے روز تک ہر دن میں ہزار ہزار مرتبہ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا سَبَّحَ بِحَارِكَ ۝

اے اللہ! درود بھیج ہمارے آقا محمد پر بشار اس کے کہ بھر جائیں تیرے سات سمندر

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ زِينَةَ سَبَّحَ بِحَارِكَ مِمَّا حَمَلَتْ

اور درود بھیج ہمارے آقا محمد پر اپنے سات سمندروں کے زین کے مطابق جس کو اُنہوں نے اٹھایا ہوا ہے

وَأَقَلَّتْ مِنْ قُدْرَتِكَ ۝ اللَّهُمَّ وَصِلْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

تیری قدرت سے اے اللہ درود بھیج ہمارے آقا محمد پر

عَدَدَ أَمْوَاجِ بَحَارِكِ مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ

اپنے سمندروں کی موجوں کی تعداد کے مطابق اُس دن سے جب تو نے دنیا کو پیدا کیا قیامت کے دن

الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ ۝ اللَّهُمَّ وَصِلْ عَلَى سَيِّدِنَا

تک ہر روز ہزار ہزار بار اے اللہ درود بھیج ہمارے آقا

مُحَمَّدٍ عَدَدَ الرَّمْلِ وَالْحَصَى فِي مُسْتَقَرِّ الْأَرْضِينَ

محمد پر ریت کے ذروں اور نکلروں کی تعداد کے مطابق جو زمینوں کی تعداد گاہ،

وَسَهْلِهَا وَجِبَالِهَا مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ

ہمواریدانوں اور پہاڑوں میں ہیں اُس روز سے جب سے تو نے دنیا کو پیدا کیا روز

الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ ۝ اللَّهُمَّ وَصِلْ عَلَى سَيِّدِنَا

قیامت تک ہر دن میں ہزار ہزار بار اے اللہ درود بھیج ہمارے آقا

مُحَمَّدٍ عَدَدَ اضْطِرَابِ الْمِيَاهِ الْعَذْبَةِ وَالْمِلْحَةِ مِنْ

محمد پر بشار موجزن ہونے میں پانی کے اور نمکین پانی کے

يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ ۝

عجیب دنیا کے روز سے لے کر قیامت تک ہر دن میں ہزار ہزار بار

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا خَلَقْتَهُ عَلَى جَدِيدٍ

اور درود بھیج ہمارے آقا محمد پر بشار اس کے کہ پیدا فرمایا ہے تو نے اسے رُوئے

الْأَرْضِ فِي مُسْتَقَرِّ الْأَرْضَيْنِ شَرْقَهَا وَغَرْبَهَا وَسَهْلَهَا

زمین پر زمینوں کی قرار گاہوں میں اُن کے مشرق میں اُن کے مغرب میں، ہمواریوں

وَجِبَالِهَا وَأُودِيَّتِهَا وَطَرِيقِهَا وَعَامِرِهَا وَغَامِرِهَا

میں اور پہاڑوں میں اور وادیوں اور راستوں میں، اور آبادیوں میں اور دیرانوں میں

إِلَى سَائِرِ مَا خَلَقْتَهُ عَلَيْهَا وَمَا فِيهَا مِنْ حَصَاةٍ وَقَدَرٍ

تمام وہ چیزیں جو تو نے اس پر پیدا کی ہیں اور جو اس میں پیدا کی ہیں کنکریاں، ڈھیلے،

وَحَجَرٍ مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي

پتھر روزِ تخلیق دُنیا سے یومِ قیامت تک ہر

كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

دن میں ہزار ہزار مرتبہ اے اللہ! درود بھیج ہمارے آقا محمد پر

النَّبِيِّ عَدَدَ نَبَاتِ الْأَرْضِ مِنْ قِبَلَتِهَا وَشَرْقَهَا وَغَرْبَهَا

جو نبی ہیں بشار اُس نباتات کے جو زمین کے سمت قبلہ میں ہے اور مشرق میں ہے اور مغرب

وَسَهْلَهَا وَجِبَالِهَا وَأُودِيَّتِهَا وَأَشْجَارِهَا وَثَمَارِهَا وَأُورَاقِهَا

میں ہے ہمواریوں، پہاڑوں اور وادیوں میں ہے ان کے رخت، ان کے پھل، ان کے پتے

وَزُدُّوْهَا وَجَمِيعِ مَا يَخْرُجُ مِنْ نَبَاتِهَا وَبَرَكَاتِهَا مِنْ

اُن کی کھیتیاں اور تمام وہ چیزیں جو نکلتی ہیں از جسم نباتات اور برکات

یَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا اِلَى یَوْمِ الْقِيَمَةِ فِي كُلِّ یَوْمٍ اَلْفَ

روزہ تحقیق دُنیا سے یومِ قیامت تک ہر دن میں ہزار

مَرَّةً ۝ اَللّٰهُمَّ وَصِّلْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ

ہزار بار اے اللہ درود بھیج ہمارے آقا محمد پر بشمار اس کے کہ پیدا فرمایا

مِنَ الْجَنِّ وَالْاِنْسِ وَالشَّيَاطِيْنِ وَمَا اَنْتَ خَالِقُهُ

ہے تو نے جنوں ، انسانوں اور شیطانوں سے اور جن کو تو اُن میں سے قیامت تک

مِنْهُمْ اِلَى یَوْمِ الْقِيَمَةِ فِي كُلِّ یَوْمٍ اَلْفَ مَرَّةً ۝ اَللّٰهُمَّ

پیدا فرمانے والا ہے ہر دن میں ہزار ہزار بار اے اللہ!

وَصِّلْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ كُلِّ شَعْرَةٍ فِي

درود بھیج ہمارے آقا محمد پر بشمار ہر بال کے جو اُن کے

اَبْدَانِهِمْ وَفِي وُجُوْهِهِمْ وَعَلٰی رُءُوْسِهِمْ قَدْ خَلَقْتَ

بدنوں اور اُن کے چہروں اور اُن کے سروں پر ہے تحقیق دُنیا کے

الدُّنْيَا اِلَى یَوْمِ الْقِيَمَةِ فِي كُلِّ یَوْمٍ اَلْفَ مَرَّةً ۝ اَللّٰهُمَّ

دن سے قیامت کے دن تک ہر دن میں ہزار ہزار بار اے اللہ!

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ خَفَقَانِ الطَّيْرِ وَطَيْرَانِ

دُرُودِ صَبِيحِ ہمارے آقا محمد پر ہشمار پرندوں کے پر ہلانے جنوں اور

الْجِنِّ وَالشَّيَاطِينِ مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

شیطانوں کے اڑنے کے تخلیق دُنیا کے دن سے روزِ قیامت تک

فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ ۝ اللَّهُ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ہر دن میں ہزار ہزار بار اے اللہ دُرُودِ صَبِيحِ ہمارے آقا محمد پر

عَدَدَ كُلِّ بَيْهَمَةٍ خَلَقْتَهَا عَلَى جَدِيدِ أَرْضِكَ مِنْ

ہشمار گل چوپایوں کے جنہیں تو نے پیدا کیا رُوئے زمین پر

صَغِيرًا وَكَبِيرًا فِي مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا مِنْ

چھوٹے ہوں یا بڑے زمین کے مشرقوں میں یا مغربوں میں

أَنْسَاهَا وَجَنَّتْهَا وَمِمَّا لَا يَعْلَمُ عِلْمُهُ إِلَّا أَنْتَ مِنْ يَوْمِ

انسانوں سے اور جنوں سے جن کا علم کسی کو نہیں سوائے تیرے تخلیق دُنیا

خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ ۝

کے دن سے روزِ قیامت تک ہر دن میں ہزار ہزار بار

اللَّهُ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ خَطَاهُ عَلَى وَجْهِهِ

اے اللہ دُرُودِ صَبِيحِ ہمارے آقا محمد پر ہشمار ان کے قدموں کے جو رُوئے

الْأَرْضِ مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي

زمین پر پڑے عقیق دُنیا سے قیامت کے دن تک ہر

كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ ۝ اللَّهُمَّ وَصِّلْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

روز ہزار ہزار بار اے اللہ درود بھیج ہمارے آقا محمد پر

عَدَدَ مَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ ۝ وَصِّلْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ

بشاران کے جو آپ پر درود بھیجتے ہیں اور درود بھیج ہمارے آقا محمد پر بشار

مَنْ لَوْ يُصَلِّي عَلَيْهِ ۝ وَصِّلْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ

ان کے جو درود نہیں بھیجتے آپ پر اے اللہ! درود بھیج ہمارے آقا محمد پر بشار

الْقَطْرِ وَالْمَطَرِ وَالنَّبَاتِ ۝ وَصِّلْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

پانی کے قطروں، بارش اور جڑی بوٹیوں کے اور درود بھیج ہمارے آقا محمد پر

عَدَدَ كُلِّ شَيْءٍ ۝ اللَّهُمَّ وَصِّلْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کائنات کی ہر چیز کے عدد کے مطابق اے اللہ! درود بھیج ہمارے آقا محمد پر

فِي الْيَلِّ إِذَا يَغْشَى ۝ وَصِّلْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي

رات میں جب وہ چھا جائے اور درود بھیج ہمارے آقا محمد پر دن

النَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى ۝ وَصِّلْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي الْآخِرَةِ

میں جب وہ روشن ہو جائے اور درود بھیج ہمارے آقا محمد پر آخرت میں

وَالأُولَى ۝ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ شَاتَا زَكِيًّا ۝

اور دنیا میں اور درود بھیج ہمارے آقا محمد پر جب کہ آپ پاکباز جوان تھے

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَهْلًا مَرَضِيًّا ۝ وَصَلِّ عَلَى

اور درود بھیج ہمارے آقا محمد پر جب کہ آپ خوش فصال میانہ سال تھے اور درود بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مُنْذُ كَانَ فِي الْمُهْدِ صَبِيًّا ۝ وَصَلِّ عَلَى

ہمارے آقا محمد پر جب کہ آپ گھوڑے میں طفل معصوم تھے اور درود بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنَ الصَّلَاةِ شَيْءٌ ۝ اللَّهُمَّ

ہمارے آقا محمد پر یہاں تک کہ درودوں میں سے کوئی چیز باقی نہ رہے اے اللہ!

وَاعْطِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدًا ۝ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ ۝

عطا فرما ہمارے آقا محمد کو مقام محمود جس کا تو نے ان سے وعدہ

الَّذِي إِذَا قَالَ صَدَّقْتَهُ وَإِذَا سَأَلَ أَعْطَيْتَهُ ۝ اللَّهُمَّ

کیا ہے جب وہ بولتا ہے تو تو اس کی تصدیق فرماتا ہے جب وہ مانگتا ہے تو اے عطا فرماتا ہے اے

وَاعْظُوبُرْهَانَ ۝ وَشَرِّفْ بُيَاتَهُ ۝ وَأَبْلِجْ مِحْتَهُ ۝ وَ

اللہ بزرگ کرے آپ کی دلیل کو بلند کرے آپ کی عمارت کو روشن کرے آپ کی حجت کو

بَيْنَ فَضِيلَتِهِ ۝ اللَّهُمَّ وَتَقَبَّلْ شَفَاعَتَهُ فِي أُمَّتِهِ ۝

اور ظاہر کرے آپ کی غنیمت کو اے اللہ! قبول فرما آپ کی شفاعت کو آپ کی امت کے حق میں

وَأَسْتَعْمِلُنَا بِسُنَّتِهِ وَتَوْفِقُنَا عَلَىٰ مِلَّتِهِ وَاحْشُرْنَا فِي زُمْرَتِهِ وَ

اور توفیق عطا فرما ہمیں آپ کی سنت پر عمل کرنے کی اور وفات دے میں آپ کی جنت پر اور قیامت کے دن

تَحْتَ لُؤَائِهِ وَاجْعَلْنَا مِنْ رُفَقَائِهِ وَأُورِدْنَا حَوْضَهُ

آپ کے زمرہ میں اور آپ کے جنت کے نیچے ہمارا حشر کرنا اور بنادے میں آپ کے رفیقوں میں اور پہنچا ہمیں

وَاسْقِنَا بِكَاسِهِ وَانْفَعْنَا بِحَبَّتِهِ ۝ اللَّهُمَّ آمِينَ ۝

آپ کے حوض پر اور پلا ہمیں آپ کے جام سے اور نفع دے میں آپ کی جنت سے اے اللہ اس کا قبول فرما

وَأَسْأَلُكَ بِاسْمَائِكَ الَّتِي دَعَوْتُكَ بِهَا أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيَّ

اور مانگتا ہوں میں تجھ سے تیرے ناموں کے وسیلے جن سے میں نے تجھ کو پکارا ہے کہ تو درود بھیجے

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا وَصَفْتُ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُ عِلْمَهُ

ہمارے آقا محمد پر بشمار اس کے جو میں نے تیری تعریف کی اور بشمار اس کے جس کو تیرے بغیر

إِلَّا أَنْتَ وَأَنْ تَرَحَّمَنِي وَتَتُوبَ عَلَيَّ وَتُعَافِيَنِي

کوئی نہیں جانتا نیز یہ کہ تو رحم فرما مجھ پر اور رحمت سے توجہ فرما مجھ پر اور عافیت میں رکھ مجھے

مِنْ جَمِيعِ الْبَلَاءِ وَالْبُكَوَاءِ وَأَنْ تُغْفِرَ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَ

تمام مصیبتوں تمام رنجشوں سے، یہ کہ بخش دے تو میرے لئے میرے والدین کے لئے اور

وَتَرَحَّمِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ

رحم فرما مومن مردوں اور مومن عورتوں پر مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں پر

الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ وَأَنْ تَغْفِرَ لِعَبْدِكَ فَلَانَ بْنِ

جو زندہ ہیں ان میں سے اور جو وفات پا چکے ہیں نیز یہ کہ بخش دے اپنے بندے جو فلاں بیٹا
فُلَانِ الْمَذْنِبِ الْخَاطِئِ الضَّعِيفِ وَأَنْ تَتُوبَ عَلَيْهِ

فلاں کا ہے گنہگار خطا کار ناتوان اور یہ کہ تو توبہ قبول کرے اس

إِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ اللَّهُمَّ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ۝

کی بے شک تو بہت بخشنے والا ہمیشہ رحم فرمائے اللہ ہے اے اللہ! اسے عا کو قبول فرمائے سب العالمین

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأَ هَذِهِ

فرمایا حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو شخص پڑھا ہے اس

الصَّلَاةِ مَرَّةً وَاحِدَةً كَتَبَ اللَّهُ لَهُ ثَوَابَ حَجَّةٍ

درود کو ایک بار لکھ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے مقبول حج

مَقْبُولَةٍ وَثَوَابَ مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مِّنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ

کا ثواب اور ثواب اس کا جس نے آزاد کیا ایک غلام اسمعیل علیہ السلام

عَلَيْهِ السَّلَامُ فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى يَا مَلِكُ كَتَبْتُ لِهَذَا عَبْدًا

کی اولاد سے اور فرماتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اے میرے فرشتو! یہ میرے بندوں

مِّنْ عِبَادِي أَكْثَرَ الصَّلَاةِ عَلَى حَبِيبِي مُحَمَّدٍ فَو

میں ایک میرا بندہ ہے جس نے کثرت سے درود پڑھا ہے میرے حبیب محمد پر پس تم سے

سے مہل پڑھا اور اپنے باپ کا نام لے۔

عِزَّتِي وَجَلَالِي وَجُودِي وَبِحُدِّي وَارْتِفَاعِي لِأَعْطَيْتَهُ

مجھ اپنی عزت اور اپنے جلال، اپنی سخاوت، اپنی بزرگی اور اپنی بلندی کی کئی کئی خصوصیات اور صفات کا

بِكُلِّ حَرْفٍ صَلَّى بِهِ قَصْرًا فِي الْجَنَّةِ وَلِيَا تَيْبَتِي يَوْمَ

اُسے ہر حرف کے بدلے جس سے اُس نے رُز و دُجھا ہے ایک محل جنت میں اور آئے گا ایسے پاس تیات

الْقِيَامَةِ تَحْتَ لَوَاءِ الْحَمْدِ وَنُورُ وَجْهِهِ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ

کے دن لوہے کے نیچے اُس کے چہرے کا نور و جود حوریں ت کے ہند کی طرح چمکے گا

وَكَفَّهُ فِي كَفِّ جَيْبِي مُحَمَّدٍ ۝ هَذَا مِنْ قَالِهَائِي كُلِّ

ہوگا اور اُس کی جیب میں محمد کی جیب میں ہوگی یہ اجر اس کے لئے جو ہر جمعہ کو یہ دُرو

يَوْمِ الْجُمُعَةِ لَهُ هَذَا الْفَضْلُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

پڑھتا ہے اسی کیلئے یہ فضل ہے اور اللہ تعالیٰ کا فضل بہت بڑا ہے

وَفِي رَوَايَةٍ ۝ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مَا حَسَلَ

اور دوسری روایت میں جمعہ کا یہ ورد آیا ہے اے اللہ! میں مانگتا ہوں تجھ سے بوسیلہ تیری اُس عظمت

كَرْسِيِّكَ مِنْ عَظَمَتِكَ وَقُدْرَتِكَ وَجَلَالِكَ وَبِهَائِكَ

قدرت، جلال، روشنی، بادشاہی کے چھ ٹھکانوں کی

وَسُلْطَانِكَ وَبِحَقِّ اسْمِكَ الْمُخْزُونِ لِلْمَكْنُونِ الَّذِي

اٹھایا ہوا ہے اور بوسیلہ تیرے اُس نام کے جو پوشیدہ اور مخفی ہے جس سے

سَمِّيتَ بِهِ نَفْسَكَ وَأَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ وَأَسْتَأْثَرْتُ بِهِ

تو نے اپنی ذات کا نام رکھا ہے نازل فرمایا ہے تو نے اس کو اپنی کتاب میں اور مخصوص کر لیا

فِي عَلْوِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ أَنْ تَصِلَ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

جسے اپنے پاس علم غیب میں کہ تو درود بھیجے ہمارے آقا محمد پر

عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي إِذَا دُعِيَ

جو تیرے بندے اور تیرے رسول ہیں میں مانگتا ہوں تجھ سے تیرے اُس نام کے وسیلہ سے کہ

بِهِ أَجَبْتَ وَإِذَا سُئِلَتْ بِهِ أُعْطِيَ ۝ وَأَسْأَلُكَ

جب پکارا جائے تجھے اس نام سے تو تو قبول کرتا ہے اور جب ال کیا جائے اس کے وسیلہ سے تو تو عطا فرماتا

بِاسْمِكَ الَّذِي وَضَعْتَهُ عَلَى الْيَلِّ فَأُظْلَمَ ۝ وَعَلَى الْهَارِ

جسے اور میں ال کرتا ہوں تجھ سے اس نام کے وسیلہ سے کہ جس کو تو نے اُت پڑا الا تو اندھیری ہو گئی اور دن پڑا الا

فَأَسْتَنَارَ ۝ وَعَلَى السَّمَوَاتِ فَاسْتَقَلَّتْ ۝ وَعَلَى الْأَرْضِ

تو روشن ہو گیا اور آسمانوں پر ڈالا تو جلاستون قائم ہو گئے اور زمین پر ڈالا

فَأَسْتَقَرَّتْ ۝ وَعَلَى الْجِبَالِ فَاسْتَوَتْ ۝ وَعَلَى الصَّعْبَةِ

تو وہ ٹھہر گئی اور پہاڑوں پر ڈالا تو وہ استوار ہو گئے اور سخت چیز پر ڈالا

فَذَلَّتْ ۝ وَعَلَى مَاءِ السَّمَاءِ فَسَكَبَتْ ۝ وَعَلَى السَّحَابِ

تو وہ نرم ہو گئی اور آسمان کے پانی پر ڈالا تو وہ ٹپک پڑا بادلوں پر ڈالا

فَاطْرَتْ ۝ وَاسْأَلْكَ بِمَا سَأَلْتَ بِهِ سَيِّدُنا مُحَمَّدٌ

تو وہ برسنے لگے میں مانگتا ہوں تجھ سے بوسیلہ اس نام کے جو مانگا ہے تجھ سے ہمارے آقا محمد نے

تَبِيكُ ۝ وَاسْأَلْكَ بِمَا سَأَلْتَ بِهِ سَيِّدُنا آدَمُ نَبِيكُ ۝

جو تیرے نبی ہیں اور میں سوال کرتا ہوں تجھ سے بوسیلہ اس نام کے جس کے اسطے سے مانگا ہے تجھ سے آدم نے

وَاسْأَلْكَ بِمَا سَأَلْتَ بِهِ آثِلْيَاوُكُ وَرُسُلُكَ وَمَلَائِكَتُكَ

جو تھے نبی ہیں میں مانگتا ہوں تجھ سے بوسیلہ اس نام کے جس کے اسطے سے مانگا ہے تجھ سے تیرے انبیاء تیرے

الْمُقَرَّبُونَ ۝ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ ۝ وَاسْأَلْكَ

رسولوں نے تیرے مقرب فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے زود ہوں ان سب پر اور مانگتا ہوں تجھ سے

بِمَا سَأَلْتَ بِهِ أَهْلُ طَاعَتِكَ أَجْمَعِينَ ۝ أَنْ تَصِلَ

بوسیلہ اس نام کے جس کے اسطے سے مانگا ہے تجھ سے تیرے تمام فرمانبرداروں نے یہ کہ تو زود بھیجے

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ

ہمارے آقا محمد پر اور آپ کی آل پر بشمار اس کے جو پیدا کیا ہے تو نے

مِنْ قَبْلِ أَنْ تَكُونَ السَّمَاءُ مَبْنِيَّةً وَالْأَرْضُ مَطْحِيَّةً ۝

اس سے پہلے کہ آسمان بنایا جائے اور زمین پھانی جائے اور

الْجِبَالُ مُرْسِيَةٌ وَالْعَيُونُ مُنْفَجِرَةٌ وَالْأَنْهَارُ مُنْهَمِرَةٌ

پہاڑ گاڑے جائیں اور چشمے بہنے لگیں اور نہریں رواں ہوں

وَالشَّمْسُ مُضِيحَةٌ وَالْقَمَرُ مُضِيئٌ وَالْكَوَاكِبُ مُنِيرَةٌ ۝

اور سورج چمکے اور چاند روشن ہو اور ستارے تابندہ ہوں

اللَّهُ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ درود بھیج ہمارے آقا محمد پر اور آپ کی آل پر

عَدَدِ عِلْمِكَ ۝ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

بشمار اپنے علم کے اور درود بھیج ہمارے آقا محمد پر اور آپ کی

مُحَمَّدٍ عَدَدِ حِلْمِكَ ۝ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

آل پر بشمار اپنے حلم کے درود بھیج ہمارے آقا محمد پر اور آپ

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا أَحْصَاهُ اللَّوْحُ الْمَحْفُوظُ مِنْ

کی آل پر بشمار اس کے کہ احاطہ کیا ہے لوح محفوظ نے تیرے

عِلْمِكَ ۝ اللَّهُ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

علم سے اے اللہ درود بھیج ہمارے آقا محمد پر اور آپ کی

مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا جَرَى بِهِ الْقَلَمُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ عِنْدَكَ ۝

آل پر بشمار اس کے کہ چلا ہے اس کے ساتھ قلم لوح محفوظ میں تیرے نزدیک

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلِّ

درود بھیج ہمارے آقا محمد پر اور آپ کی آل پر اس قدر کہ بھر جائیں

سَمَوَاتِكَ ۝ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

تیرے آسمان اور درود بھیج ہمارے آقا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ قَلْبًا أَرْضِكَ ۝ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

پراس قدر کہ بھر جائے تیری زمین درود بھیج ہمارے آقا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَلْبًا مَا أَنْتَ خَالِقُهُ مِنْ يَوْمٍ خَلَقْتَ

آپ کی آل پر اس قدر کہ بھر جائے جو کچھ تو نے پیدا فرمایا ہے دنیا کی پیدائش

الَّذِينَ آتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کے دن سے روز قیامت تک اے اللہ! درود بھیج ہمارے آقا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ صَفْوَفِ الْمَلَائِكَةِ وَتَسْبِيحِهِمْ

آپ کی آل پر بشمار فرشتوں کی صفوں کے ان کی تسبیحات کے،

وَتَقْدِيرِهِمْ وَتَحْمِيدِهِمْ وَتَعْجِيدِهِمْ وَتَكْبِيرِهِمْ

ان کی تقدیس کے، ان کی حمد کے، ان کی تعجید کے، ان کی تکبیر کے،

وَتَهْلِيلِهِمْ مِنْ يَوْمٍ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۝

ان کی تہلیل کے تخلیق دنیا کے دن سے روز قیامت تک

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ! درود بھیج ہمارے آقا محمد پر اور آپ کی آل پر

عَدَّ السَّحَابَ الْجَارِيَةَ وَالرِّيَّاحَ الذَّارِيَةَ مِنْ يَوْمٍ

بشمار دوڑنے والے بادلوں کے ، چلنے والی ہواؤں کے دُنیا کی

خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۝ اللَّهُ وَصَلَ عَلَى سَيِّدِنَا

تخلیق کے دن سے روزِ قیامت تک اے اللہ درود بھیج ہمارے آقا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ كُلِّ قَطْرَةٍ تَقْطُرُ

محمد پر اور آپ کی آل پر بشمار ہر قطرہ کے جو ٹپکا

مِنْ سَمَوَاتِكَ إِلَى أَرْضِكَ وَمَا تَقْطُرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۝

تیرے آسمانوں سے تیری زمین پر اور جو پئے گا قیامت تک

اللَّهُ وَصَلَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ! درود بھیج ہمارے آقا محمد پر اور آپ کی آل پر

عَدَدَ مَا هَبَّتِ الرِّيَّاحُ وَعَدَدَ مَا تَحْرَكُ الشُّجَارُ وَالْأَشْرَاقُ

بشمار چلنے والی ہواؤں کے اور بشمار حرکت کرنے والی درختوں اور پتوں

وَالزُّرُوعُ وَبِمَجْمَعِ مَا خَلَقْتَ فِي قَرَارِ الْحِفْظِ مِنْ يَوْمٍ

اور کھیتوں کے اور تمام وہ چیزیں جو پیدا کی ہیں تو نے حفاظت کی قرار گاہ میں تخلیق دُنیا

خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۝ اللَّهُ وَصَلَ عَلَى سَيِّدِنَا

کے دن سے روزِ قیامت تک اے اللہ! درود بھیج ہمارے آقا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْقَطْرِ وَالْمَطَرِ وَالنَّبَاتِ مِنْ

محمد پر اور آپ کی آل پر بشار بوندوں، بارشوں جڑی بوٹیوں کے تخلیق

يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

دُنیا کے دن سے روزِ قیامت تک اے اللہ! درود بھیج ہمارے آقا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ النُّجُومِ فِي السَّمَاءِ مِنْ يَوْمِ

اور آپ کی آل پر بشار آسمان کے ستاروں کے تخلیق دُنیا

خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

سے روزِ قیامت تک اے اللہ! درود بھیج ہمارے آقا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ فِي

محمد پر اور آل محمد پر بشار اس کے کہ جو پیدا کیا تو نے اپنے

بِحَارِكِ السَّبْعَةِ مِمَّا لَا يَعْلَمُ عِلْمَهُ إِلَّا أَنْتَ وَمَا أَنْتَ

سات سمندروں میں جنہیں تیرے بغیر کوئی نہیں جانتا اور جو تو

خَالِقُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

پیدا فرمانے والا ہے روزِ قیامت تک اے اللہ! درود بھیج ہمارے آقا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الرَّمْلِ وَالْحَصَىٰ فِي

اور آپ کی آل پر بشار ریت کے ذروں، شکریزوں کے جو

مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا ○ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

زمین کے مشرق میں ہیں اور مغرب میں اے اللہ! درود بھیج ہمارے آقا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ مِنْ

محمد پر اور آپ کی آل پر بشمار اس کے کہ پیدا فرمایا ہے تو نے

الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَمَا أَنْتَ خَالِقُهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ○

جنوں اور انسانوں سے اور جو تو پیدا فرمانے والا ہے قیامت تک

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ! درود بھیج ہمارے آقا محمد پر اور آپ کی آل پر

عَدَدَ أَنْفُسِهِمْ وَالْفَاظِهِمْ وَالْحَاظِهِمْ مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ

بشمار ان کے سانوں، الفاظ، دیکھنے کے تخلیق دُنیا سے

الدُّنْيَا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

لے کر روزِ قیامت تک اے اللہ! درود بھیج ہمارے آقا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ طَيْرَانَ الْجِنِّ وَالْمَلَائِكَةِ

اور آپ کی آل پر جنوں اور فرشتوں کی پروازوں کی تعداد کے مطابق

مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ

تخلیق دُنیا سے روزِ قیامت تک اے اللہ! درود بھیج

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الطُّوْرِ

ہمارے آقا محمد پر اور آپ کی آل پر بشارت پرندوں ،

وَالهَوَامِّ وَعَدَدَ الْوُحُوشِ وَالْأَكَامِرِ فِي مَشَارِقِ الْأَرْضِ

کیڑوں ، جنگلی جانوروں اور ٹیلوں کے جو زمین کے مشرق

وَمَغَارِبِهَا ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

اور مغرب میں ہیں اے اللہ! درود بھیج ہمارے آقا محمد پر اور آپ کی

مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْأَحْيَاءِ وَالْأَمْوَاتِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

آل پر بشارت زندوں کے اور مردوں کے اے اللہ! درود بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا أَظْلَمَ عَلَيْهِ

ہمارے آقا محمد پر اور آپ کی آل پر بشارت اس کے تاریک ہونے پر

الَيْلِ وَأَشْرَقَ عَلَيْهِ النَّهَارُ مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا

رات اور روشن ہوا اس پر دن تخلیق دنیا سے لے کر

إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

روزِ قیامت تک اے اللہ! درود بھیج ہمارے آقا محمد پر اور آپ

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ تَمِشِي عَلَى رِجْلَيْهِ وَمَنْ تَمِشِي

کی آل پر بشارت ان کے جو چلتے ہیں دو ٹانگوں پر اور جو چلتے ہیں

عَلَىٰ أَرْبَعٍ مِّنْ يَوْمٍ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۝

چار ٹانگوں پر تحقیق دُنیا سے روزِ قیامت تک

اللَّهُوَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ! درود بھیج ہمارے آقا محمد پر اور آپ کی آل پر

عَدَدٌ مِّنْ صَلَّىٰ عَلَيْهِ مِنْ الْجَنِّ وَالْإِنْسِ وَالْمَلَائِكَةِ مِمَّنْ

بشار اس کے کہ درود بھیجا ہے آپ پر جن و انس اور فرشتوں نے

يَوْمٍ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۝ اللَّهُوَصَلِّ عَلَىٰ

تحقیق دُنیا سے روزِ قیامت تک اے اللہ! درود بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدٌ مِّنْ يُصَلِّ

ہمارے آقا محمد پر اور آپ کی آل پر بشار اس کے جو آپ پر درود

عَلَيْهِ ۝ اللَّهُوَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

بھیجتے ہیں اے اللہ! درود بھیج ہمارے آقا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ عَدَدٌ مِّنْ لَّو يُصَلِّ عَلَيْهِ ۝ اللَّهُوَصَلِّ عَلَىٰ

پر بشار اُن کے جو درود نہیں بھیجتے آپ پر اے اللہ! درود بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا يَجِبُ أَنْ

ہمارے آقا محمد پر اور آپ کی آل پر جس طرح واجب ہے کہ

يُصَلِّي عَلَيْهِ ۝ اللَّهُ وَصَلَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

دُرُودِهَا جَاءَتْكُمْ بِرَأْسِهَا ۝ أَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ يَوْمَ تَبَايَعُوا فِي الْحَقِّ وَالْبَرِّ وَالْإِيمَانِ وَالْحَقِّ وَالْبَرِّ وَالْإِيمَانِ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا يَنْبَغِي أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ ۝ اللَّهُ وَصَلَ عَلَى

آلِ بِرَأْسِهَا جَاءَتْكُمْ بِرَأْسِهَا ۝ أَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ يَوْمَ تَبَايَعُوا فِي الْحَقِّ وَالْبَرِّ وَالْإِيمَانِ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَتَّى لَا يَبْقِيَ شَيْءٌ مِنْ

جَمَاعَةِ آقَا مُحَمَّدٍ بِرَأْسِهَا جَاءَتْكُمْ بِرَأْسِهَا ۝ أَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ يَوْمَ تَبَايَعُوا فِي الْحَقِّ وَالْبَرِّ وَالْإِيمَانِ

الصَّلَاةِ عَلَيْهِ ۝ اللَّهُ وَصَلَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي

بَاقِي نَهْرِهِ ۝ أَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ يَوْمَ تَبَايَعُوا فِي الْحَقِّ وَالْبَرِّ وَالْإِيمَانِ

الْأَوَّلِينَ ۝ وَصَلَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي الْآخِرِينَ ۝

أَوَّلِينَ فِي يَوْمِ تَبَايَعُوا فِي الْحَقِّ وَالْبَرِّ وَالْإِيمَانِ ۝

اللَّهُ وَصَلَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي الْمَلَأِ الْأَعْلَى إِلَى يَوْمِ

أَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ يَوْمَ تَبَايَعُوا فِي الْحَقِّ وَالْبَرِّ وَالْإِيمَانِ ۝

الَّذِينَ ۝ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ۝

قِيَامَتِهَا ۝ جَمَاعَةُ آقَا مُحَمَّدٍ بِرَأْسِهَا جَاءَتْكُمْ بِرَأْسِهَا ۝ أَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ يَوْمَ تَبَايَعُوا فِي الْحَقِّ وَالْبَرِّ وَالْإِيمَانِ

الْحَزْبُ السَّادِسُ فِي يَوْمِ السَّبْتِ

پچھی منزل جو ہفتہ کے روز پڑھی جاتی ہے

اللَّهُ صَبَّحَ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

اے اللہ! درود صبح ہمارے آقا محمد پر اور ہمارے آقا محمد کی آل پر اور

أَعْطَاهِ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالذَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ

عطا فرما انہیں وسیلہ، فضیلت اور درجہ بلند اور مبعوث فرما آپ کو

مَقَامًا مُمْتَدًّا الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تَخْلِفُ الْمِيعَادَ

مقام محمود پر جس کا تو نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا ہے بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا

اللَّهُ عَظُمَ شَانُهُ وَبَيَّنَّ بَرُّهَانَهُ وَأَبْلَجَ حُجَّتَهُ وَبَيَّنَّ

اے اللہ! بزرگ کر دے آپ کی شان کو اور ظاہر کر دے آپ کی دلیل کو اور روشن کر دے آپ کی حجت کو اور واضح

فَضِيلَتَهُ وَتَقَبَّلْ شَفَاعَتَهُ فِي أُمَّتِهِ وَاسْتَعْمَلْنَا بِسُنَّتِهِ

کر دے آپ کی فضیلت کو اور قبول فرما آپ کی شفاعت کو آپ کی امت کے باطن اور ظہر عمل کی توفیق عطا فرما

يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ○ وَيَا رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ○ اللَّهُمَّ

آپ کی سنت پر یا رب العالمین اور یا رب العرش العظیم اے اللہ!

يَا رَبَّ احْشُرْنَا فِي زُمْرَتِهِ وَتَحْتَ لَوَائِهِ وَاسْقِنَا بِكَاسِهِ

اے ہمارے رب ہمارا حشر کر آپ کے گروہ میں آپ کے جھنڈے کے نیچے اور لائیں میں آپ کے ساغر سے

وَالْفَعْنَ بِمَحَبَّتِهِ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ۝ اللَّهُمَّ يَا

اُدفع بخشش ہیں آپ کی محبت سے آمین یا رب العالمین اے اللہ اے

رَبِّ بَلِّغْهُ عَنَّا أَفْضَلَ السَّلَامِ وَاجْزِدْنَا عَنَّا أَفْضَلَ وَ

میرے سب پہنچا آپ کو ہماری طرف سے بزرگوار سلام اور جزا اے آپ کو ہماری طرف سے بہترین جزا

جَازَيْتَ بِهِ نَبِيًّا عَنِ أُمَّتِهِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ۝ اللَّهُمَّ

جو دی ہے تو نے کسی نبی کو اس کی امت کی طرف سے اے سارے جہانوں کے پروردگار اے اللہ

يَا رَبِّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي وَتَتُوبَ عَلَيَّ

اے میرے رب! میں اس سوال کرتا ہوں تجھ سے کہ بخش دے مجھے اور رحم کر مجھ پر اور رحمت سے توجہ فرما مجھ پر

وَتُعَافِيَنِي مِنْ جَمِيعِ الْبَلَاءِ وَالْبُلُوَاءِ الْخَارِجَةِ مِنَ الْأَرْضِ

اور بچالے مجھے تمام مصیبتوں سے تمام آفتوں سے جو نکلنے والی ہوں زمین سے

وَالنَّازِلِ مِنَ السَّمَاءِ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ بِرَحْمَتِكَ

یا اترنے والی ہوں آسمان سے بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے اپنی رحمت سے

وَأَنْ تَغْفِرَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ

اور یہ کہ بخش دے مؤمن مردوں کو اور مومن عورتوں کو مسلمان مردوں کو اور مسلمان عورتوں کو

الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْ أَرْوَاجِهِ

جو زندہ ہیں ان میں اور جو فوت ہو چکے ہیں راضی ہو اللہ تعالیٰ آپ کی ازواج سے

الطَّاهِرَاتِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

جو پاک ہیں تمام مسلمانوں کی مائیں ہیں اور راضی ہو اللہ تعالیٰ آپ کے

أَصْحَابِهِ الْأَعْلَامِ أُمَّةِ الْهُدَى وَمَصَابِيحِ الدُّنْيَا وَعَنِ

اصحاب سے جو بزرگ ہیں اور ہدایت کے پیشوا ہیں اور دُنیا کے چراغ ہیں اور سب

التَّابِعِينَ وَتَابِعِ التَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

تابعین سے اور جنہوں نے پیروی کی تابعین کی خوبی کے ساتھ قیامت تک

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○

سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے جو پروردگار ہے سارے جہانوں کا

إِبْتِدَاءُ الثَّلَاثِ الثَّلَاثِ

تیسرے ثلث کی ابتدا

اللَّهُوَرَبُّ الْأَرْوَاحِ وَالْأَجْسَادِ الْبَالِيَةِ أَسْأَلُكَ بِطَاعَةِ

اے اللہ! سب رُوحوں کے اور بوسیدہ جسموں کے پروردگار میں سوال کرتا ہوں تجھ سے ان

الْأَرْوَاحِ الرَّاجِعَةِ إِلَى أَجْسَادِهَا وَبِطَاعَةِ الْأَجْسَادِ

رُوحوں کی اطاعت کے واسطے جو لوٹنے والی ہیں اپنے جسموں کی طرف اور ان جسموں کی اطاعت کے واسطے

الْمُسَلِّمَةِ بِعُرُوقِهَا وَبِكَلِمَاتِكَ النَّافِذَةِ فِيهِمْ وَأَخَذَكَ

جو اپنی رگوں سے جڑے ہوئے ہیں اور بواسطہ ترسے ان کلمات کے جو نافذ ہونے والے ہیں ان میں اور بواسطہ اس کے

الْحَقُّ مِنْهُمْ وَالْخَلَائِقُ بَيْنَ يَدَيْكَ يَنْتَظِرُونَ فَصَلِّ

تو حق ان سے لے گا اس حال میں کہ ساری مخلوق تیرے سامنے حاضر ہوگی انتظار کر رہے ہوں گے

قَضَائِكَ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَكَ وَيَخَافُونَ عِقَابَكَ أَنْ

تیرے فیصلے کا اور امید دار ہوں گے تیری رحمت کے اور ڈرتے ہوں گے تیرے عذاب سے کہ

بَجَعَلِ النُّورِ فِي بَصَرِي وَذِكْرِكَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ عَلَيَّ

عطا فرما نور میری آنکھ میں اور اپنے ذکر کی توفیق رات اور دن میں میری

لِسَانِي وَعَمَلًا صَالِحًا فَارْزُقْنِي ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

زبان پر اور نیک عمل پس عطا فرما مجھے اے اللہ! درود بھیج ہمارے آقا

مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا

محمد پر جس طرح درود بھیجا تو نے ہمارے سردار ابراہیم پر اور برکتیں نازل فرما ہمارے آقا

مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ ۝ اللَّهُمَّ اجْعَلْ

محمد پر جس طرح برکتیں نازل فرماتی ہیں تو نے ہمارے سردار ابراہیم پر اے اللہ! نازل فرما

صَلَوَاتِكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

اپنے درود اور اپنی برکتیں ہمارے آقا محمد پر اور ہمارے آقا محمد کی

مُحَمَّدٍ كَمَا جَعَلْتَهَا عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

آل پر جس طرح نازل کی ہیں تو نے ہمارے سردار ابراہیم پر اور ہمارے سردار

اِبْرَاهِيمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مُّجِيْدٌ ۝ وَبَارِكْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ابراہیم کی آل پر بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگ ہے برکتیں نازل فرما ہمارے آقا محمد پر

وَ عَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰی سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ وَ

اور ہمارے آقا محمد کی آل پر جس طرح برکت نازل فرمائی تو نے ہمارے آقا ابراہیم پر اور

عَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مُّجِيْدٌ ۝ اَللّٰهُ

ہمارے آقا ابراہیم کی آل پر بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگ ہے اے اللہ!

صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ وَصَلِّ عَلٰی

دُرُودِ بَیْحِ ہمارے آقا محمد پر جو تیرے بندے اور تیرے رسول ہیں اور رحمت بھیج

اَلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ ۝

مومن مردوں اور مومن عورتوں پر اور مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں پر

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِهِ عَدَدَ مَا اَحَاطَ بِهٖ

اے اللہ! دُرُودِ بَیْحِ ہمارے آقا محمد پر اور آپ کی آل پر بشمار ان چیزوں کے کہ احاطہ فرمایا ہے

عِلْمِكَ وَاَحْصَاهُ كِتَابُكَ وَشَهِدْتُ بِهٖ مَلٰئِكَتُكَ

تو نے ان کا اپنے علم سے اور شمار کر لیا ہے تیری کتاب نے اور گواہی دی ہے اس کے ساتھ تیرے فرشتوں نے

صَلُوَّةً دَائِمَةً تَدُوْمُ رَيْدٌ وَاَمْرٌ مِّلْكُ اللّٰهِ ۝ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ

ایسا دُرُودِ جو ہمیشہ رہنے والا ہو جب تک اللہ کا ملک ہمیشہ ہے اے اللہ میں

أَسْأَلُكَ بِأَسْمَائِكَ الْعِظَامِ مَا عَلِمْتَ مِنْهَا وَمَا لَوْ أَعْلَمُوا

سوال کرتا ہوں تجھ سے تیرے بڑے ناموں کے وسیلے سے جن کو میں نے جانا ہے اور جن کو میں نے نہیں جانا

وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي سَمَّيْتَ بِهَا نَفْسَكَ مَا عَلِمْتَ مِنْهَا وَ

اور ان ناموں کے وسیلے سے جن سے تو نے اپنی ذات کا نام رکھا ہے جن کو جانا ہے میں نے ان سے اور

مَا لَوْ أَعْلَمُوا ۝ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ

جن کو نہیں جانا اور یہ کہ تو درود بھیج ہمارے آقا محمد پر جو تیرے بندے ،

بَنِيكَ وَرَسُولِكَ عَدَمًا خَلَقْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَكُونَ

تیرے بنی اور تیرے رسول ہیں بشماران چیزوں کے جنہیں تو نے پیدا کیا ہے اس سے پہلے کہ

السَّمَاءُ مَبْنِيَّةٌ وَالْأَرْضُ مَدْحِيَّةٌ وَالْجِبَالُ مُرْسِيَةٌ

آسمان بنایا گیا اور زمین پھمائی گئی اور پہاڑ گاڑے گئے

وَالْعَيُونُ مُنْفَجِرَةٌ وَالْأَنْهَارُ مُنْهَمِرَةٌ وَالشَّمْسُ مُشْرِقَةٌ

اور چشمے جاری کئے گئے اور دریا رواں ہوتے اور سورج چمکا

وَالْقَمَرُ مُضِيئٌ وَالْكَوَاكِبُ مُسْتَنِيرَةٌ وَالْبَحَارُ مُجْرِيَةٌ وَ

اور چاند روشن ہوا اور ستارے منور ہوئے اور سمندر ٹھاٹھیں مارنے لگے اور

الْأَشْجَارُ مُثْمِرَةٌ ۝ اللَّهُ وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ

درخت پھل دار ہوتے اے اللہ! درود بھیج ہمارے آقا محمد پر بشمار

عِلْمِكَ ۞ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدِ حِلْمِكَ ۞ وَ

اپنے علم کے اور دُرُودِ بیچ ہمارے آقا محمد پر بمقدار اپنے حلم کے اور

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدِ كَلِمَاتِكَ ۞ وَصَلِّ عَلَى

دُرُودِ بیچ ہمارے آقا محمد پر بشمار اپنے کلمات کے اور دُرُودِ بیچ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدِ نِعْمَتِكَ ۞ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ہمارے آقا محمد پر بمقدار اپنی نعمت کے اور دُرُودِ بیچ ہمارے آقا محمد پر

عَدَدِ فَضْلِكَ ۞ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدِ جُودِكَ ۞

باندازہ اپنے فضل کے اور دُرُودِ بیچ ہمارے آقا محمد پر بمقدار اپنی سخاوت کے

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدِ سَمَوَاتِكَ ۞ وَصَلِّ عَلَى

اور دُرُودِ بیچ ہمارے آقا محمد پر بشمار اپنے آسمانوں کے اور دُرُودِ بیچ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدِ اَرْضِكَ ۞ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ہمارے آقا محمد پر بشمار اپنی زمین کے اور دُرُودِ بیچ ہمارے آقا محمد پر

عَدَدَ مَا خَلَقْتَ فِي سَبْعِ سَمَوَاتِكَ مِنْ مَلَائِكَتِكَ ۞ وَ

بشمار ان چیزوں کے جنہیں پیدا کیا ہے تو نے سات آسمانوں میں اپنے فرشتوں سے اور

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ فِي اَرْضِكَ مِنْ

دُرُودِ بیچ ہمارے آقا محمد پر بشمار اس مخلوق کے جو پیدا کی ہے تو نے اپنی زمین میں

الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَغَيْرِهِمَا مِنَ الْوَحْشِ وَالطَّيْرِ وَغَيْرِهِمَا

جن و انس سے اور ان کے ماسوا درندوں اور پرندوں کے وغیرہما

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَمًا جَرَى بِهِ الْقَلَمُ فِي عِلْمِهِ

اور درود بھیج ہمارے آقا محمد پر بشمار اس کے جس کے ساتھ چلا ہے تیرا قلم تیرے علم

غَيْبِكَ وَمَا يَجْرِي بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

غیب میں اور جن پر چلتا رہے گا قیامت تک اور درود بھیج ہمارے آقا

مُحَمَّدٍ عَدَمَ الْقَطْرِ وَالْمَطَرِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَمًا

محمد پر بشمار پانی کے قطروں اور بارش کے قطروں کے اور درود بھیج ہمارے آقا محمد پر بشمار

مَنْ يُحْمَدُكَ وَيُشْكُرُكَ وَيُهَلِّكَ وَيُجِدُّكَ وَيَشْهَدُ

اُن کے جو حمد کرتے ہیں تیری اور شکر کرتے ہیں تیرا اور جو لا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ کہتے ہیں تیری بڑائی بیان کرتے ہیں

أَنَّكَ أَنْتَ اللهُ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَمًا صَلَّيْتَ

اور گواہی دیتے ہیں کہ بے شک ہی اللہ ہے اور درود بھیج ہمارے آقا محمد پر بشمار اس کے کہ درود بھیجا ہے

عَلَيْهِ أَنْتَ وَمَلَائِكَتُكَ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَمًا

تو نے آپ پر اور تیرے فرشتوں نے اور درود بھیج ہمارے آقا محمد پر بشمار اس کے

مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ مِنْ خَلْقِكَ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کہ درود بھیجا ہے آپ پر جس نے تیری مخلوق سے اور درود بھیج ہمارے آقا محمد پر

عَدَدَ مَنْ لَوْ يُصَلِّ عَلَيْهِ مِنْ خَلْقِكَ ۝ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

بشماران کے جنہوں نے دُرود نہیں بھیجا آپ پر تیری مخلوق سے اور دُرود بھیج ہمارے آقا

مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْجِبَالِ وَالرِّمَالِ وَالْحَصَى ۝ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

محمدؐ پر بشمار پہاڑوں، ریت کے ڈرتوں اور سنگریزوں کے اور دُرود بھیج ہماری آقا

مُحَمَّدٍ عَدَدَ الشَّجَرِ وَأَوْرَاقِهَا وَالْمَدْرِ وَأَثْقَالِهَا ۝ وَصَلِّ

محمدؐ پر بشمار درختوں کے، ان کے پتوں کے بشمار ڈھیلوں کے اور ان کے بوجھوں کے اور دُرود بھیج

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ كُلِّ سَنَةٍ وَمَا تَخْلُقُ فِيهَا وَمَا يَمُوتُ

ہمارے آقا محمدؐ پر بشمار ہر سال کے جو تو اس میں پیدا فرماتا ہے اور جو اس میں

فِيهَا ۝ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا تَخْلُقُ كُلَّ يَوْمٍ وَ

ماتا ہے اور دُرود بھیج ہمارے آقا محمدؐ پر بشمار اس کے جو ہر روز پیدا کرتا ہے اور

مَا يَمُوتُ فِيهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۝ اللَّهُمَّ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

جو ہر روز ماتا ہے روز قیامت تک اے اللہ! دُرود بھیج ہمارے آقا

مُحَمَّدٍ عَدَدَ السَّحَابِ الْجَارِيَةِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

محمدؐ پر بشماران بادلوں کے جو رواں رہتے ہیں آسمان و زمین کے درمیان

وَمَا تَنْظُرُ مِنَ الْمِيَادِ ۝ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ

اور جو برستا ہے اُن سے پانی اور دُرود بھیج ہمارے آقا محمدؐ پر بشمار

الزِّيَاحِ الْمُسَخَّرَاتِ فِي مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا وَ

ان ہواؤں کے جو تیری فرمانبرداری میں زمین کے مشرقوں اور مغربوں میں اور

جَوْفِهَا وَقِبْلَتِهَا ۝ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ نُجُومِ

اس کے درمیان اور اس کے قبلہ کی سمت میں اور درود بھیج ہمارے آقا محمد پر بشمار آسمان کے

السَّمَاءِ ۝ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ

ستاروں کے اور درود بھیج ہمارے آقا محمد پر بشمار اس کے جو پیدا کیا ہے تو نے

فِي بِحَارِكِ مِنَ الْحَيْتَانِ وَالذَّوَابِّ وَالْمِيَاهِ وَالرِّمَالِ

اپنے سمندروں میں پھیلیوں اور جانوروں سے اور پانی اور ریت

وَعَيْرِ ذَلِكَ ۝ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ النَّبَاتِ

وغیر ہاسے اے اللہ! درود بھیج ہمارے آقا محمد پر بشمار ان سبزیوں کے

وَالْحَصَى ۝ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ التَّمَلِّ ۝

اور کنکریوں کے اور درود بھیج ہمارے آقا محمد پر بشمار لہجیونیشوں کے

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْمِيَاهِ الْعَذْبَةِ ۝ وَصَلِّ

اور درود بھیج ہمارے آقا محمد پر بشمار میٹھے پانیوں کے اور درود بھیج

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْمِيَاهِ الْمَلْحَةِ ۝ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

ہمارے آقا محمد پر بشمار کھاری پانیوں کے اور درود بھیج ہمارے آقا

مُحَمَّدٌ عَدَدُ نِعْمَتِكَ عَلَى جَمِيعِ خَلْقِكَ ۝ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

محمد پر بقدر اپنی نعمت کے جو تو نے اپنے تمام بندوں پر فرمائی ہے اور درود بھیج ہمارے آقا

مُحَمَّدٍ عَدَدِ نِقْمَتِكَ وَعَذَابِكَ عَلَى مَنْ كَفَرَ بِسَيِّدِنَا

محمد پر بقدر اپنے اس عقاب کے اور اپنے عذاب کے جو تو نے ان پر کیا ہے جنہوں نے انکار کیا

مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۝ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

(تیرے حبیب) ہمارے آقا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اور درود بھیج ہمارے آقا

مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا دَامَتِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ ۝ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

محمد پر جب تک دنیا اور آخرت قائم رہے اور درود بھیج ہمارے آقا

مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا دَامَتِ الْخَلَائِقُ فِي الْجَنَّةِ ۝ وَصَلِّ عَلَى

محمد پر بقدر اس کے کہ قائم رہے تیری مخلوق بہشت میں اور درود بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا دَامَتِ الْخَلَائِقُ فِي النَّارِ ۝ وَصَلِّ عَلَى

ہمارے آقا محمد پر باندازہ اس کے کہ باقی ہے تیری مخلوق دوزخ میں اور درود بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَلَى قَدْرِ مَا يُحِبُّهُ وَتَرْضَاهُ ۝ وَصَلِّ عَلَى

ہمارے آقا محمد پر اس قدر جس قدر تو ان سے محبت کرتا ہے اور پسند کرتا ہے اور درود بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَلَى قَدْرِ مَا يُحِبُّكَ وَيَرْضَاكَ وَصَلِّ عَلَى

ہمارے آقا محمد پر باندازہ اس کے کہ وہ محبت کرتے ہیں تجھ سے اور پسند کرتے ہیں تجھ کو اور درود بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَبَدَ الْأَبَدِينَ وَأَنْزَلَهُ الْمَنْزِلَ الْمُقَرَّبَ

ہمارے آقا محمدؐ پر ہمیشہ ہمیشہ اور اُنار آپ کو ایسی منزل پر جو تیرے
عِنْدَكَ وَأَعْطِهِ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّفَاعَةَ وَالذَّجَّةَ

قریب ہے اور عطا فرما آپ کو وسیلہ اور فضیلت اور شفاعت اور درجہ

الرَّابِعَةَ وَابْعَثَهُ الْمَقَامَ الْمُحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ

بخند اور آپ کو مقام محمود پر مبعوث فرما جس کا تو نے وعدہ کیا ہے آپ سے بے شک

لَا تَخْلِفُ الْمِيعَادَ ۝ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّكَ مَا لَيْسَ

تو وعدہ خلافی نہیں کرتا اے اللہ! میں سوال کرتا ہوں تجھ سے کیوں کہ تو میرا مالک ہے

سَيِّدِي وَمَوْلَايَ وَتَقِيَّتِي وَرَجَائِي أَسْأَلُكَ بِحُرْمَةِ شَهْرِ

اور سردار ہے اور میرا مولا ہے اور میرا بھروسہ ہے اور میری امید ہے سوال کرتا ہوں میں تجھ سے

الْحَرَامِ وَالْبَلَدِ الْحَرَامِ وَالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَقَبْرِ نَبِيِّكَ

شہر حرام اور مکہ مکرمہ ، مشعر حرام اور اپنے نبی کریمؐ کی مزار پر انوار کی عزت

عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنْ تَهْبِئَ لِي مِنَ الْخَيْرِ مَا لَا يَعْلَمُ عِلْمَهُ إِلَّا

کے واسطے کہ بخش دے مجھے بھلائیوں میں سے جنہیں تیرے سوا کوئی نہیں

أَنْتَ وَتَصْرِفَ عَنِّي مِنَ الشُّؤْمِ مَا لَا يَعْلَمُ عِلْمَهُ إِلَّا

جاتا اور پھیر دے مجھ سے ہر برائی جس کو تیرے بغیر کوئی نہیں

أَنْتَ ۝ اللَّهُ يَا مَنْ وَهَبَ لِسَيِّدِنَا آدَمَ سَيِّدًا نَاسِثًا ۝

جاتا اے اللہ اے وہ جس نے عطا فرمایا آدم کو

ثیث

وَلِسَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ سَيِّدًا نَا السَّمْعِيلَ وَسَيِّدَنَا إِسْحَاقَ ۝ وَرَدَّ

اور ابراہیم کو اسمعیل اور اسحاق اور لوثایا

سَيِّدَنَا يُوسُفَ عَلَى سَيِّدِنَا يَعْقُوبَ وَيَا مَنْ كَشَفَ بَلَاءَ

یوسف کو یعقوب کی طرف اور اے وہ جس نے دور کردی مصیبت

عَنْ سَيِّدِنَا أَيُّوبَ ۝ وَيَا مَنْ رَدَّ سَيِّدَنَا مُوسَى إِلَى أُمِّهِ

ایوب سے اور اے وہ جس نے لوٹا دیا موسیٰ کو اپنی ماں کی طرف

وَيَا زَائِدَ سَيِّدِنَا الْخَضِرَ فِي دَعْوِهِ ۝ وَيَا مَنْ وَهَبَ

اور اے بڑھانے والے خضر کو علم میں اور اے وہ جس نے بخشا

لِسَيِّدِنَا دَاوُدَ سَيِّدَنَا سُلَيْمَانَ وَسَيِّدِنَا زَكَرِيَّا سَيِّدَنَا يُحْيَىٰ ۝

داؤد کو سلیمان اور زکریا کو یحییٰ

وَلِسَيِّدَتِنَا مَرْيَمَ سَيِّدَنَا عَلِيًّا وَيَا حَافِظَ ابْنَةِ سَيِّدِنَا

اور مریم کو علیؑ اور اے حفاظت کرنے والے دختر

شُعَيْبٍ أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ جَمِيعِ

شعیب کی سوال کرتا ہوں میں تجھ سے کہ تو درود بھیج ہمارے آقا محمد پر اور جملہ

النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ وَيَا مَنْ وَهَبَ لِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ

نبیوں اور رسولوں پر اور اے وہ جس نے بخشا ہمارے آقا محمد صلی اللہ تعالیٰ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْدَرَجَةَ الرَّفِيعَةَ أَنْ تَغْفِرَ لِي

علیہ وسلم کو مرتبہ شفاعت اور درجہ بلند بخش دے میرے لئے

ذُنُوبِي وَتَسْتُرْ لِي عِيُوبِي كُلَّهَا وَتُجِيرَنِي مِنَ النَّارِ وَتُوجِبَ

میرے گناہ اور ڈھانپ دے میرے لئے کبیرے لئے عیب اور پناہ دے مجھے آگ سے اور عطا فرمائے

لِي رِضْوَانِكَ وَأَمَانِكَ وَعُفْرَانِكَ وَإِحْسَانِكَ وَمَتِّعْنِي

مجھے اپنی خوشنودی، اپنی امان، اپنی بخشش اور اپنا احسان اور بہرہ مند کر دے

فِي جَنَّتِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ

مجھے اپنی جنت میں ان لوگوں کے ساتھ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے نبیوں

وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

صدیقوں شہیدوں اور صالحین میں سے بے شک تو ہر چیز پر

قَدِيرٌ ۝ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ عَارَفَتِ

قادر ہے اور درود بھیجے اللہ ہمارے آقا محمد اور آپ کی آل پر جب تک تیزی

الرِّيَاحُ سَحَابًا بَارَكًا مَا وَذَاقَ كُلُّ ذِي رُوحٍ حَمَامًا وَأَوْصَلَ

سے اکھاڑ کر لے جاتی رہیں ہوائیں گھٹاکو رکھاؤں کو پکھلتا ہے ہر جاندار موت کا ذائقہ اور پہنچا

السَّلَامُ لِأَهْلِ سَلَامٍ فِي دَارِ السَّلَامِ تَحِيَّةٌ وَسَلَامًا ۝

سلام اہل سلام کو بہشت میں جو تھے اور سلامتی کی دُعا ہو

اللَّهُمَّ افِرْدِي لِمَا خَلَقْتَنِي لَهُ وَلَا تَسْغَلْنِي بِمَا تَكْفَلْتِ

اے اللہ! یسُو کر دے تو مجھے اس مقصد کے لئے جس کے لئے تو نے مجھے پیدا فرمایا اور نہ مشغول

لِي بِهِ وَلَا تَحْرِمْنِي وَإِنَّا أَسْأَلُكَ وَلَا نُعَذِّبُنِي وَأَنَا

کر مجھے اس چیز میں جس کا میرے لئے تو ضامن بنا اور مجھے محروم نہ رکھ دو آل حال کہ میں تجھ سے

أَسْتَغْفِرُكَ ۝ ثَلَاثًا ۝ اللَّهُمَّ صِلْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

بارگاہ ہوں اور مجھے عذاب دے نہ اور آل کہیں تجھ سے حضرت ہمارے ہوں (دو تین مرتبہ پڑھے) اے اللہ! اور بھیج

وَعَلَى إِلِهِ وَسَلِّمْ ۝ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ

ہمارے آقا محمد پر اور آپ کی آل پر اور سلام بھیج اے اللہ! میں آل کرتا ہوں تجھ سے اور متوجہ ہوتا ہوں تیری طرف

بِحَبِيبِكَ الْمُصْطَفَى عِنْدَكَ يَا حَبِيبِنَا يَا سَيِّدَنَا مُحَمَّدُ

بواسطہ تیرے حبیب کے جو برگزیدہ ہے تیری بارگاہ میں اے ہمارے حبیب اے ہمارے آقا اے محمد

إِنَّا تَوَسَّلُ بِكَ إِلَى رَبِّكَ فَاشْفَعْ لَنَا عِنْدَ لَوْلى الْعَظِيمِ

(مصطفیٰ) ہم وسیلہ پڑھتے ہیں آپ کا آپ کے پروردگار کی جناب میں پس شفاعت فرما ہمارے لئے اپنے عظیم

يَا نِعْوِ الرَّسُولِ الطَّاهِرِ ۝ اللَّهُمَّ شَفِّعْهُ فِينَا بِجَاهِهِ

پروردگار کی جناب میں اے بہت ہی اچھے رسول اے اللہ! حضور کی شفاعت ہمارے حق میں قبول فرما بواسطہ آپ

عِنْدَكَ ۝ ثَلَاثًا ۝ وَاجْعَلْنَا مِنْ خَيْرِ الْمُصَلِّينَ

کی عزت کے جو تیری بارگاہوں سے (تین بار پڑھے) اور بنا دے میں آپ پر بہترین درود

وَالْمُسَلِّينَ عَلَيْهِ ۝ وَمِنْ خَيْرِ الْمُقَرَّبِينَ مِنْهُ

اور سلام یہ بھیجنے والوں سے اور ان سے جو بہترین مقربان بارگاہ میں اور جو تیرے

وَالْوَارِدِينَ عَلَيْهِ وَمِنْ اَحْيَارِ الْمُحِبِّينَ فِيهِ وَالْمُحِبُّوْبِينَ

بہترین وارد ہونے والے ہیں آپ کی خدمت میں آپ کے بہترین عشاق میں سے اور جو آپ کی جانب

لَدَيْهِ ۝ وَفَرِحْنَا بِهِ فِي عَرَصَاتِ الْقِيَمَةِ ۝ وَاجْعَلْهُ لَنَا

میں محبوب ہیں اور خوش کرنے میں آپ کے وسیلہ سے میدان حشر میں اور بنا دے آپ کو ہماری

دَلِيلًا اِلَى جَنَّةِ النَّعِيمِ بِاَمُوْنَةٍ وَّلَا مَشَقَّةٍ وَّلَا مَنَاقِصَةٍ

بے راہنما جنتِ نعیم کی طرف بغیر محنت و مشقت کے اور

الْحِسَابِ وَاجْعَلْهُ مُقْبِلًا عَلَيْنَا ۝ وَلَا تَجْعَلْهُ غَاضِبًا

بغیر حساب کے ابھی اوکے اور کرنے آپ کو توجہ فرماتے والا ہم پر اور نہ کر دے آپ کو خشناک

عَلَيْنَا ۝ وَاعْفِرْ لَنَا وِلْوَالِدِنَا وِلْجَمِيْعِ الْمُسْلِمِيْنَ الْاَحْيَاءِ

ہم پر اور بخش دے ہمارے لئے ہمارے والدین کے لئے تمام مسلمانوں کے لئے جو زندہ ہیں

مِنْهُمْ وَاَلْمَيْتِيْنَ وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

ان میں سے اور جو فوت ہو چکے ہیں ہماری آخری دعا ہے کہ سب تقربین اللہ تعالیٰ کے لئے سوز و گمگینا ہے آمین

اِبْتِدَاءُ الرَّبِّعِ الرَّابِعِ

چوتھے حصہ کی چوتھائی کی ابتداء

فَأَسْأَلُكَ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ يَا

پس میں سوال کرتا ہوں تجھ سے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا حئی یا قیوم یا

ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي

ذوالجلال والا کرام نہیں ہے کوئی مجبود سوا تیرے تو ہر عیب سے پاک ہے بے شک

كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ○ أَسْأَلُكَ بِمَا حَمَلَ كُرْسِيُّكَ

میں ہی ظالموں میں سے ہوں میں مانگتا ہوں تجھ سے بوسیدہ اس کے جو اٹھایا ہے تیری کرسی

مِنْ عَظْمَتِكَ وَجَلَالِكَ وَبَهَائِكَ وَقُدْرَتِكَ وَ

نے تیری عظمت تیرے جلال تیری چمک تیری قدرت اور

سُلْطَانِكَ وَبِحَقِّ أَسْمَائِكَ الْمُخْرُوجَةِ مِنَ الْمَكُونَةِ الْمُطَهَّرَةِ

تیرے غلبہ سے اور بوسیدہ تیرے ان ناموں کے جو مخفی اور پوشیدہ ہیں پاک ہیں

الَّتِي لَوْ يَطَّلِعُ عَلَيْهَا أَحَدٌ مِنْ خَلْقِكَ وَبِحَقِّ الْإِسْمِ

جن پر کوئی آگاہ نہیں تیری مخلوق سے اور بوسیدہ اس اسم کے

الَّذِي وَضَعْتَهُ عَلَى اللَّيْلِ فَاطْلُقْ وَعَلَى النَّهَارِ فَاسْتِنَارَ

جسے تو نے رات پر رکھا تو وہ تاریک ہو جیسی دن پر رکھا تو وہ روشن ہو گیا

وَعَلَى السَّمَوَاتِ فَاسْتَقَلَّتْ ۝ وَعَلَى الْأَرْضِ فَأَسْقَرَتْ ۝

آسمانوں پر رکھا وہ مستحکم ہو گئے زمین پر رکھا وہ قرار پڑ گئی

وَعَلَى الْبَحَارِ فَالْفَجَرَتْ ۝ وَعَلَى الْعِوُنِ فَنَبَعَتْ ۝

اُور دریاؤں پر رکھا تو جاری ہو گئے چشموں پر رکھا تو ابل پڑے

وَعَلَى السَّحَابِ فَأَمْطَرَتْ ۝ وَأَسْأَلُكَ بِالْأَسْمَاءِ

بادلوں پر رکھا تو برسنے لگے اُور میں سوال کرتا ہوں تجھ سے ان اسماء کے

الْمَكْتُوبَةِ فِي جَهَةِ سَيِّدِ نَاجِبْرِئِلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ۝

دیس سے جو لکھے ہوئے ہیں جبریل علیہ السلام کی پیشانی پر

وَبِالْأَسْمَاءِ الْمَكْتُوبَةِ فِي جَهَةِ سَيِّدِ نَاسِرَافِيلَ عَلَيْهِ

اُور ان اسماء کے دیس سے جو لکھے ہوئے ہیں اسرائیل علیہ السلام کی

السَّلَامُ ۝ وَعَلَى جَمِيعِ الْمَلَائِكَةِ وَأَسْأَلُكَ بِالْأَسْمَاءِ

پیشانی پر اُور تمام فرشتوں کی پیشانیوں پر میں مانگتا ہوں تجھ سے ان اسماء

الْمَكْتُوبَةِ حَوْلَ الْعَرْشِ وَبِالْأَسْمَاءِ الْمَكْتُوبَةِ حَوْلَ

کے دیس سے جو عرش کے ارد گرد لکھے ہوئے ہیں اُور ان اسماء کے دیس سے جو کرسی کے ارد گرد

الْكُرْسِيِّ ۝ وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الْعَظِيمِ الْعَظِيمِ الَّذِي

لکھے ہوئے ہیں میں مانگتا ہوں تجھ سے تیرے اس اسمِ عظیم کے طفیل جس سے تو نے

سَمِعْتِ بِهِ نَفْسَكَ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ أَسْمَائِكَ كُلِّهَا

اپنی ذات کو سمنی کیا ہے اور میں سوال کرتا ہوں تجھ سے تیرے تمام اسماء مبارکہ کے ذریعہ

مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ ۝ وَأَسْأَلُكَ بِالْأَسْمَاءِ الَّتِي

جن کو میں جانتا ہوں اور جن کو میں نہیں جانتا سوال کرتا ہوں تجھ سے ان اسماء مبارکہ

دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُ نَا أَدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ۝ وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي

کے ذریعہ سے جن سے پکارا تجھ کو آدم علیہ السلام نے اور ان اسماء کے ذریعہ سے

دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُ نَا نُوحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ ۝ وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي

جن سے پکارا تجھ کو نوح علیہ السلام نے اور ان اسماء کے ذریعہ سے

دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُ نَا صَالِحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ ۝ وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي

جن سے پکارا تجھ صلیح علیہ السلام نے اور ان اسماء کے ذریعہ سے

دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُ نَا يَعْقُوبُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ۝ وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي

جن سے پکارا تجھ یعقوب علیہ السلام نے اور ان اسماء کے ذریعہ سے

دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُ نَا يُوسُفُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ۝ وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي

جن سے پکارا تجھ یوسف علیہ السلام نے اور ان اسماء کے ذریعہ سے

دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُ نَا يُوسُفُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ۝ وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي

جن سے پکارا تجھ یوسف علیہ السلام نے اور ان اسماء کے ذریعہ سے

دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُ نَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ ۝ وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي

جن سے پکارا تجھے موسیٰ علیہ السلام نے اور ان اسماء کے وسیلے سے

دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُ نَاهِرُونَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ۝ وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي

جن سے پکارا تجھے ہزرون علیہ السلام نے اور ان اسماء کے وسیلے سے

دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُ نَا شُعَيْبٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ ۝ وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي

جن سے پکارا تجھے شعیب علیہ السلام نے اور ان اسماء کے وسیلے سے

دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُ نَا اِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ۝ وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي

جن سے پکارا تجھے ابراہیم علیہ السلام نے اور ان اسماء کے وسیلے سے

دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُ نَا اِسْمَاعِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ۝ وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي

جن سے پکارا تجھے اسماعیل علیہ السلام نے اور ان اسماء کے وسیلے سے

دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُ نَا دَاوُدُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ۝ وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي

جن سے پکارا تجھے داؤد علیہ السلام نے اور ان اسماء کے وسیلے سے

دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُ نَا سُلَيْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ۝ وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي

جن سے پکارا تجھے سلیمان علیہ السلام نے اور ان اسماء کے وسیلے سے

دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُ نَا زَكَرِيَّا عَلَيْهِ السَّلَامُ ۝ وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي

جن سے پکارا تجھے زکریا علیہ السلام نے اور ان اسماء کے وسیلے سے

دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُ نَايِحِي عَلَيْهِ السَّلَامُ ۝ وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي

جن سے پکارا تجھے یحییٰ علیہ السلام نے اور اُن اسماء کے وسیلہ سے

دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُ نَايُوشَعُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ۝ وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي

جن سے پکارا تجھے یوشع علیہ السلام نے اور اُن اسماء کے وسیلہ سے

دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُ نَا الْخَضِرُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ۝ وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي

جن سے پکارا تجھے خضر علیہ السلام نے اور اُن اسماء کے وسیلہ سے

دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُ نَا الْيَاسُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ۝ وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي

جن سے پکارا تجھے ایاس علیہ السلام نے اور اُن اسماء کے وسیلہ سے

دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُ نَا الْيَسَعُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ۝ وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي

جن سے پکارا تجھے یسع علیہ السلام نے اور اُن اسماء کے وسیلہ سے

دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُ نَا ذُو الْكِفْلِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ۝ وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي

جن سے پکارا تجھے ذوالکفل علیہ السلام نے اور اُن اسماء کے وسیلہ سے

دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُ نَا عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ ۝ وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي

جن سے پکارا تجھے عیسیٰ علیہ السلام نے اور اُن اسماء کے وسیلہ سے

دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُ نَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيِّكَ

جن سے پکارا تجھے ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تیرے نبی

وَرَسُولِكَ وَجَبِّبُكَ وَصَفِيكَ يَا مَنْ قَالَ وَقَوْلُهُ

تیرے رسول، تیرے حبیب، تیرے چنے ہوئے ہیں، اے وہ ذات جس نے فرمایا اور اس

الْحَقِّ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ وَلَا يَصْدُ عَنْ

کافران حق ہے اور اللہ نے پیدا کیا تمہیں اور جو کچھ تم کرتے ہو اور نہیں صادر ہوتا کسی

أَحَدٍ مِّنْ عِبِيدِهِ قَوْلٌ وَلَا فِعْلٌ وَلَا حَرَكَةٌ وَلَا سَكُونٌ

ایک سے اس کے بندوں میں سے کوئی قول، کوئی فعل، کوئی حرکت، کوئی سکون،

إِلَّا وَقَدْ سَبَقَ فِي عِلْمِهِ وَقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ كَيْفَ يَكُونُ

مگر یہ کہ وہ پہلے اس کے علم میں، اس کی قضا میں، اس کی قدر میں ہوتی ہے کہ وہ کس

كَمَا أَلْهَمْتَنِي وَقَضَيْتَ لِي بِجَمْعِ هَذَا الْكِتَابِ وَلَيْسَتْ

طرح ہوگی اے اللہ تو نے جس طرح مجھے دل میں ڈالا ہے اور فیصلہ فرمایا ہے میرے لئے اس کتاب کو

عَلَىٰ فِيهِ الطَّرِيقُ وَالْأَسْبَابُ وَنَفَيْتَ عَن قَلْبِي فِي هَذَا

جمع کرنے کا اور آسان بنا دیا ہے تو نے میرے لئے اس کا راستہ اور اس کے اسباب اور مٹا دیا ہے تو نے

النَّبِيِّ الْكَرِيمِ الشَّاكِّ وَالْإِرْتِيَابِ وَعَلَبْتَ حُبَّهُ

میرے دل سے اس نبی مکرّم کے بارے میں ہر قسم کے شک و شبہ کو اور غائب کر دیا ہے تو نے آپ کی محبت کو

عِنْدِي عَلَىٰ حُبِّ جَمِيعِ الْأَقْرَبَاءِ وَالْأَحْبَاءِ أَسْأَلُكَ

میرے نزدیک تمام رشتہ داروں اور دوستوں کی محبت پر میں مانگتا ہوں تجھ سے

يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ أَنْ تَرْزُقَنِي وَكُلَّ مَنْ أَحَبَّهُ

یا اللہ یا اللہ یا اللہ کہ عطا فرما مجھے اور ہر اس شخص کو جو آپ سے محبت کرتا ہے

وَاتَّبَعَهُ شَفَاعَتَهُ وَمُرَافَقَتَهُ يَوْمَ الْحِسَابِ مِنْ غَيْرِ

آپ کی پیروی کرتا ہے آپ کی شفاعت آپ کی رفاقت قیامت کے دن بغیر کسی

مُنَاقَشَةٍ وَلَا عَذَابٍ وَلَا تَوْبِيخٍ وَلَا عِتَابٍ وَأَنْ

جھگڑے اور عذاب بھڑک اور سرزنش کے اور یہ کہ

تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي وَتَسْتُرْ عِيُوبِي يَا وَهَّابُ يَا غَفَّارُ ۝

تو بخش دے میرے لئے میرے سارے گناہ اور ڈھانپ دے میرے سارے عیب اے بے حساب بخشے والے

وَأَنْ تُنْعِمَنِي بِالنَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ الْكَرِيمِ فِي جُصَلَةٍ

اے بہت مغفرت فرماتے والے اور مجھے نعمت دے کہ میں تیرے وجہ کریم کی طرف تیرے احباب کی محبت میں

الْأَحْبَابِ يَوْمَ الْمُرِيدِ وَالْثَوَابِ ۝ وَأَنْ تَقْبَلَ مِنِّي

نظر وال سکوں اُس دن جو زیادہ بخشش و ثواب کا دن ہوگا اور یہ کہ تو قبول فرما مجھ سے

عَمَلِي وَأَنْ تَعْفُو عَمَّا أَحَاطَ عِلْمُكَ بِهِ مِنْ خَطِيئَتِي

میرے عمل کو اور درگزر فرما ہر اس چیز سے جس کا احاطہ کیا ہوتا ہے تیرے علم نے میری خطاؤں

وَنَسِيَانِي وَزَلَلِي وَأَنْ تُبَلِّغَنِي مِنْ زِيَارَةِ قَبْرِهِ وَالتَّسْلِيمِ

میری بھول چھلانے اور غمگینوں سے اور مجھے پہنچانے میرے عیب کی قبر انور کی زیارت اور آپ سے سلام عرض کرنے

عَلَيْهِ وَعَلَىٰ صَاحِبِيهِ غَايَةَ أَمَلِي بِمَنِّكَ وَفَضْلِكَ

اور آپ کے دونوں ساتھیوں پر یہی میری منتہائے آرزو ہے اپنے احسان اپنے فضل

وَجُودِكَ وَكَرَمِكَ يَا رَعُوفُ يَا رَحِيمُ يَا وَلِيَّيْ

اپنی سخاوت اور اپنے کرم کے طفیل اسے ٹھہراؤ یا رعون یا رحیم یا ولی اور جزا

مُجَازِيهِ عَنِّي وَعَنْ كُلِّ مَنْ آمَنَ بِهِ وَاتَّبَعَهُ مِنْ

میں تو آپ کو میری طرف سے اور ہر اس شخص کی طرف سے جو حضور پر ایمان لایا اور آپ کی پیروی کی

لِلْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ

مسلمان مردوں اور عورتوں سے جو ان میں سے زندہ ہیں اور جو فوت ہو چکے ہیں

أَفْضَلِ وَأَتَوَدَّاعًا مَّا جَازَيْتَ بِهِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ

افضل اور اہل کثیر جزا جو کسی کو تو نے دی ہے اپنی مخلوق سے

يَا قَوِيُّ يَا عَزِيزُ يَا عَلِيُّ وَأَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ بِحَقِّ مَا أَقْسَمْتُ

یا قوی یا عزیز یا علی اور سوال کرتا ہوں میں تجھ سے اے اللہ واسطہ ان اسما کے

بِهِ عَلَيْكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

جن کی قسم دی ہے میں نے تجھ پر کہ درود بھیج ہمارے آقا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَكُونَ السَّمَاءُ

پر بشمار اس کے جو پیدا کیا ہے تو نے اس سے پہلے کہ آسمان بنا یا گیا

مَبْنِيَّةٌ وَالْأَرْضُ مَدْحِيَّةٌ وَالْجِبَالُ عُلوِيَّةٌ وَالْعُيُونُ

اُور زمین بھائی گئی اور پہاڑ بلند کئے گئے چشمے

مُنْفَجِرَةٌ وَالْبَحَارُ مُسَخَّرَةٌ وَالْأَنْهَارُ مُنْهَمِرَةٌ وَالشَّمْسُ

جھاری ہوتے دریاؤں کو مسخر کیا گیا اور نہروں کو رواں کیا گیا اور سورج

مُضِيحَةٌ وَالْقَمَرُ مُضِيئٌ وَالنَّجْمُ مُنِيرٌ أَوْ لَا يَعْلَمُ أَحَدٌ

روشن اور چاند منور ہوا اور ستارے دکھ اور کسی کو علم نہیں تھا کچھ

حَيْثُ تَكُونُ إِلَّا أَنْتَ ۝ وَأَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ عَدَا

جساکہ تو ہے اور یہ کہ تو درود بھیجے آپ پر اور آپ کی آل پر بشار

كَلَامِكَ ۝ وَأَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ عَدَدَ آيَاتِ

اپنے کلام کے اور یہ کہ درود بھیجے تو آپ پر اور آپ کی آل پر قرآن کریم کی

الْقُرْآنِ وَحُرُوفِهِ وَأَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ عَدَدَ مَنْ

آیتوں اور حروف کے برابر اور یہ کہ تو درود بھیجے آپ پر اور آپ کی آل پر بشاران کے

يُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَأَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ عَدَدَ مَنْ لَوْ يُصَلِّي

جو آپ پر درود بھیجتے ہیں اور یہ کہ تو درود بھیجے آپ پر اور آپ کی آل پر بشاران لوگوں کے جو آپ پر

عَلَيْهِ وَأَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ مِنْ أَرْضِكَ وَأَنْ

درود میں بھیجتے اور یہ کہ تو درود بھیجے آپ پر اور آپ کی آل پر بشار بھرنے قری زمین کے اور یہ کہ

تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِلَهٍ عَدَدَ مَا جَرَىٰ بِهِ الْقَلَمُ فِي أُمَّرٍ

دُورٍ وَيَجِبُ تَعَلُّقُكُمْ بِرُؤُوسِكُمْ عَلَىٰ آلِ بَيْتِهِ اس کے ساتھ مسلم

الْكِتَابِ ۝ وَأَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِلَهٍ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ

نُورِ مَحْضُوعٍ فِيهِ أَوْرِيهِ كِتَابُكُمْ عَلَىٰ آلِ بَيْتِهِ اس کے جو پیدا کیا ہے

فِي سَبْعِ سَمَوَاتِكُمْ ۝ وَأَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِلَهٍ عَدَدَ مَا

تُونِي لِنِي سَمَوَاتِ السَّمَاوَاتِ فِيهِ أَوْرِيهِ كِتَابُكُمْ عَلَىٰ آلِ بَيْتِهِ اس کے

أَنْتَ خَالِقَهُ فَيَهِنَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ

بَارٍ تُوْجِدُ فِيهِ أَلْفَ مَلَكٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَلَكٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ

مَرَّةً ۝ وَأَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِلَهٍ عَدَدَ قَطْرِ الْمَطَرِ وَ

بَارٍ تُوْجِدُ فِيهِ أَلْفَ مَلَكٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَلَكٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ

كُلِّ قَطْرَةٍ قَطَرَتْ مِنْ سَمَائِكَ إِلَىٰ أَرْضِكَ مِنْ يَوْمٍ

بَارٍ تُوْجِدُ فِيهِ أَلْفَ مَلَكٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَلَكٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ

خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ ۝

كُونِي فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَلَكٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَلَكٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ

کونے دنیا کو پیدا کیا روز قیامت تک ہر دن میں ہزار بار

الْحَرْبِ السَّابِعِ فِي يَوْمِ الْاِحْدِ

ساتویں منزل یک شنبہ کے لئے

وَأَنْ تَصِلَى عَلَيْهِ وَعَلَى إِلِهِ عَدَدَ مَنْ سَبَّحَكَ

اور یہ کہ تو درود بھیجے آپ پر اور آپ کی آل پر بشمار اُن کے جنہوں نے تیری تہلیل کی

وَقَدْ سَأَلَ وَسَجَدَ لَكَ وَعَظَمَكَ مِنْ يَوْمِ

تیری پاکی بیان کی اور تجھے سجدے کئے اور بزرگی بیان کی تیری اُس دن سے لے کر

خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ

کہ تو نے پیدا کیا دنیا کو روزِ قیامت تک ہر دن میں ہزار بار

وَأَنْ تَصِلَى عَلَيْهِ وَعَلَى إِلِهِ عَدَدَ كُلِّ سَنَةٍ خَلَقْتَهُمْ

اور یہ کہ تو درود بھیجے آپ پر اور آپ کی آل پر بشمار ہر سال کے کہ پیدا کیا تو نے انہیں

فِيهَا مِنْ يَوْمٍ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ

اس سال میں اس دن سے لے کر کہ تو نے دنیا کو پیدا کیا روزِ قیامت تک ہر دن

يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ ۝ وَأَنْ تَصِلَى عَلَيْهِ وَعَلَى إِلِهِ عَدَدَ

میں ہزار مرتبہ اور یہ کہ تو درود بھیجے آپ پر اور آپ کی آل پر بشمار

السَّحَابِ الْجَارِيَةِ ۝ وَأَنْ تَصِلَى عَلَيْهِ وَعَلَى إِلِهِ عَدَدَ

چلنے والے بادلوں کے اور یہ کہ تو درود بھیجے آپ پر اور آپ کی آل پر بشمار

الرِّیَاحِ الذَّارِیَةِ مِنْ یَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْیَا لَی یَوْمِ

پنے والی ہواؤں کے عقیق دنیا کے دن سے لے کر یوم

الْقِیَمَةِ فِی كُلِّ یَوْمٍ اَلْفَ مَرَّةٍ ۝ وَاَنْ تَصَلِّیَ عَلَیْهِ وَعَلَىٰ

قیامت تک ہر دن میں ہزار بار اور یہ کہ تو درود بھیجے آپ پر اور آپ کی

اِلَیْهِ عَدَدَ مَا هَبَّتِ الرِّیَاحُ عَلَیْهِ وَحَرَكَتَهُ مِنْ الْاَعْصَانِ

آل پر بشمار ان چیزوں کے جن پر ہوائیں چلیں اور انہیں حرکت دی گئیں

وَالْاَشْجَارِ وَاَوْرَاقِ الشَّمَارِ وَالْاَزْهَارِ وَعَدَدَ مَا خَلَقْتَ عَلَیٰ

درختوں پھولوں کے پتوں اور گھروں سے اور بشمار اُس کے کہ پیدا کیا ہے تو نے

قَرَارِ اَرْضِكَ وَمَا بَیْنَ سَمَوَتِكَ مِنْ یَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْیَا

اپنی رُوئے زمین پہ بھانچے آسمانوں کے درمیان اُس دن سے لے کر کہ پیدا کیا تو نے

اِلَی یَوْمِ الْقِیَمَةِ فِی كُلِّ یَوْمٍ اَلْفَ مَرَّةٍ ۝ وَاَنْ تَصَلِّیَ عَلَیْهِ

روز قیامت تک ہر دن میں ہزار بار اور یہ کہ تو درود بھیجے آپ پر

وَعَلَىٰ اِلَیْهِ عَدَدَ اَمْوَاجِ مَحَارِكِ مِنْ یَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْیَا اِلَیٰ

اور آپ کی آل پر بشمار اپنے سمندوں کی لہروں کے دنیا کی تخلیق کے دن سے لے کر

یَوْمِ الْقِیَمَةِ فِی كُلِّ یَوْمٍ اَلْفَ مَرَّةٍ ۝ وَاَنْ تَصَلِّیَ عَلَیْهِ

یوم قیامت تک ہر دن میں ہزار مرتبہ اور یہ کہ تو درود بھیجے آپ پر

وَعَلَىٰ إِلَهِ عَدَدِ الرَّمْلِ وَالْحِطَّةِ وَكُلِّ جَبْرٍ وَمَدْرٍ خَلَقْتَهُ

اور آپ کی آل پر بشمار ریت کے ذروں، ککریوں اور پتھروں اور ڈھیلوں کے جنہیں تو نے پیدا

فِي مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا سَهْلَهَا وَجِبَالِهَا وَأُودِيَّتِهَا

فرمایا زمین کے مشرقوں اور مغربوں میں، نرم زمین میں، اُس کے پہاڑوں میں، اُس کی اودھیاں

مِنْ يَوْمٍ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ

میں، دُنیا کی تخلیق کے دن سے لے کر قیامت کے دن تک ہر دن میں ہزار

مَرَّةٍ ۝ وَأَنْ تَصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِلَهِ عَدَدِ نَبَاتِ الْأَرْضِ فِي

مرتبہ اور یہ کہ تو درود بھیجے آپ پر اور آپ کی آل پر بشمار زمین کی نباتات کے جو

قَبْلِهَا وَجُوفِهَا وَشَرْقِهَا وَغَرْبِهَا وَسَهْلِهَا وَجِبَالِهَا مِنْ

جانب قبلہ میں ہے، اُس کے عظم میں ہے، اُس کے شرق و غرب میں ہے، اُس کی ہموار زمین اور پہاڑوں میں

شَجَرٍ وَثَمَرٍ وَأُورَاقٍ وَزُرْعٍ وَجَمِيعِ مَا أَخْرَجْتَ وَمَا

ہے یعنی درخت اور پھل اور پتے اور کھیت اور تمام وہ چیزیں جو اس سے نکلیں اور جو

يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ نَبَاتِهَا وَبَرَكَاتِهَا مِنْ يَوْمٍ خَلَقْتَ الدُّنْيَا

اس سے نکلے گا نباتات سے اور اُس کی برکتوں سے یومِ تحقیق دنیا سے لے کر

إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ ۝ وَأَنْ تَصَلِّيَ عَلَيْهِ

روزِ قیامت تک ہر دن میں ہزار مرتبہ اور یہ کہ درود بھیجے تو آپ پر

وَعَلَىٰ إِلَهِ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ مِنَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ وَالشَّيَاطِينِ

اور آپ کی آل پر بشمار اس کے کہ پیدا کیا تو نے انسانوں سے اور جنوں سے اور شیاطین سے

وَمَا أَنْتَ خَالِقُهُمْ إِلَهًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفٌ

اور جس کو تو پیدا فرمانے والا ہے اُن سے روزِ قیامت تک ہر دن میں ہزار

مَرَّةً ۝ وَأَنْ تَصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِلَهِ عَدَدَ كُلِّ شَعْرَةٍ فِي

مرتبہ اور یہ کہ تو درود بھیجے ان پر اور آپ کی آل پر بشمار ہر بال کے جو اُن کے

أَبْدَانِهِمْ وَوُجُوهِهِمْ وَعَلَى رُءُوسِهِمْ مِنْذُ خَلَقْتَ الدُّنْيَا

بدنوں میں ہے اور اُن کے چہروں پر اور اُن کے سروں پر ہیں جب سے تو نے دُنیا کو پیدا فرمایا

إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفٌ مَرَّةً ۝ وَأَنْ تَصَلِّيَ عَلَيْهِ

قیامت کے دن تک ہر دن میں ہزار مرتبہ اور یہ کہ درود بھیجے تو آپ پر

وَعَلَى إِلَهِ عَدَدَ أَنْفَاسِهِمْ وَالْفَاطِهِمْ وَالْحَاطِهِمْ مِنْ يَوْمِ

اور آپ کی آل پر بشمار اُن کے سانوں کے اور اُن کے نطوں کے اور اُن کے دیکھنے کے اُس دن سے

خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفٌ مَرَّةً ۝

لے کہ جب تو نے دُنیا کو پیدا کیا روزِ قیامت تک ہر دن میں ہزار مرتبہ

وَأَنْ تَصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَى إِلَهِ عَدَدَ طَيْرَانِ الْجَنِّ وَخَفَقَانِ

اور یہ کہ تو درود بھیجے آپ پر اور آپ کی آل پر بشمار جنوں کی پروازوں کے اور انسانوں کی

الْإِنْسِ مِنْ يَوْمِ خَلَقْتُ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ

حکمتوں کے جس دن سے تو نے دُنیا کو پیدا کیا روزِ قیامت تک ہر دن میں

أَلْفَ مَرَّةٍ ۝ وَأَنْ تَصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ عَدَدَ كُلِّ بَهِيمَةٍ

ہزار بار اور یہ کہ تو دُرُود بھیجے آپ پر اور آپ کی آل پر بشمار ہر چار پائے کے

خَلَقْتَهَا عَلَىٰ أَرْضِكَ صَغِيرَةً وَكَبِيرَةً فِي مَشَارِقِ الْأَرْضِ

جس کو تو نے پیدا کیا اپنی زمین پر خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا زمین کے مشرقوں میں

وَمَغَارِبِهَا مِمَّا عُلِمَ وَمِمَّا لَمْ يُعْلَمِ إِلَّا أَنْتَ مِنْ يَوْمٍ

اُور زمین کے مغربوں میں جو معلوم ہے اور جن کو نہیں جانتا کوئی سوا تیرے اس دن سے

خَلَقْتُ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ ۝

کہ تو نے دُنیا کو پیدا کیا روزِ قیامت تک ہر دن میں ہزار مرتبہ

وَأَنْ تَصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ عَدَدَ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ وَعَدَدَ مَنْ

اور یہ کہ تو دُرُود بھیجے آپ پر اور آپ کی آل پر بشمار اُن کے جنہوں نے دُرُود بھیجا آپ پر اور جنہوں

لَوْ يُصَلِّي عَلَيْهِ وَعَدَدَ مَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي

نے دُرُود نہیں بھیجا آپ پر اور جو دُرُود بھیجیں گے آپ پر روزِ قیامت تک ہر

كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ ۝ وَأَنْ تَصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ عَدَدَ الْخِيَارِ

دن میں ہزار بار اور یہ کہ تو دُرُود بھیجے آپ پر اور آپ کی آل پر بشمار زندوں

وَالْمَوَاتِ وَعَدَمَا خَلَقْتَ مِنْ حَيْتَانٍ وَطَيْرٍ وَ

اور مردوں کے اور بشمار اس کے کہ پیدا کیا تو نے پھلیوں، پرندوں،

نَمْلِ وَمَخَلٍ وَحَشْرَاتٍ ۝ وَأَنْ تَصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ

چونشوں، ہشک، مٹیوں اور زمین کے کیڑوں سے اور یہ کہ تو درود بھیجے آپ پر اور آپ کی آل پر

فِي الْيَلِّ إِذَا يَغْشَىٰ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ ۝ وَأَنْ تَصَلِّيَ عَلَيْهِ

رات میں جب وہ پھا جائے اور دن میں جب وہ چھنے لگے اور یہ کہ درود بھیجے تو آپ پر

وَعَلَىٰ آلِهِ فِي الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ ۝ وَأَنْ تَصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ

اور آپ کی آل پر آخرت میں اور دنیا میں اور یہ کہ درود بھیجے تو آپ پر اور آپ کی آل پر

مُنْذُ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا إِلَىٰ أَنْ صَارَ كَهَلًا مَهْدِيًّا

اُس وقت سے لے کر جب آپ اہولکے میں پختے تھے یہاں تک کہ آپ میاں عمر بڑایت یافتہ ہوئے

فَقَبْضَتَهُ إِلَيْكَ عَدَلًا مَرْضِيًّا لَتَبْعَتُهُ شَفِيعًا حَقِيًّا ۝

پس بٹھا لیا تو نے آپ کو اپنی طرف درآن حالیکہ آپ عادل اور پسندیدہ تھے تاکہ تو اٹھائے آپ کو شفیع اور

وَأَنْ تَصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ عَدَدَ خَلْقِكَ وَرِضَىٰ نَفْسِكَ

مہلک بنا کر اور یہ کہ تو درود بھیجے آپ پر اور آپ کی آل پر بشمار اپنی مخلوق کے اور اپنی ذات کی خوشنودی کے

وَزِينَةَ عَرْشِكَ وَمِدَادَ كَلِمَاتِكَ وَأَنْ تُعْطِيَهُ الْوَسِيلَةَ

اپنے عرش کے وزن کے برابر اور اپنے کلمات کی سیاہی کے برابر اور یہ کہ تو عطا کرے آپ کو وسیلہ

وَالْفَضِيلَةَ وَالذَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ وَالْحَوْضَ الْمُرْوودَ وَالْقَامَ

اور فضیلت اور درجہ بلند اور حوض جہاں سب وارد ہوں اور مقام

الْمَحْمُودَ وَالْعِزَّ الْمَسْدُودَ وَأَنْ تُعْطَوْا بِرُحْمَانِهِ وَأَنْ

محمود اور ہمیشہ رہنے والی عزت اور یہ کہ بزرگ کرے تو آپ کی دلیل کو اور یہ کہ

تُسَرِّفَ بُنْيَانَهُ وَأَنْ تَرْفَعَ مَكَانَهُ وَأَنْ تَسْتَعْمِلَنَا يَا مَوْلَانَا

بند کرے تو آپ کی شان کو اور یہ کہ اونچا کرے تو مرتبہ ان کا اور یہ کہ عامل بنا دے تو ہمیں اپنے ہیے والا

بِسُنَّتِهِ وَأَنْ تُبَيِّنَنَا عَلَى مِلَّتِهِ ۝ وَأَنْ تَحْشُرَنَا فِي رُضْرِيَّتِهِ

آپ کی سنت کا اور یہ کہ موت دے تو ہمیں آپ کی ملت پر اور یہ کہ اٹھائے تو ہمیں ان کے روضوں

وَتَحْتِ لُؤَائِهِ وَأَنْ تَجْعَلَنَا مِنْ رُفَقَائِهِ وَأَنْ تُورِدَنَا

اور ان کے جہنم سے کے نیچے اور یہ کہ بنائے تو ہمیں آپ کے رفقاء سے اور وارد کرے تو ہمیں

حَوْضَهُ وَأَنْ تَسْقِينَا بِكَاسِهِ وَأَنْ تَنْفَعَنَا بِمُحَبَّتِهِ وَأَنْ

آپ کے حوض پر اور یہ کہ پائے تو ہمیں آپ کے ساغر سے اور یہ کہ نفع دے تو ہمیں آپ کی محبت سے

تَتُوبَ عَلَيْنَا وَأَنْ تُعَافِينَا مِنْ جَمِيعِ الْبَلَاءِ وَالْبُلُوْءِ وَالْفِتَنِ

اور یہ کہ توبہ سے توجہ فرمائے ہم پر اور یہ کہ بھائے تو ہمیں تمام بلاؤں اور ہولناکیوں اور فتنوں سے

مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَأَنْ تُرَحِّمَنَا وَأَنْ تُعْفُو عَنَّا

جو ظاہر ہوئی اور جو مخفی نہیں اور یہ کہ رحم فرمائے تو ہم پر اور یہ کہ توہین فرمائے ہم سے

وَتَغْفِرْ لَنَا وَلِجَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ

اور بخش دے میں اور تمام مومن مردوں اور عورتوں اور مسلمان مردوں

وَالْمُسْلِمَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ

اور عورتوں کو جو زندہ ہیں ان میں سے اور جو فوت ہو چکے ہیں اور سب تعزیر اللہ کے ہیں

الْعَالَمِينَ ۝ وَهُوَ حَسْبِي وَنِعْمَ الْوَكِيلُ وَلَا حَوْلَ وَلَا

جو رب العالمین ہے وہی کافی ہے مجھے اور وہ بہترین کارساز ہے اور نہیں ہے میرے سوا کوئی

قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

طاقت اور نہ کوئی قوت مگر اللہ کے ساتھ جو بزرگ اور برتر ہے اے اللہ! درود بھیج ہمارے آقا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَا سَبَّحَتْ الْحَمَائِمُ

محمدؐ اور آپ کی آل پر جب تک زمرہ سبج ہوں کیو تر

وَحَمَّتِ الْعَوَائِمُ وَسَرَّحَتِ الْبَهَائِمُ وَنَفَعَتِ السَّمَائِمُ

اور چادوں طرن گھومتے رہیں پر بھے اور چراگریں چار پائے اور فائدہ دیں قویہ

وَسَدَّتِ الْعَمَائِمُ وَنَمَتِ النَّوَائِمُ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

اور باندھے ہائیں حملے اور اٹتی رہیں اٹنے والی چیزیں اے اللہ! درود بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَا أَبْلَجَ الْإِصْبَاحُ

ہمارے آقا محمدؐ اور آپ کی آل پر جب تک روشن ہو صبح

وَهَبَتِ الرِّيحُ وَدَبَّتِ الْأَشْبَاحُ وَتَعَاقَبَ الْغُدُوُّ وَالرُّوْحُ

اور چلا کریں ہوائیں اور چلا کریں بدن اور پے در پے آیا کریں صبح اور شام

وَتَقَلَّدَتِ الصِّفَا حُ وَاعْتَقَلَّتِ الرِّمَاحُ وَصَحَّتِ الْجَسَادُ

اور سہاں ہوا کریں تلواریں اور باندھے جائیں نیزے اور درست رہیں اجسام

وَالْأَرْوَاحُ ۝ اللَّهُ وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

اور ارواح اے اللہ! درود بھیج ہمارے آقا محمد پر اور آپ کی آل پر

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَا دَارَتِ الْأَفْلَاقُ وَدَجَّتِ الْأَحْلَاقُ وَ

جب تک گردش میں رہیں آسمان اور تاریک رہیں اندھیری راتیں اور

سَبَحَتِ الْأَمْلاَكُ ۝ اللَّهُ وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

تسبیح کرتے رہیں فرشتے اے اللہ! درود بھیج ہمارے آقا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَ

آپ کی آل پر جس طرح درود بھیجا تو نے ہمارے سردار ابراہیم پر اور

بَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ

برکتیں نازل فرما ہمارے آقا محمد پر اور آپ کی آل پر جس طرح برکتیں نازل فرمائیں

عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ ۝

تو نے ہمارے سردار ابراہیم پر سارے جہانوں میں بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگی والا ہے

اللَّهُ وَصَلَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَا

اے اللہ! درود بھیج ہمارے آقا محمدؐ پر اور ہمارے آقا محمدؐ کی آل پر جب تک
طُلَعَتِ الشَّمْسُ وَمَا صَلَّيْتَ الْخُمْسُ وَمَا تَأْتِي بَرَقٌ

طلوع ہوتا رہے سورج اور جب تک پڑھی جائیں پانچ نمازیں اور جب تک چمکتی رہے کبلی
وَتَدْفِقُ وَدَقٌّ وَمَا سَبَّحَ رَعْدٌ ۝ اللَّهُ وَصَلَ عَلَى سَيِّدِنَا

اور برساتا رہے مینہ اور صبح کرتا رہے رعد اے اللہ! درود بھیج ہمارے آقا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مِثْلَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

محمدؐ پر اور آپؐ کی آل پر بمقدار پڑی آسمانوں اور زمین کے

وَمِثْلُ مَا بَيْنَهُمَا وَمِثْلُ مَا سَلَّتْ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ ۝ اللَّهُ

اور بمقدار اس کے جو زمین و آسمانوں کے درمیان ہے اور جس قدر کہ چلے تو ہر چیز سے اس کے بعد اے اللہ!

كَمَا قَامَ بِأَعْبَاءِ الرِّسَالَةِ وَأَسْتَنْقَذَ الْخَلْقَ مِنَ الْجَهَالَةِ

جس طرح مستعدی سے کھڑے ہوئے آپؐ رسالت کے بارہائے گرام کے ساتھ اور نکال آپؐ نے مخلوق کو جہالت

وَجَاهِدَ أَهْلَ الْكُفْرِ وَالضَّلَالَةِ وَدَعَا إِلَى تَوْحِيدِكَ

سے اور جہاد کیا اہل کفر و ضلالت سے اور بلایا تیری توحید کی طرف

وَقَا سَعَةَ الشَّدَائِدِ فِي إِرْشَادِ جَبِيدِكَ فَأَعْطِهِ اللَّهُ

اور برداشت کیا مصائب کو تیرے بندوں کو ہدایت کرنے میں پس اس طرح عطا فرما تو آپؐ کو اے اللہ!

سُؤْلُهُ وَبَلَغَهُ مَا مَوْلَاهُ وَآتَاهِ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالذَّلِجَةَ

جو آپ نے مانگا اور پہنچا آپ کو آپ کے مقصد تک اور بخش دے آپ کو وسیلہ، بزرگی اور درجہ

الرَّفِيعَةَ وَابْعَثَهُ الْمَقَامَ الْمُحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ

بلند اور مبعوث فرما آپ کو مقام محمود پر جس کا تو نے آپ سے وعدہ فرمایا ہے بے شک

لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ ۝ اللَّهُمَّ وَاجْعَلْنَا مِنَ الْمُتَّبِعِينَ

تو وعدہ خلافی نہیں کرتا اے اللہ بنا دے ہمیں آپ کی شریعت کے تابع لوگوں میں

لِشَرِيعَتِهِ الْمُتَّصِفِينَ بِمَحَبَّتِهِ الْمُهْتَدِينَ بِهَدْيِهِ

جو متصف ہیں آپ کی محبت کے ساتھ جو ہدایت یافتہ ہیں آپ کی رہنمائی کے ساتھ

وَسِيرَتِهِ وَتَوْفِقًا عَلَى سُنَّتِهِ وَلَا تَحْرِمْنَا فَضْلَ شَفَاعَتِهِ

اور آپ کی سیرت کے ساتھ اور وفات دے ہمیں آپ کی سنت پر اور نہ محروم کرہیں آپ کی شفاعت کے فضل سے

وَاحْتِرْنَا فِي أَتْبَاعِهِ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِينَ وَأَشْيَاعِهِ السَّالِقِينَ

اور اٹھام کو آپ کے غلاموں میں جن کی پیشانیاں اور ہاتھ پاؤں جھک رہے ہوں اور آپ کے حق میں جو

وَأَصْحَابِ الْيَمِينِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ۝ اللَّهُمَّ وَصَلِّ عَلَى

آگے آئے ہیں کے اعلان لوگوں میں جو دائیں طرف ہوں گے اور رحم الراحمین اے اللہ! درود بھیج

مَلَائِكَتِكَ وَالْمُقَرَّبِينَ وَعَلَى أَنْبِيَائِكَ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى

اپنے فرشتوں پر اور اپنے مقرب بندوں پر اور اپنے نبیوں پر اور رسولوں پر اور

أَهْلِ طَاعَتِكَ أَجْمَعِينَ وَاجْعَلْنَا بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ مِنْ

اپنے سب فرمانبرداروں پر اور بنا دے ان میں سے جس ان پر درود بھیجنے کی برکت سے

الْمَرْحُومِينَ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمَبْعُوثِ

جن پر رحم کیا گیا ہے اے اللہ! درود بھیج ہمارے آقا محمد پر جنہیں مبعوث کیا گیا ہے

مِنْ تَهَامَةٍ وَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالْإِسْتِقَامَةِ وَالشَّفِيعِ

تہامہ کے علاقہ سے اور حکم کرنے والے میں نیکی اور ثابت قدمی کے ساتھ اور شفاعت

لِأَهْلِ الذُّنُوبِ فِي عَرَصَاتِ الْقِيَامَةِ ۝ اللَّهُمَّ أَسْبِغْ عَنَّا

کرنے والے ہیں گنہگاروں کی میدانِ قیامت میں اے اللہ! پہنچا ہماری طرف سے

نَيْتِنَا وَشَفِّعِنَا وَجَنِّبْنَا أَفْضَلَ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ وَالْبَعْثِ

ہمارے نبی اور شفیع اور ہمارے حبیب کو بہترین درود اور سلام اور مبعوث کر آپ کو

الْمَقَامِ الْمَحْمُودِ الْكَرِيمِ وَإِلَيْهِ الْفَضِيلَةُ وَالْوَسِيلَةُ

مقامِ محمود پر جو عزت والا ہے اور مرحمت فرما آپ کو فضیلت، وسیلہ

وَالدَّرَجَةُ الرَّفِيعَةُ الَّتِي وَعَدْتَهُ فِي الْمَوْقِفِ الْعَظِيمِ ۝

اور درجہ بلند جس کا تو نے آپ سے وعدہ فرمایا ہے موقعِ عظیم میں میدانِ حشر میں

وَصَلِّ اللَّهُمَّ عَلَيْهِ صَلَاةً دَائِمَةً مُتَّصِلَةً تَتَوَالَى تَدَامُ

اور درود بھیج اے اللہ! آپ پر ایسا درود جو ہمیشہ رہے اور باہم متصل ہو رہے ہو اور ہمیشہ رہے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ مَا لَحَ بَارِقٌ وَذَرَّ شَارِقٌ وَ

اے اللہ! درود بھیج آپ پر اور آپ کی آل پر جب تک کہ چمکا کرے بجلی اور چمکا کرے سورج اور

وَقَبَ غَاسِقٌ وَأَنْهَمَرَّ وَاذِقُ ۝ وَصَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ

اندھیری ہو کرے رات اور برسا کرے بادل اور درود بھیج آپ پر اور آپ کی آل پر

مِلْءَ الْوُجْهِ وَالْفَضَاءِ وَمِثْلَ نُجُومِ السَّمَاءِ وَعَدَدِ الْقَطْرِ

بمقدار پوری فوج محفوظ کے اور فضا کے اور مثل آسمان کے ستاروں کے اور بشمار پلنی کے قطروں

وَالْحِطَّةِ وَصَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ صَلَوةً لَا تَعْدُ وَلَا تَحْطُ ۝

اور کھربوں کے اور درود بھیج آپ پر اور آپ کی آل پر ایسا درود جو نہ شمار کیا جاسکے اور نہ گناہا کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ زِينَةَ عَرْشِكَ وَمَبْلَغَ رِضَاكَ وَمِدَادَ

اے اللہ! درود بھیج آپ پر بمقدار وزن اپنے عرش کے اور باندازہ اپنی خوشنودی کی ہنسا کے اور بمقدار

كَلِمَاتِكَ وَمُنْتَهَى رَحْمَتِكَ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ

اپنے کلمات کی سیاہی کے اور اپنی رحمت کی نہایت کے اے اللہ! درود بھیج آپ پر اور آپ

آلِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ وَبَارِكْ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَزْوَاجِهِ

کی آل پر اور آپ کی ازواج پر اور آپ کی اولاد پر اور برکتیں نازل فرما آپ پر اور آپ کی آل پر اور آپ کی

وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ عَلَىٰ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَ

ازواج پر اور آپ کی اولاد پر جس طرح اور بھیجا تو نے اور برکت نازل کی تو نے ہمارے سردار ابراہیم پر اور

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُّجِيدٌ ۝

اور آپ کی آل پر بے شک تو حمید مجید ہے اور

جَارِهِ عَنَّا أَفْضَلَ مَا جَارَيْتَ بِنِيًّا عَنِ أُمَّتِهِ

جڑا سے آپ کو ہماری طرف سے بہترین جزا جو دی ہے تو نے کسی نبی کو اس کی امت سے

وَأَجْعَلْنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ بِمَنْهَاجِ شَرِيعَتِهِ وَاهْدِنَا

اور بنا دے میں ان لوگوں میں جو ہدایت پلنے والے ہیں آپ کی شریعت کی راہ سے اور ہدایت میں

بِهَدْيِهِ وَتَوْفِقِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَحْشُرْنَا يَوْمَ الْفِرَاقِ

آپ کی سیرت سے اور وفات سے ہیں آپ کی ملت پر اور اٹھا ہم کو بڑی گھبراہٹ کے دن

الْأَكْبَرِ مِنَ الْأَمْنِينَ فِي زُمْرَتِهِ وَأَمْتَنَا عَلَىٰ حُبِّهِ

امن والوں میں سے جو آپ کے زمرہ میں ہیں اور موت سے ہم کو آپ کی محبت پر

وَحُبِّ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَذُرِّيَّتِهِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ

اور آپ کی آل، اصحاب اور اولاد کی محبت پر اے اللہ! درود بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَفْضَلَ أَنْبِيَائِكَ وَأَكْرَمِ أَصْفِيَائِكَ

ہمارے آقا محمد پر جو تیرے سب نبیوں سے افضل اور تیرے سب برگزیدوں سے زیادہ

وَأِمَامِ أَوْلِيَائِكَ وَخَاتَمِ أَنْبِيَائِكَ وَحَبِيبِ

مکرم اور تیرے اولیاء کے امام اور تیرے انبیاء کے خاتم اور رب العالمین کے حبیب

رَبِّ الْعَالَمِينَ وَشَهِيدِ الْمُرْسَلِينَ وَشَفِيعِ الْمُذْنِبِينَ

مُرسَلین کے گواہ گنہگاروں کے شفیع

وَسَيِّدِ وُلْدِ آدَمَ كَمَا ذَكَرَ بَلَدٌ كَمَا كَانَتْ

سب اولادِ آدم کے سردار جن کا ذکر بلند کیا گیا ہے

الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ الْبَشِيرِ النَّذِيرِ السِّرَاجِ الْمُنِيرِ

مقرب فرشتوں میں خوشخبری دینے والے، بروقت ڈرانے والے، آفتابِ عالم تاب

الصَّادِقِ الْأَمِينِ الْحَقِّ الْمُبِينِ الرَّءُوفِ الرَّحِيمِ

سچے، امین، مجتہم، سچائی، کھولنے والے، چمکانے والے، مہربان، نازدہم، فرماتے

الْهَادِي إِلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ الَّذِي آيَتُهُ سَبْعًا

والے، ہدایت دینے والے راہِ راست کی طرف وہ ذاتِ پاک جس کو عطا فرمایا ہے تو نے

مَنْ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ نَبِيَّ الرَّحْمَةِ وَهَادِي

سُورَةَ فَاتِحَةِ كِتَابِ آيَاتِهِ أَمَّا نَبِيُّ الرَّحْمَةِ وَهَادِي

الْأُمَّةِ أَوَّلَ مَنْ تَنَسَّقُ عَنْهُ الْأَرْضُ وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ

بادی، سب سے پہلے جن سے زمین شق ہوگی اور جنت میں داخل ہوں گے

وَالْمُعْتَدِ بِسَيِّدِنَا جِبْرِيلَ وَسَيِّدِنَا ميكائيلَ الْمُبَشِّرِ

اور جن کی تائید جبرئیل اور میکائیل سے کی گئی ہے جن کی بشارت

بِهِ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ الْمُصْطَفَى الْمُجْتَبَى الْمُنتَخَبِ

تورات اور انجیل میں مذکور ہے چنے چوئے منتخب

أَبِي الْقَاسِمِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

ابوالقاسم محمد بن عبد اللہ بن

عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمٍ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

عبد المطلب بن ہاشم اے اللہ! درود بھیج

مَلَائِكَتِكَ الْمُقَرَّبِينَ الَّذِينَ يُسَبِّحُونَ إِلَيْكَ

اپنے فرشتوں پر مقربین پر جو تسبیح کرتے ہیں رات

وَالنَّهَارَ لَا يَفْرَوْنَ وَلَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ

اور دن نہ سستی کرتے ہیں اور نہ نافرمانی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا ہے اور

يَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۝ اللَّهُمَّ وَكَمَا اصْطَفَيْتَهُمْ سَفَرًا

بجالاتے ہیں جو ان کو امر کیا جاتا ہے اے اللہ! جس طرح جن لیا ہے تو نے انہیں پناہ سفر

إِلَى رُسُلِكَ وَأَمْنًا عَلَى وَجْهِكَ وَشَهَادَةً عَلَى خَلْقِكَ

اپنے رسولوں کی طرف اور این لہنی وحی پر اور گواہ اپنی مخلوق پر

وَخَرَقَتْ لَهُمْ كُنُفَ مَجْبُوكَ وَأَطْلَعَتْهُمْ عَلَى مَكُونِ

اور چاک کر دیا ہے تو نے ان کے بٹے اپنے جہاات کے کناروں کو اور آگاہ کیا ہے تو نے انہیں اپنے

عِيَدِكَ وَاخْتَرْتَ مِنْهُمْ خَزَنَةَ لِبَدْتِكَ وَحَمَلَةَ لِعَرْشِكَ

عجب پر اور پسند کیا ہے تو نے ان میں سے بعض کو بطور نگہبان اپنی جنت کا اور بعض کو اٹھانے والا اپنے

وَجَعَلْتَهُمْ مِنْ أَكْثَرِ جُودِكَ وَفَضَّلْتَهُمْ عَلَى الْوَرَاءِ

عرش کا اور بنا دیا ہے تو نے انہیں اپنے لشکر اور بزرگی دی ہوئے نہیں اپنی مخلوق پر اور

أَسْكَنْتَهُمُ السَّمَوَاتِ الْعُلَى وَنَزَّهْتَهُمْ عَنِ الْمَعَاصِي

آباد کیا ہے تو نے انہیں بلند آسمانوں پر اور پاک کیا ہے انہیں گناہوں سے

وَالدَّنَائِاتِ وَقَدْ سَتَمَهُمْ عَنِ النَّقَائِصِ وَالْآفَاتِ

اور بُری محسوسوں سے اور پاکیزہ کیا تو نے ان کو نقائص اور آفتوں سے

فَصَلِّ عَلَيْهِمْ صَلَاةَ دَائِمَةٍ تَزِيدُهُمْ بِهَا فَضْلًا وَبِحَمَلِنَا

پس درود بھیج ان پر ایسا درود جو ہمیشہ رہنے والا ہو زیادہ کرے تو ان کو اس کی برکت سے

لِاسْتِغْفَارِهِمْ بِهَا أَهْلًا ۝ اللَّهُ وَصَلِّ عَلَى جَمِيعِ

بزرگی میں اور بنائے تو ہمیں اس کے فضائل ان کے استغفار کا استحقاق لے اللہ اور درود بھیج اپنے تمام

أَنْبِيَائِكَ وَرُسُلِكَ الَّذِينَ شَرَحْتَ صُدُورَهُمْ وَ

نبیوں اور اپنے رسولوں پر جن کے سینوں کو تو نے کھول دیا اور

أَوْدَعْتَهُمْ حِكْمَتَكَ وَطَوَّقْتَهُمْ نُبُوتَكَ وَأَنْزَلْتَ

جن کے پاس تو نے اپنی حکمت کو بطور امانت رکھا اور گھون پر بنایا ان کو اپنی نبوت کا اور نازل فرمایا تو نے

عَلَيْهِمْ كُتِبَتْ وَهَدَيْتَ بِهِمْ خَلْقَكَ وَدَعَوَالِي

اُن پر اپنی کتابوں کو اور ہدایت دی تو نے ان کے ذریعہ اپنی مخلوق کو اور بلایا انہوں نے

تَوْجِيدِكَ وَشَوْقُوا إِلَى وَعْدِكَ وَخَوْفُوا مِنْ

تیری توحید کی طرف اور شوق دلایا تیرے وعدہ کرم کا اور ڈرایا تیری

وَعِيدِكَ وَارْتَدُّوا إِلَى سَبِيلِكَ وَقَامُوا بِحُجَّتِكَ

ذمکی سے اور راہنمائی کی تیری راہ کی طرف اور کھڑے ہوئے تیری حجت اور

وَدَلِيلِكَ وَسَلِمُوا إِلَيْهِمْ وَسَلِيمًا وَهَبْ لَنَا يَا صَلَاةَ

دلیل کے ساتھ اور سلام بھیج اے اللہ ان پر بہترین سلام اور عطا فرما ہمیں اُن پر

عَلَيْهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

دُرود بھیجنے کا اجر عظیم اے اللہ دُرود بھیج ہمارے آقا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً دَائِمَةً مَقْبُولَةً تُوَدَّى

اور آپ کی آل پر ایسا دُرود جو ہمیشہ رہنے والا مقبول ہو گا اور ناپٹے

بِهَاعِنَا حَقَّهُ الْعَظِيمُ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

تو اس کے بعد ہماری طرف سے آپ کے عظیم حق کو اے اللہ دُرود بھیج ہمارے آقا محمد پر

صَاحِبِ الْحُسْنِ وَالْجَمَالِ وَالْبَهْجَةِ وَالْكَامِلِ وَالْبَهَاءِ

جو صاحب حسن و جمال اور صاحب شگفتگی و کمال اور روشنی

وَالنُّورِ وَالْوَلَدَانِ وَالْحُورِ وَالْغُرُفِ وَالْقُصُورِ وَاللِّسَانِ

ونور والے ، غمناؤں ، محروں ، آراستہ کمروں اور محلات کے ٹالک میں جن کی زبان

الشُّكْرِ وَالْقَلْبِ الْمَشْكُورِ وَالْعِلْمِ الْمَشْهُورِ وَالْجَيْشِ

شکر گزار اور جن کے دل کی شہادت خداوند عالم نے کی۔ جن کا علم مشہور ہے اور جن کا لشکر

الْمُنْصُورِ وَالْبَنِينَ وَالْبَنَاتِ وَالْأَزْوَاجِ الطَّاهِرَاتِ

غالب و منصور ہے بیٹوں اور بیٹیوں کے باپ پاک بیبیوں کے خاوند

وَالْعُلُوعِ عَلَى الدَّرَجَاتِ وَالزَّمْزَمِ وَالْمَقَامِ وَالْمَشْعِرِ الْحَرَامِ

درجات میں سب سے بلند زمزم ، مقام ، مشعر حرام کے والی

وَالْجَنَابِ لِثَامٍ وَتَرْبِيَةِ الْإِيْتَامِ وَالْحَجِّ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ

گناہوں سے اجتناب کرنے والے یتیموں کی پرورش کرنے والے ، حج ، تلاوت قرآن

وَتَسْبِيحِ الرَّحْمَنِ وَصِيَامِ رَمَضَانَ وَاللِّوَاءِ الْمَعْقُودِ

اور تسبیح رحمن اور صیام رمضان میں مصروف رہنے والے ، باندھے ہوئے پرچم کے علمدار ،

وَالْكَرَمِ وَالْجُودِ وَالْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ صَاحِبِ الرَّعْبَةِ

بزرگی ، سخاوت ، ایثار عہد کی صفات سے موصوف ،

وَالدَّرْعِيِّ وَالْبَغْلَةِ وَالنَّجِيبِ وَالْحَوْضِ وَالْقَضِيبِ

نیک کاموں کی رنجست رکھنے والے اور اللہ والے محمد اور اسل جھوڑے کے شہسوار حوض کوثر اور تنویر کے ٹالک ،

النَّبِيِّ الْاَوَابِ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ الْمُنْعَوْتِ فِي الْكِتَابِ

ایسے نبی جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، حق بات کہنے والے جن کی تعریف ہر آسمانی کتاب میں

النَّبِيِّ عَبْدِ اللَّهِ النَّبِيِّ كَرَّمَ اللَّهُ النَّبِيَّ مُحَمَّدَ اللَّهِ النَّبِيِّ

کی آتی ہے ایسے نبی جو اللہ کے بندے ہیں ایسے نبی جو اللہ کا خزانہ ہیں ایسے نبی جو اللہ کی دلیل ہیں ایسے نبی

مَنْ اطَاعَهُ فَقَدْ اطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عصاهُ فَقَدْ عصَى

جس نے آپ کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی جس نے آپ کی نافرمانی کی گویا اس نے اللہ

اللَّهُ النَّبِيُّ الْعَرَبِيُّ الْقُرَشِيُّ الزَّمْزَمِيُّ الْمَكِّيُّ الْهَمَامِيُّ

کی نافرمانی کی ایسے نبی جو عربی، قرشی، زمزمی، مکی، تہامی ہیں

صَاحِبِ لَوْجِهِ الْجَبِيلِ وَالطَّرْفِ الْكَجِيلِ وَالْخَدِّ

غوصورت پھرے والے، سر میں آنکھوں والے، گلگون

الرَّاسِ وَالْكَوْثَرِ وَالسَّلْسَبِيلِ قَاهِرِ الْمُضَادِّينَ مُبِيدِ

رُخْصَدِ الْوَالِئِ، کوثر و سلسبیل کے مالک، مخالفین پر غالب آنے والے، کافروں

الْكَافِرِينَ وَقَاتِلِ الْمُشْرِكِينَ قَائِدِ الْغُرِّ الْمُجَلِّينَ إِلَى

کی بیخ کنی کرنے والے مشرکین کو تہ تیغ کرنے والے چمکتی پیشانیوں اور چمکتے ہونے والے ہاتھ پاؤں

جَنَّاتِ النَّعِيمِ وَجِوَارِ الْكَرِيمِ صَاحِبِ سَيْدِنَا جَبْرِئِيلَ

والوں کو جنت نعیم کی طرف اور جوارِ کریم کی طرف قیادت کرنے والے، جبرئیل کے صاحب

عَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَسُولِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَشَفِيعِ الْمُذْنِبِينَ

رب العالمین کے رسول، گنہگاروں کے شفیع

وَخَايَةِ الْغَمَامِ وَمِصْبَاحِ الظَّامِ وَقَمَرِ الشَّمَا مِصْلَةِ

اور بارشِ بر رحمت کی اور چراغِ اندھیروں کے اور چودھوں کے چاندِ درود

اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى إِلِهِ الْمُصْطَفِينَ مِنْ أَطْهَرِ جِبَلَةٍ

یہی اللہ تعالیٰ آپ پر آپ کی آل پر جو پختے ہوئے ہیں پاکیزہ ترین گروہ سے

صَلَاةٍ دَائِمَةٍ عَلَى الْإِبْدِ غَيْرِ مُضْمَحِلَةٍ صَلَّى اللَّهُ

ایسا درود جو ابد تک ہمیشہ رہے منقطع نہ ہو درودِ صحیح اللہ تعالیٰ

عَلَيْهِ وَعَلَى إِلِهِ صَلَاةٌ يَتَجَلَدُ بِهَا جُورَةٌ وَيُشْرَفُ

آپ پر اور آپ کی آل پر ایسا درود کہ تازہ ہوتی رہے اس سے آپ کے دل کی مسرت

بِهَافِي الْمِعَادِ بَعَثُهُ وَنَشُورَةٌ فَصَلِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى

اور بلند ہو اس کی برکت سے روزِ قیامت آپ کا قبر سے باہر تشریف لانا پس درود صحیح اللہ تعالیٰ آپ

إِلَى الْجَوْالِقِ الطَّوَالِعِ صَلَاةٌ تَجُودُ عَلَيْهِمْ أَجُودَ الْغِيُوثِ

پر اور آپ کی آل پر جو چمکنے والے ستارے ہیں ایسا درود جو بر سے ان پر موسلا دارِ مینہ کی طرح

الْهُوَامِعِ أَرْسَلَةٌ مِنْ أَرْحِ الْعَرَبِ مِيزَانًا وَأَوْضَحَهَا

بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عرب کے اُس قبیلہ سے جس کا میزان سب بھاری ہے اور جس کی گفتگو

بَيَانًا وَأَفْصَحَهَا لِسَانًا وَأَشْمَخَهَا إِيْمَانًا وَأَعْلَمَهَا مَقَامًا

واضح ہے جس کی زبان فصیح ہے اور جس کا ایمان بلند ہے جس کا مرتبہ بلند تر ہے

وَأَحْلَمَهَا كَلِمًا وَأَوْفَاهَا ذِمَامًا وَأَصْفَهَا رِغَامًا وَأَوْظَرَهَا

جس کا کلام شیریں ہے جس کی بزرگی مکمل ہے جس کا غیر خاص تر ہے پس ریح کر دیا

الطَّرِيقَةَ وَنَصَحَ الْخَلِيقَةَ وَشَهَرَ الْإِسْلَامَ وَكَثَرَ الْأَنْعَامَ

اس نے راستہ کو اور نصیحت کی مخلوق کو اور مشہور کیا اسلام کو اور توڑ ڈالا بتوں کو

وَأَظْهَرَ الْأَحْكَامَ وَحَطَرَ الْحَرَامَ وَعَوَّرَ بِالْإِنْعَامِ صَلَّى اللَّهُ

اور ظاہر کیا احکام شریعت کو اور منع کیا حرام کو عا کیا اپنے انعام کو درود بھیجے اللہ تعالیٰ

عَلَيْهِ وَعَلَى الْإِبْنِ فِي كُلِّ مَحْفَلٍ وَمَقَامٍ أَفْضَلِ الصَّلَاةِ

آپ پر اور آپ کی آل پر ہر محفل میں ہر مقام میں بزرگ ترین درود

وَالسَّلَامِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ عَوْدًا أَوْ بَدَأَ صَلَاةً

و سلام درود بھیجے اللہ تعالیٰ آپ پر اور آپ کی آل پر بار بار نوٹ کرتے ہو اور نیانیا درود جو

تَكُونُ ذَخِيرَةً وَوَرْدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ صَلَاةً

ذخیرہ ہو اور ورد ہو درود بھیجے اللہ تعالیٰ آپ پر اور آپ کی آل پر ایسا درود

تَامَّةٌ زَاكِيَةٌ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ صَلَاةً تَتَّبِعُهَا

جو مکمل ہو پاکیزہ ہو اور درود بھیجے اللہ تعالیٰ آپ پر اور آپ کی آل پر ایسا درود جس کے پیچھے آئے

رُوحٌ وَرِيحَانٌ وَيُعَقِّبُهُمَا مَغْفِرَةٌ وَرِضْوَانٌ ۝ وَصَلَّى اللَّهُ

رحمت اور راحت اور مترتب ہو اس پر مغفرت اور خوشنودی اور درود بھیجے اللہ تعالیٰ

عَلَىٰ أَفْضَلِ مَنْ طَابَ مِنْهُ النَّجَارُ وَسَابِيهِ الْفَخَّارُ

اُس بزرگ ترین پر جس سے حسب پائیزہ ہوئے مکارم اخلاق کو ملندی نصیب ہوئی

وَاسْتَنَارَتْ بِنُورِ جَبِينِهِ الْقَمَارُ ۝ وَتَضَاءَتْ عِنْدَ

اور جس کی پیشانی کے نور سے چاند منور ہوئے جس کے دست مبارک کی سخاوت کے

جُودِ يَمِينِهِ الْعُمَاءُ وَالْبَحَارُ سَيِّدَانَا وَبَيْنَنَا مُحَمَّدٌ

سامنے بادل اور سمندر چھیر بن گئے یعنی ہمارے آقا اور ہمارے نبی محمد پر

الَّذِي بِيَاهِرِ آيَاتِهِ أَضَاءَتْ الْأَنْجَادُ وَالْأَعْوَارُ بِمُعْجَزَاتِ

جس کی روشن نشانیوں سے اُونچے ٹیلے اور گہری وادیاں جگمگانے لگیں اور جس کے معجزات

آيَاتِهِ نَطَقَ الْكُتُبُ وَتَوَاتَرَتِ الْأَحْبَارُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

سے اللہ تعالیٰ کی کتاب اور متواتر حدیثیں گویا ہوئیں درود بھیجے اللہ تعالیٰ آپ پر

وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الَّذِينَ هَاجَرُوا وَالنُّصَرِيَّةَ وَنَصْرُوهُ

اور آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر جنہوں نے ہجرت کی آپ کی مدد کے لئے اور جنہوں نے

فِي هِجْرَتِهِ فَنَعُو إِلَيْهِمْ هَاجِرُونَ وَنَعُو الْأَنْصَارَ صَلَوةً

ہجرت کی آپ کی ہجرت میں ہیں کتنے اچھے ہیں مہاجر اور کتنے اچھے ہیں انصار ایسا درود

نَامِيَةً دَائِمَةً مَا سَجَعَتْ فِي آيِكُمَا الْأَطْيَارُ وَ

جو بگڑھے بڑھنے والا ہمیشہ رہنے والا جو جب تک زم زمہ نہ سچ رہیں اپنے آشیانوں میں پر نہیں اڑے اور

هَمَعَتْ بِوَبْلِهَا الدِّيمَةُ الْمِدْرَارُضَاعَفَ اللَّهُ

برستار ہے مٹوسلا دھار لینے کئی گنا کر دے اللہ تعالیٰ

عَلَيْهِ دَائِمٌ صَلَوَاتِهِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

آپ پر اپنے دائمی درودوں کو اے اللہ! درود بھیج ہمارے آقا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ الطَّيِّبِينَ الْكِرَامِ صَلَوةً مَوْصُولَةً

محمد پر اور آپ کی آل پر جو پاکیزہ ہیں بزرگ ہیں ایسا درود جو پیہم ملا ہوا ہو

دَائِمَةً الْإِصْبَالِ بِدَوَامِ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ۝

ہمیشہ کے لئے ذو الجلال والاکرام کے دوام کے ساتھ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي هُوَ قُطْبُ

اے اللہ! درود بھیج ہمارے آقا محمد پر جو شانِ جلالی کے

الْجَلَالَةِ وَشَمْسُ النُّبُوَّةِ وَالرِّسَالَةِ وَالْهَادِي

قلب ہیں، آسمانِ نبوت ورسالت کے آفتاب ہیں جو گمراہی سے

مِنَ الضَّلَالَةِ وَالْمُنْقِذُ مِنَ الْجَهَالَةِ صَلَّى اللَّهُ

ہدایت دینے والے ہیں جہالت سے نجات دینے والے ہیں اللہ تعالیٰ درود بھیجے

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَوةٌ دَائِمَةٌ الْإِصْبَالِ وَالتَّوَالِي

آپ پر اور سلام بھیجے ایسا درود جو ہمیشہ متصل ہو اور پے در پے ہو

مُتَعَابِقَةً يَتَعَابِقُ الْأَيَّامَ وَاللَّيَالِي ۝

اور گردش میل و نہار کے ساتھ یکے بعد دیگرے آتا رہے

سَمِعْتُ بَشْرًا يَقُولُ لَا تَجِدُ حَلَاوَةَ الْعِبَادَةِ حَتَّى تَجْعَلَ بَيْنَكَ وَ
بَيْنَ السَّمَاوَاتِ حَائِطًا مِنْ حَدِيدٍ -

ترجمہ۔ میں نے حضرت بشر کو یہ فرماتے سنا کہ تو عبادت کی مٹھاس نہیں پاسکتا جب
تک تو اپنے درمیان اور اپنی خواہشات کے درمیان لوہے کی دیوار نہ کھڑی کر دے۔

حضرت بصری سقلی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں :-

أَرْبَعُ خِصَالٍ تَرْفَعُ الْعَبْدَ الْعِلْمُ وَالْأَدَبُ وَالْأَمَانَةُ وَالْعِفَّةُ -

چار خصلتیں ہیں جو بندے کے مقام کو بلند کر دیتی ہیں۔ علم، ادب، امانت، عفت۔



الْحِزْبُ الثَّامِنُ فِي يَوْمِ الْأَثْنَيْنِ

آٹھویں منزل سووار کے دن

اللَّهُوَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الزَّاهِدِ

اے اللہ! درود بھیج ہمارے آقا محمد پر جو نبی زاہد ہیں

رَسُولِ الْمَلِكِ الصَّمَدِ الْوَاحِدِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

جو رسول میں بادشاہ بے نیاز اور یکا کے درود بھیجے اللہ تعالیٰ آپ پر

وَسَلَّمَ صَلَاةً دَائِمَةً إِلَى مُنْتَهَى الْأَبَدِ بِلَا انْقِطَاعٍ

اور سلام بھیجے ایسا درود جو ہمیشہ رہنے وال ہو ابہد کی انتہا تک بغیر کسی انقطاع اور انتہا کے

وَلَا انْفَادٍ صَلَاةً تُنَجِّنُنَا بِهَا مِنْ حَرِّ جَهَنَّمَ وَوَبَسِّ

ایسا درود کہ تو نجات دے ہمیں اس کی برکت سے جہنم کی گرمی سے اور وہ بہت

الْمِهَادِ ۝ اللَّهُوَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ

بڑا ٹھکانہ ہے اے اللہ! درود بھیج ہمارے آقا محمد پر جو نبی

الرَّافِعِي وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً لَا يَحْصِي لَهَا عَدَدٌ وَلَا

انہی ہیں اور آپ کی آل پر اور سلام ایسا درود جس کا عدد گنا نہ جا سکے اور

يَعْدُ لَهَا مَدَدٌ ۝ اللَّهُوَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً

جس کو شمار نہ کیا جاسکے اے اللہ! درود بھیج ہمارے آقا محمد پر ایسا درود

تَكْرُمُ بِهَا مَثْوَاهُ وَتُبَلِّغُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الشَّفَاعَةِ

کہ مستغز بنا دے تو اس کے سبب آپ کی آرام گاہ کو اور پہنچائے تو اس کے سبب قیامت کے دن قبول شفاعت

رِضَاهُ ۝ اللَّهُ وَصَلَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ

آپ کی خوشنودی کو اے اللہ! درود بھیج ہمارے آقا محمد پر جو نبی

الْأَصِيلِ الْمَسِيدِ النَّبِيلِ الَّذِي جَاءَ بِالْوَحْيِ وَالتَّنْزِيلِ

اصیل ہیں سردار بزرگ ہیں جو لاتے وحی کو اور قرآن کو

وَأَوْضَحَ بَيَانَ التَّأْوِيلِ وَجَاءَهُ الْإِهْمِينُ سَيِّدِنَا

اور واضح کر دیا تاویل کے بیان کو اور آئے جن کی خدمت میں سیدنا

جَبْرِئِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالْكَرَامَةِ وَالتَّقْضِيلِ الْأَسْرَى

جبریل امین علیہ السلام کرامت اور فضیلت کا مژدہ لے کر اور سیر کرانی

بِهِ الْمَلِكُ الْجَلِيلُ فِي الْيَلِّ الْبُهَيْمِ الطَّوِيلِ فَكَشَفَ

جن کو بزرگ بادشاہ نے ہمارے ایک اور طویل رات میں پس اٹھا دیئے

لَهُ عَنِ أَعْلَى الْمَلَكُوتِ وَأَرَاهُ سَنَاءَ الْجَبْرُوتِ وَنَظَرَ

آپ کے لئے عالم عظیم کے پرفے جو برتر ہے اور دکھایا آپ کو عالم جبروت کی جندیوں کو اور

إِلَى قُدْرَةِ الْحَيِّ الدَّائِمِ الْبَاقِي الَّذِي لَا يَمُوتُ ۝

دیکھا آپ نے ہمیشہ زندہ رہنے والے ہمیشہ پائی رہنے والے خدا کی قدرت جسے موت نہیں آتی

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَوةً مَّقْرُونَةً بِالْجَمَالِ

دُرود بھیجے اللہ تعالیٰ آپ پر اور سلام بھیجے ایسا دُرود جو بلا ہوا ہو جمال

وَالْحُسْنِ وَالْكَمَالِ وَالْخَيْرِ وَالْإِفْضَالِ ۝ اللّٰهُمَّ صَلِّ

حُسن اور کمال بھلائی اور بزرگیوں کے ساتھ اے اللہ دُرود بھیج

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْأَطْيَارِ

ہمارے آقا محمد پر اور آپ کی آل پر بشمار بارش کے قطرؤں کے

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ

دُرود بھیج ہمارے آقا محمد پر اور آپ کی آل پر بشمار

وَرَقِ الْأَشْجَارِ ۝ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

درختوں کے پتوں کے دُرود بھیج ہمارے آقا محمد پر اور آپ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ رَبْدِ الْبِحَارِ ۝ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

کی آل پر بشمار سمندر کی جھاگ کے اور دُرود بھیج ہمارے آقا محمد پر

وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْأَنْهَارِ ۝ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

اور آپ کی آل پر بشمار دریاؤں کے اور دُرود بھیج ہمارے آقا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ رَمْلِ الصَّحَارَى

محمد پر اور آپ کی آل پر بشمار صحراؤں کی ریت کے

وَالْقَفَّارِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

اور عیسیٰ میدانوں کے اور درود بھیج ہمارے آقا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ عَدَدِ تِقَلِ الْجِبَالِ وَالْأَحْجَارِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

پر بوزن بوجھ پہاڑوں اور پتھروں کے اور درود بھیج ہمارے آقا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَهْلِ النَّارِ

محمد پر اور آپ کی آل پر بشمار اہل جنت اور اہل دوزخ کے

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدِ

درود بھیج ہمارے آقا محمد پر اور آپ کی آل پر بشمار

الْأَبْرَارِ وَالْفَجَّارِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

نیکوکاروں اور بدکاروں کے اور درود بھیج ہمارے آقا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدِ مَا يَخْتَلِفُ بِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ

آل پر بشمار اس کے کہ یکے بعد دیگرے آتے رہیں رات اور دن

وَاجْعَلِ اللَّهُ صَلَاتَنَا عَلَيْهِ حِجَابًا مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَ

بنادے اسے اللہ ہمارے درود کو آپ پر پردہ عذاب دوزخ سے اور

سَبَبًا لِإِبَاحَةِ دَارِ الْقَرَارِ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ

ذریعہ کہ جنت ہمارے لئے مباح ہو بے شک تو غالب اور بخشنے والا ہے

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ الطَّيِّبِينَ وَ

اور درود بھیجے اللہ تعالیٰ ہمارے آقا محمد پر اور آپ کی آل پر جو پاک ہیں اور

ذُرِّيَّتِهِ الْمُبَارَكِينَ وَصَحَابَتِهِ الْأَكْرَمِينَ وَأَزْوَاجَهُ

آپ کی اولاد پر جو مبارک ہے اور آپ کے صحابہ پر جو بزرگ ہیں اور آپ کی ازواج پر

أَهْمَاتِ الْمُؤْمِنِينَ صَلَاةً مَوْصُولَةً تَتَرَدَّدُ إِلَى يَوْمِ

جو مومنوں کی مائیں ہیں ایسا درود جو بلا ہوا ہو پے در پے ہو قیامت کے دن

الذِّينِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِ الْبَرِّ وَرَبِّ الْمُرْسَلِينَ

تک اے اللہ درود بھیج نیکوں کے سردار پر، بزرگ و رسولوں کی زینت پر

الْأَخْيَارِ وَالْأَكْرَمِ مَنْ أَظْلَمَ عَلَيْهِ الْيَلُّ وَأَشْرَقَ عَلَيْهِ

اور سب سے بزرگ پر جن پر رات تاریک ہوئی اور جن پر دن

النَّهَارِ ۝ ثَلَاثًا ۝ اللَّهُمَّ يَا ذَا الْمَنِّ الَّذِي لَا يَكْفِي

روشن ہوا (یہ تین بار پڑھے) اے اللہ! ایسے احسان والے کہ نہیں بدلا ہو سکتا

أَمْتِنَانُهُ وَالطَّوْلِ الَّذِي لَا يُجَازِي إِنْعَامَهُ وَإِحْسَانَهُ

اس کے انعام کا اے ایسی بخشش والے کہ نہیں عوض ہو سکتا اس کے انعام و احسان کا

نَسْأَلُكَ بِكَ وَلَا نَسْأَلُكَ بِأَحَدٍ غَيْرِكَ أَرَبُّ تَطَلَّقْ

سوال کرتے ہیں ہم تجھ سے تیرے واسطے سے اور نہیں سوال کرتے ہم تجھ سے سوا تیرے سے یہ کہ گویا

السُّنْتَانِ عِنْدَ السُّؤَالِ وَتَوْفِقًا لِلصَّالِحِ الْأَعْمَالِ تَجْعَلْنَا

کرتے تو ہماری زبانوں کو منگو نگی کے سوال کے وقت اور توفیق دے میں اچھے عملوں کی اور کرتے

مِنَ الْأَمْنِ يَوْمَ الرَّجْفِ وَالزَّلَازِلِ يَا ذَا الْعِزَّةِ

ہیں امن والوں سے اُس دن کہ لرزیں زمینیں اور آئے بھونچال اے عزت و

وَالْجَلَالِ ۝ أَسْأَلُكَ يَا نُورَ النُّورِ قَبْلَ الْأَزْمِنَةِ وَالذُّهُورِ

بزرگی والے سوال کرتا ہوں میں تجھ سے اُسے سب نوروں کے نور تمام زمانوں اور مدتوں سے پہلے

أَنْتَ الْبَاقِيُ بِلَا زَوَالٍ الْغَنِيُّ بِلَا مِثَالٍ بِالْقُدُّوسِ الطَّاهِرِ

تو ہی باقی رہنے والا ہے بغیر زوال کے غنی ہے بغیر مثال کے بالکل پاک ہے منزہ ہے

الْعَلِيُّ الْقَاهِرُ الَّذِي لَا يَحِيطُ بِهِ مَكَانٌ وَلَا يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ

برتر ہے سب پر غالب ہے جسے نہ احاطہ کر سکے کوئی مکان اور نہ مشتمل ہو اس کو کوئی

زَمَانٌ ۝ أَسْأَلُكَ بِأَسْمَائِكَ الْحُسْنَى كُلِّهَا وَبِأَعْظَمِ أَسْمَائِكَ

زمانہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے بوسیلہ تیرے جملہ اسمائے حسنیٰ کے اور بوسیلہ تیرے سب سے

إِلَيْكَ وَأَشْرَفَهَا عِنْدَكَ مَنْزِلَةً وَأَجْرًا لَهَا عِنْدَكَ ثَوَابًا

بڑے ناموں کے تیرے نزدیک بزرگ ترین ناموں کے تیرے پاس تہ میں جن کا ثواب تیرے نزدیک بڑا

وَأَسْرَعَهَا مِنْكَ إِجَابَةً وَبِأَسْمَائِكَ الْمُخْرُوجِينَ الْمَكُونُونَ

عظیم ہے جن کے ذریعے تو جہت پرست عاقبول کرتا ہے اور بوسیلہ تیرے اسم نام کے جو مستول ہے چھا ہوا ہے

الْجَلِيلِ الْاَجَلِ الْكَبِيرِ الْاَكْبَرِ الْعَظِيمِ الْاَعْظَمِ الَّذِي مَجَّبَهُ

بزرگ ہے برتر ہے بڑا ہے سب سے بڑا عظیم ہے سب سے عظیم جسے تو دوست گماتا

وَيَرْضَى عَنْكَ دَعَاكَ بِهِ وَتَسْتَجِيبُ لَهُ دُعَاءَهُ ۝

ہے اور تو راضی ہوتا ہے اپنے اس نبی سے جو کہا کرتا ہے تجھے اس نام سے اور قبول فرماتا ہے تو اس کے لئے

اَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ بِاِلٰهٍ اِلَّا اَنْتَ الْحَنَّانُ الْمَنَّانُ بَدِيعُ

اس کی ما کو سوال کرتا ہوں میں تجھ سے اے اللہ بوسیلا اس کے کوئی مجبور نہیں سائے تیرے تو بڑا مہربان بڑا احسان

السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ ذُو الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ عَلُو الْغَيْبِ

کرم والا عظیم کرنے والا آسمانوں اور زمین کا بزرگی اور کرم والا جاننے والا غیب

وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرِ الْمُتَعَالِ ۝ وَاَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الْعَظِيمِ

اور شہادت کا بزرگ برتر سوال کرتا ہوں میں تجھ سے بوسیلا تیرے نام کے عظیم

الْعَظِيمِ الَّذِي اِذَا دُعِيَ بِهِ اَجَبْتَ وَاِذَا سُئِلَتْ

سب سے عظیم وہ جب بلا یا جائے تو اس کے ساتھ تو قبول فرماتا ہے اور جب ال کیا جائے اس

بِهِ اَعْطَيْتَ وَاَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي يَدُلُّ لِعَظَمَتِهِ

کے لئے رعب تو عطا فرماتا ہے اور سوال کرتا ہوں میں تجھ سے تیرے اس نام کے بوسیلا سے کہ جو حکایت ہے تیرے جس

الْعُظْمَاءِ وَالْمُلُوكِ وَالسَّبَاعِ وَالْهُوَامِ وَكُلِّ شَيْءٍ خَلَقْتَهُ

کی عظمت کے سامنے سارے بڑے بادشاہ سارے زندے زمین کی کھوپڑے اور ہر چیز جس کو تو نے پیدا فرمایا ہے

يَا اللَّهُ يَا رَبِّ اسْتَجِبْ دَعْوَتِي يَا مَنْ لَهُ الْعِزَّةُ وَالْجَبَرُوتُ

اے اللہ! اے میرے رب قبول فرما میری دعا کو اے وہ ذات جس کے لئے عزت اور غلبہ ہے

يَا ذَا الْمُلْكِ وَالْمُلْكُوتِ يَا مَنْ هُوَ سَخِيٌّ لَا يَمُوتُ

اے مالک ظاہری اور باطنی جہانوں کے اے وہ جو ہمیشہ زندہ ہے جو مرنے نہیں

سُبْحَانَكَ رَبِّ مَا أَعْطَوْكَ شَانِكَ وَأَرْفَعُ مَكَانَكَ

پاک ہے تو اے میرے رب کیا بڑی شان ہے تیری اور کتنا اونچا مرتبہ ہے تیرا

أَنْتَ رَبِّي يَا مُتَقَدِّسًا فِي جَبْرُوتِهِ إِلَيْكَ أَرْعَبُ

تو میرا رب ہے اے ہر نفس سے پاک اپنی صفات میں تیری طرف ہی رغبت کرتا ہوں

وَإِلَيْكَ أَرْهَبُ يَا عَظِيمُ يَا كَبِيرُ يَا جَبَّارُ يَا قَادِرُ يَا قَوِيٌّ

اور تجھی سے ڈرتا ہوں میں اے عظیم اے کبیر اے ٹوٹے ٹوٹے لوگوں کو جوڑنے والے اے قادر اے توانا

تَبَارَكَتَ يَا عَظِيمُ تَعَالَيْتَ يَا عَلِيُّ سُبْحَانَكَ يَا عَظِيمُ

بڑا برکت والا ہے تو اے عظیم بہت بلند ہے تو اے سب کچھ جاننے والے پاک ہے تو اے عظیم

سُبْحَانَكَ يَا جَلِيلُ أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الْعَظِيمِ التَّامِّ

پاک ہے تو اے جمیل سوال کرتا ہوں میں تجھ سے بوسیدہ تیرے اسم عظیم کے جو کمال ہے

الْكَبِيرِ أَنْ لَا تَسْلُطَ عَلَيْنَا جَبَّارًا عَنِيدًا وَلَا شَيْطَانًا

بڑا ہے یہ کہ نہ مستط کرے تو ہم پر سرکش کو جھٹلاؤ نہ کو اور کسی شیطان سرکش کو

مَرِيدًا وَلَا إِنْسَانًا حَسُودًا وَلَا ضَعِيفًا مِّنْ خَلْقِكَ وَلَا

اور نہ کسی حاسد انسان کو اور نہ کسی کمزور کو اپنی مخلوق سے اور نہ

شَدِيدًا وَلَا بَارًا وَلَا فَاجِرًا وَلَا جَبِيدًا وَلَا عَنِيدًا ۝

کسی طاقتور کو اور نہ کسی نیکو کار کو اور نہ بدکار کو اور نہ کسی منکرجن کو اور نہ کسی سرکش مخالف کو

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فَإِنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ الَّذِي

اے اللہ! میں سوال کرتا ہوں تجھ سے پس میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک تو ہی اللہ ہے

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ

وہ کہ کوئی معبود نہیں سوائے تیرے اکیلا، یکتا بے نیاز ایسا کہ نہ کسی کو جنا

وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ يَا هُوَ يَا مَنْ لَا

اور نہ کسی سے جنا گیا اور نہ اُس کا کوئی ہمسر ہے اے وہ کہ نہیں کوئی ایسا

هُوَ إِلَّا هُوَ يَا مَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يَا زَلِيُّ يَا أَبَدِيُّ يَا دَهْرِيُّ

مگر وہی اے وہ کہ نہیں کوئی معبود عمر وہی، اے وہ جس کی ابتدا نہیں اے جس کی انتہا نہیں

يَا دَيْمُومِي يَا مَنْ هُوَ الْحَيُّ الَّذِي لَا يَمُوتُ يَا إِلَهَنَا وَ

اے قیام زلی اے ابدی اے جو ایسا زندہ ہے کہ ہرگز مرتا نہیں اے ہمارے معبود اور

إِلَهَ كُلِّ شَيْءٍ إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ۝ اللَّهُمَّ

ہر شے کے معبود، معبود یکتا، نہیں کوئی معبود عمر تو اے اللہ!

فَاطْرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَلِيمُ الْغَيْبِ الشَّهَادَةُ الرَّحْمَنُ

پیدا کرنے والے آسمانوں اور زمین کے، جاننے والے غیب و شہادت کے بہت ہی مہربان

الرَّحِيمُ الْحَيُّ الْقَيُّومُ الَّذِي يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانَ الْكَافِرَ وَالْمُؤْمِنَ الْكَافِرَ

بیشمار مہربان، زندہ، دوسروں کو زندہ کرنے والے، بددینے والے، بڑے مہربان، بہت احسان کرنے والے،

الْوَارِثُ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ۝ قُلُوبُ الْخَلَائِقِ

مڑوں کو اٹھانے والے، سب کے وارث، اُسے بزرگی اور بخشش والے، لوگوں کے دل تیرے

بِيَدِكَ نُوَاصِيهِمْ إِلَيْكَ فَاَنْتَ تَزْرَعُ الْخَيْرَ فِي

دست قدرت میں ہیں اُن کی پیشانیاں تیری طرف جھکی ہیں پس تو ہی بوتا ہے بھلائی کو ان کے

قُلُوبِهِمْ وَتَمَحُّو الشَّرَّ إِذَا أَسَأْتُمْ مِنْهُمْ ۝ فَاسْأَلْكَ

دلوں میں اور مٹاتا ہے شر کو جب تو چاہتا ہے ان سے پس میں سوال کرتا ہوں تجھ سے

اللَّهُمَّ أَنْ تَمَحُّ مِنْ قَلْبِي كُلَّ شَيْءٍ تُكْرَهُهُ وَأَنْ

اے اللہ! مٹا دے تو میرے دل سے ہر وہ چیز جو تو ناپسند کرتا ہے اور بھر دے

مَحْشَوْ قَلْبِي مِنْ خَشْيَتِكَ وَمَعْرِفَتِكَ وَرَهْبَتِكَ

میرے دل کو اپنے خوف سے، اپنی معرفت سے، اپنے ڈر سے

وَالرَّغْبَةَ فِيمَا عِنْدَكَ وَالْأَمْنَ وَالْعَافِيَةَ وَأَعْطِفْ

اور ان ہمتوں کی رغبت سے جو تیرے پاس ہیں اور امن سے اور عافیت سے اور توجہ فرما

عَلَيْنَا بِالرَّحْمَةِ وَالْبُرْكَهٖ مِنْكَ وَآهِنَا الصَّوَابَ

ہم پر رحمت کے ساتھ اور برکت کے ساتھ اپنی جناب سے پورے دلوں میں ڈال دینے کی رست بات

وَالْحِكْمَةَ ۝ فَسئَلُكَ اللَّهُمَّ عِلْمَ الْخَائِفِينَ وَإِنَابَةَ

اور انمانی کی بات پس ہم سوال کرتے ہیں تجھ سے اے اللہ! ڈرنے والوں کا علم اور عاجزی

الْمُخْبِتِينَ وَإِخْلَاصَ الْمُوقِنِينَ وَشُكْرَ الصَّابِرِينَ

کرنے والوں کی توجہ یقین والوں کا خلوص صابریں کا شکر

وَتَوْبَةَ الصِّدِّيقِينَ ۝ وَسئَلُكَ اللَّهُمَّ نُورَ رُوحِكَ

صدیقین کی توبہ کا اور ہم مانگتے ہیں تجھ سے اے اللہ! نبی تیری ذات کے

الَّذِي مَلَأَ أَرْكَانَ عَرْشِكَ أَنْ تَرُوعَ فِي قَلْبِي

نور کے جس نے لبریز کر دیا ہے تیرے عرش کے سارے گوشوں کو کہ بوجہ تو میرے دل میں

مَعْرِفَتِكَ حَتَّىٰ أَعْرِفَكَ حَقَّ مَعْرِفَتِكَ كَمَا يَنْبَغِي

اپنی معرفت یہاں تک کہ میں پہچان لوں تجھے جس طرح تیرے پہچاننے کا حق ہے اور جس طرح

أَنْ تَعْرِفَ بِهِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَيْتِنَا

مزاوار ہے کہ تو پہچانا جائے اور درود بھیجے اللہ تعالیٰ ہمارے آقا محمد پر اور ہمارے نبی

وَهُوَ لَا نَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ وَإِمَامِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى

اور سردار محمد پر جو خاتم الانبیاء ہیں اور سب رسولوں کے امام ہیں اور آپ کی

إِلَيْهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○

آل پر اور آپ کے اصحاب پر اور سلام بھیجے بہترین سلام ہے تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے جو رب العالمین ہے

وَهُوَ حَسْبُنَا وَنِعْمَ الْوَكِيلُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

وہ کافی ہے ہمیں اٹوہ بہترین کارساز ہے نہ ہمارے پاس گناہوں سے بچنے کی طاقت ہے اور نہ طاقت

الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ○ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِمَوْلَانِي وَلِقَائِيهِ وَلِكَاتِبِهِ

کی قوت معزز اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ جو عظیم و بزرگ ہے اے اللہ بخش دے اس کے مولا کو اور اس کے قاری کو اس کے کتاب

وَارْحَمَهُمْ وَاجْعَلْهُمْ مِنَ الْمُحْشُورِينَ فِي زَمْرَةٍ

کو اور ان سب پر رحم فرما اور کر دے ان کو ان لوگوں میں جو مشرکین کے اٹھائے جائیں گے

النَّبِيِّينَ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ يَوْمَ

انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے گروہ میں قیامت

الْقِيَامَةِ بِفَضْلِكَ يَا رَحْمَنُ يَا رَحِيمُ ○ وَاعْفِرِ اللَّهُمَّ

کے دن اپنے فضل سے اے رحمن اے رحیم اے اللہ بخش دے

لَنَا وَلِوَالِدِنَا وَوَالِدَاتِنَا وَلِمَشَائِخِنَا وَجَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ

ہمارے لئے اور ہمارے والدین کو ہمارے استادوں کو ہمارے مشائخ کو اور تمام مومن مردوں

وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ

اور عورتوں کو مسلمان مردوں اور عورتوں کو جو زندہ ہیں ان میں سے

وَالْمَوَاتِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ۝ تَوَقَّرْ ۝

اور جوفوت ہو چکے ہیں اپنی رحمت سے آئے ارحم الراحمین پھر =

هَذِهِ الْكَلِمَاتُ أَرْبَعَةٌ عَشْرَ مَرَّةً وَهِيَ هَذِهِ ۝

دُرُودِ پچودہ مرتبہ پڑھنا چاہیے کیونکہ اس کے پڑھنے میں فضلِ عظیم ہے و باللہ التوفیق

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى بَدْرِ التَّامِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى نُورِ الظَّالِمِ ۝

اے اللہ! دُرُودِ بیچ چودھویں رات کے چاند پر اے اللہ! دُرُودِ بیچ ظلمتوں کے نور پر

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مِفْتَاحِ دَارِ السَّلَامِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

اے اللہ! دُرُودِ بیچ جنت کی کلید پر اے اللہ! دُرُودِ بیچ

الشَّفِيعِ فِي جَمِيعِ الْأَنْامِ ۝ تَوَقَّرْ هَذِهِ الْآيَاتُ

تمام عالم کے شفیع پر پھر: اشعار پڑھے جو

الْمُنْسُوبَةُ لِلْمَوْلَفِ

مصنوفِ دلائل الخیرات کی ہفت منسوب ہیں

يَا رَحْمَةً اللَّهُ إِنِّي خَائِفٌ وَجِلٌ ۝

اے اللہ کی رحمت میں خائف ہوں ڈرنے والا ہوں

يَا نِعْمَةً اللَّهُ إِنِّي مُفْلِسٌ عَابٌ ۝

اے اللہ کی نعمت میں مفلس اور کنٹال ہوں

وَلَيْسَ لِي عَمَلٌ أَلْقَى الْعِلْمُ بِهِ

میرے پاس کوئی عمل نہیں جس کے ساتھ میں علمائے علم کی بات کروں

سِوَى مَحَبَّتِكَ الْعُظْمَى وَإِيمَانِي

سوائے تیری محبتِ عظمیٰ کے اور اپنے ایمان کے

فَكُنْ أَمَانِي مِنْ شَرِّ الْحَيَاةِ وَمِنْ

پس بن جائیے میری پناہ زندگی کے شر سے اور

شَرِّ السَّمَاتِ وَمِنْ إِحْرَاقِ جُثَمَانِي

موت کے شر سے اور اس سے کہ میرا جسم جلایا جائے

وَكَنْ غِنَايَ الَّذِي وَابَعْدَهُ فَلَسْ

اور ہو جائیے میری غنا جس کے بعد افلاس نہیں ہے

وَكَنْ فَكَاكِي مِنْ أَغْلَالِ عَصِيَانِي

اور ہو جائیے میری رہائی گناہوں کی زنجیروں سے

تَحِيَّةُ الصَّمِدِ الْمَوْلَى وَرَحْمَتُهُ

اللہ بے نیاز اور مالک کا تحفہ اور اُس کی رحمت ہو

مَا غَذَّتِ الْوُرُقُ فِي أَوْرَاقِ أَغْصَانِ

جب تک کہ پرنندے تھوں والی شاخوں میں گرت گاتے رہیں

عَلَيْكَ يَا عُرْوَتِي الْوُثْقَى وَيَا سَنَدِي

سلام ہوا آپ پر اے میرے مضبوط وسیلے اور اے میرے مکمل بھروسے

الْأَوْفَى وَمَنْ قَدْ حَضَرَ رُوحِي وَرَيْحَانِي

اے وہ جس کی تعریف میری راحت اور میری فرحت ہے



تَوَقَّرَ الْفَاتِحَةَ لِلْمَوْلَفِ وَهَذَا الدُّعَاءُ يُقْرَأُ

پھر صنف کے لئے فاتحہ پڑھی جائے اور دلائل الخیرات کے اختتام کے

عَقِيبَ خَلْوَدِ الْأَيْمَنِ الْخَيْرَاتِ

بعد سے دعا پڑھی جائے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمائے الہیہ

اللَّهُمَّ اسْرَحْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ صُدُورَنَا وَتَبِيرِهَا

اے اللہ کھول دے اپنے حبیب پر درود بھیجنے کے طفیل ہمارے سینوں کو اور آسان کر دے اس کی

أُمُورَنَا وَفَرِّجْ بِهَا هُمُومَنَا وَاسْتَفِ بِهَا غَمُومَنَا

برکت سے ہمارے کاموں کو ڈور فرمائے ہمارے غموں کو کھول دے ہمارے غموں کو

وَاعْفِرْ بِهَا ذُنُوبَنَا وَاقْضِ بِهَا دِيُونَنَا وَأَصْلِحْ بِهَا

اوپر بخش دے اس کی برکت سے ہمارے گناہوں کو ادا کر دے اس کے طفیل ہمارے قرضوں کو درست کر دے اس کی

أَحْوَالَنَا وَبَلِّغْ بِهَا أَمَالَنَا وَتَقَبَّلْ بِهَا تَوْبَتَنَا

برکت سے ہمارے حوال کو اور پہنچا دے تمہیں اس کے سبب اپنی امیدوں تک اور قبول فرما اس کے طفیل ہماری توبہ کو

وَاعْسِلْ بِهَا حُوبَتَنَا وَأَنْصِرْ بِهَا مَجْتَنَانَا وَطَهِّرْ بِهَا

اور دھو دے اس کی برکت سے ہمارے گناہ کو اور مدد فرما اس کے طفیل ہماری محنت کی اور پاک کر دے اس کی برکت سے

السُّنَّتِنَا ۝ وَالنَّسْبِنَا وَحَشَّتِنَا ۝ وَارْحُوبِنَا عَرَبِنَا ۝

ہماری زبانوں کو اور مانوس کرنے اس کی برکت سے ہماری وحشت کو اور ہم فرما اس کے صدقے ہماری بھرتی

وَجَعَلَهَا نُورًا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمِنْ خَلْفِنَا ۝ وَعَنْ أَيْمَانِنَا

اور بنا دے اس کو ایک نور ہمارے سامنے اور ہمارے پیچھے اور ہماری بائیں جانب

وَعَنْ شِمَائِلِنَا ۝ وَمِنْ فَوْقِنَا وَمِنْ تَحْتِنَا ۝ وَفِي

ہماری بائیں جانب ہمارے اوپر ہمارے نیچے ہماری

حَيَاتِنَا وَمَوْتِنَا وَفِي قُبُورِنَا وَحَشْرِنَا وَنَشْرِنَا وَاطْرَافِنَا

زندگی میں ہماری موت میں ہماری قبروں میں اور میدانِ حشر میں اور قیامت کے دن بنا دے اسے

الْقِيَامَةِ عَلَى رُءُوسِنَا ۝ وَثَقَلُ بِهَا مَوَازِينَ حَسَنَاتِنَا ۝

قیامت کے دن ہمارے سروں پر اور وزنی بنا دے اس کے ساتھ ہماری نیکیوں کے چڑوں کو

وَأَدْرَكَ بِرُكَاةِهَا عَلَيْنَا حَتَّى نَلْقَىٰ نَبِيَّنَا وَسَيِّدَنَا مُحَمَّدًا

اور باقی رکھ اس کی برکتوں کو ہم پر یہاں تک کہ ہم ملاقات کریں اپنے نبی مکرّم اپنے آقا سردار محمد سے

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ آمِنُونَ ۝

صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علی آلہ وسلم در آں حالیکہ ہم امن میں ہوں

مُطْمَئِنُّونَ فَرِحُونَ مُسْتَبَشِرُونَ ۝ وَلَا تَقْرُقُ بَيْنَنَا

مطمئن ہوں شاداں و فرحان ہوں اور نہ بھدائی ڈال ہمارے درمیان

وَبَيْنَهُ حَتَّى تَدْخُلْنَا مَدْخَلَهُ وَتَوَوُّؤُنَا إِلَى جَوَارِهِ الْكَرِيمِ

اور ہمارے آگے کے درمیان یہاں تک کہ داخل فرمادے تو ہمیں حضور کے داخل ہونے کی جگہ میں اترنا دے میں حضور کے

مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ

جو اکریم میں اور ان نیک نغمتوں کے ساتھ جن پر تو نے نعام فرمایا یعنی انبیاء ، صدیقین

وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ۝ اللَّهُمَّ

شہداء ، صالحین اور بہت اچھی ہے اُن کی سُنَّت اے اللہ!

إِنَّا آمَنَّا بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ نَرَاهُ فَمَتَّعْنَا

ہم ایمان لائے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہم دیکھے ہیں میں شاد کام فرما

اللَّهُمَّ فِي الدَّارَيْنِ بِرُؤْيَيْتِهِ وَثَبَّتْ قُلُوبَنَا عَلَى

اے اللہ دونوں جہانوں میں آپ کے دیدار سے ثابت رکھ ہمارے دلوں کو آپ کی

مَحَبَّتِهِ ۝ وَاسْتَعْمَلْنَا عَلَى سُنَّتِهِ ۝ وَتَوَقَّعْنَا عَلَى مِلَّتِهِ ۝

محبت پر اور عمل کی توفیق عطا فرمایا میں آپ کی سنت پر اور وفات دے میں آپ کی ملت پر

وَاحْشَرْنَا فِي زُمْرَتِهِ النَّاجِيَةِ وَحَرْبِهِ الْمُفْلِحِينَ ۝

اور اٹھا میں آپ کے نجات پانے والے ٹولہ اور فلاح پانے والے گروہ میں

وَأَنْفَعْنَا بِمَا نَطَوْتُ عَلَيْهِ قُلُوبَنَا مِنْ مَحَبَّتِهِ صَلَّى اللَّهُ

اور نفع دے میں آپ کی محبت سے جو ہمارے دلوں میں پنہاں ہے صلی اللہ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ لَجْدٍ وَكَمَالٍ وَلا بَيْنِينَ ○ وَأُورِدْنَا

علیہ وآلہ وسلم جس دن نہ نفع دے گی کوشش اور نہ کوئی مال نہ بیٹے اور پہنچا ہمیں حضور

حَوْضَهُ الْأَصْفَى ○ وَأَسْقَيْنَا بِكَاسِهِ الْأَوْفَى ○ وَيَسِّرُ

کے صاف حوض پر اور سیراب کر ہمیں آپ کے لبریز جام سے اور آسان فرمائے

عَلَيْنَا زِيَارَةَ حَرَمِكَ وَحَرَمِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُمِيتَنَا ○

ہماری بے اپنے حرم کی اور اپنے محبوب کے حرم کی زیارت اس سے قبل کہ تو ہمیں وفات دے

وَأَدِمُّرْ عَلَيْنَا الْإِقَامَةَ بِحَرَمِكَ وَحَرَمِهِ صَلَّى اللَّهُ

اور دائمی کر دے ہماری بے اقامت کو اپنے حرم میں اپنے محبوب کے حرم میں صلی اللہ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَنْ تَتَوَفَّى ○ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَشْفِعُ بِهٖ

علیہ وسلم یہاں تک کہ ہم وفات پائیں اے اللہ ہم شفاعت طلب کرتے ہیں آپ کی

إِلَيْكَ إِذْ هُوَ أَوْجَهُ الشَّفَعَاءِ إِلَيْكَ ○ وَنَفْسِهِ بِهٖ

تیری جناب میں کیونکہ وہ سب سفینوں سے تیری بارگاہ میں عزت والے ہیں اور ہم قسم دیتے ہیں آپ کی تجھے

عَلَيْكَ إِذْ هُوَ أَعْظَمُ مَنْ أُقْسَمُ بِحَقِّهِ عَلَيْكَ ○

کیونکہ آپ ان سب سے بڑے ہیں جن کے حق کی قسم تجھے دی جاتی ہے

○ وَتَوَسَّلُ بِهِ إِلَيْكَ إِذْ هُوَ أَقْرَبُ الْوَسَائِلِ إِلَيْكَ ○

اور ہم وسیلہ پڑھتے ہیں آپ کا تیری طرف کیونکہ وہ سب وسیلوں سے تیری طرف قریب تر ہے

نَشَاؤُا إِلَيْكَ يَا رَبِّ قَسْوَةً قُلُوبِنَا ۝ وَكَثْرَةً دُنُوبِنَا ۝

اور ہم شکایت کرتے ہیں تیری جناب میں اے باپنے لوں کی سختی کی اور اپنے گناہوں کی کثرت کی

وَطُولَ أَمَلِنَا ۝ وَفَسَادَ أَعْمَالِنَا ۝ وَتَكَاسُلَنَا عَنِ

اور اپنی امیدوں کے طویل ہونے کی اور اپنے اعمال کے فاسد ہونے کی اور نسیکیوں میں

الطَّاعَاتِ ۝ وَهَجُومَنَا عَلَى الْمُخَالَفَاتِ ۝ فَنِعْمَ

سستی کی اور نافرمانی میں هجوم کرنے کی کیونکہ تو ہی

الْمُشْتَكِي إِلَيْهِ أَنْتَ يَا رَبِّ بِكَ نَسْتَصْرِعُ عَلَى أَعْدَائِنَا ۝

وہ بہترین ہے جس کے پاس شکایت کی جا سکتی ہے اے میرے رب تجھی سے ہم مدد مانگتے ہیں اپنے

وَأَنْفُسِنَا فَأَنْصُرْنَا ۝ وَعَلَى فَضْلِكَ تَتَوَكَّلُ فِي صَلَاحِنَا

وہمنوں پر اپنے نفسوں پر بھی مدد فرما ہماری اور تیرے فضلِ کرم پر ہم بھروسہ کرتے ہیں اپنی اصلاح کے معاملہ میں

فَلَا تَكِلْنَا إِلَى غَيْرِكَ يَا رَبَّنَا ۝ اللَّهُمَّ وَإِلَى جَنَابِ

پس پڑ کر ہمیں اپنے غیر کی طرف اے تیرے پروردگار اور تیرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم

رَسُولِكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْتَسَبُّ فَلَا تَبْعِدْنَا

کی بارگاہِ عالی میں ہم نسبت چاہتے ہیں پس ہمیں دُور نہ کر وہاں سے

وَبِبَابِكَ نَقِفُ فَلَا تَطْرُدْنَا ۝ وَإِلَيْكَ نَسْأَلُ فَلَا

ہم تیرے دروازے پر کھڑے ہیں پس نہ دُور نہ کر ہمیں ہم تجھی سے سوال کرتے ہیں پس

تُخَيِّبُنَا ۝ اللَّهُمَّ ارْحُوتْضِرُّعَنَا وَامِنْ خَوْفِنَا وَتَقْبَلْ

ہم کو محروم نہ کر اے اللہ رحم فرما ہماری عاجزی پر اور امن سے ہمارے خوف کو اور قبول فرما

اَعْمَالِنَا وَاصْلِحْ اَحْوَالِنَا ۝ وَاجْعَلْ بِطَاعَتِكَ اشْتِغَالِنَا

ہمارے عملوں کو درست فرما ہمارے اسوا کو اور مشغول فرما میں اپنی اطاعت کے ساتھ

وَإِلَى الْخَيْرِ مَالِنَا ۝ وَحَقِّقْ بِالزِّيَادَةِ اِمَالِنَا ۝

اور خیر کی طرف ہمارا انجام کر اور پوری فرما زیادتی کے ساتھ ہماری امیدیں

وَاخْتَوِ بِالسَّعَادَةِ اَجَالِنَا ۝ هَذَا ذُلُّنَا ظَاهِرٌ بَيْنَ

اور انجام کو پہنچا سعادت کے ساتھ ہماری زندگیوں کو یہ ہے ہماری ذلت جو ظاہر ہے تیری جناب

يَدَيْكَ وَحَالِنَا لَا يَخْفَى عَلَيْكَ ۝ اَمْرٌ تَنَافَرْنَا

میں اور حال ہمارا تجھ پر مخفی نہیں جس چیز کا تو نے میں حکم دیا وہ تو ہم نے چھوڑ

وَنَهَيْتُنَا فَارْتَكَبْنَا ۝ وَلَا يَسْعُنَا اِلَّا عَفْوُكَ ۝

دی اور جس چیز سے تو نے ہمیں دکا اس کا ہم نے ارتکاب کیا پس میں کوئی امید نہیں لے تیری بخشش کے

فَاعْفُ عَنَّا يَا خَيْرَ مَا مَوْلٍ ۝ وَاكْرَمَ مَسْئُولٍ ۝

پس بخش دے ہم کو اے بہترین امید کئے جوئے اور سب زیادہ سخی جس سے مانگا گیا

اِنَّكَ عَفُوٌّ غَفُورٌ ۝ رَحِيمٌ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ۝

یے شک تو بہت معاف کرنے والا بہت بخشنے والا بہت مہربان ہمیشہ رحم کرنے والا یا ارحم الراحمین

وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ

و صلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا محمد و علی آلہ و صحبہ

وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

و سلم تسلیماً و الحمد لله رب العالمین

قَالَ السَّرِيُّ حُسْنُ الْخُلُقِ كَفُّ الْأَذَى عَنِ النَّاسِ وَاحْتِمَالُ الْأَذَى عَنْهُمُ بِإِحْقَادٍ وَكَامُكَافَاةٍ۔

ترجمہ۔ حضرت سہری نے فرمایا حسن خلق یہ ہے کہ تو لوگوں کو اذیت پہنچانے سے باز رہے۔ اور لوگوں کی اذیت رسانی کو برداشت کرے اس طرح کہ تیرے دل میں ان کے بارے میں کینہ نہ ہو اور انتقام لینے کا خیال نہ ہو۔

قَالَ السَّرِيُّ مِنْ عَلَامَةِ الْإِسْتِدْرَاجِ الْعَمَىٰ عَنِ عِيُوبِ النَّفْسِ۔

ترجمہ۔ حضرت سہری نے فرمایا کہ استدراج کی نشانی یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کے عیوب سے اندھا ہو جائے۔

دُرُودِ اَكْبَرِ اَعْظَمِ سَيِّدِنَا غَوْثِ اَعْظَمِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
 دُرُودِ اَكْبَرِ اَعْظَمِ مَحْتَفِ غَوْثِ اَعْظَمِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے

نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

ہم حمد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اور دُرُودِ بیچتے ہیں اُس کے رسول کریم پر

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَقْبَلُ بِهَا

اے اللہ دُرُودِ بیچ ہمارے آقا اور ہمارے نبی محمد پر ایسا دُرُودِ جس کی برکت سے قبول کرے

دُعَانَا اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً

تو ہماری دُعا اے اللہ دُرُودِ بیچ ہمارے آقا اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایسا دُرُودِ کہ

تَسْمَعُ بِهَا اسْتِغَاثَتَنَا وَنِدْعَانَا اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا

سُنے تو اس کی برکت سے ہماری فریاد اور ہماری پکار اے اللہ دُرُودِ بیچ ہمارے آقا

وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَسْلُوْ بِهَا اِيْمَانَنَا اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی

اور ہمارے نبی محمد پر ایسا دُرُودِ کہ سلامت رکھے تو اس کی برکت سے ہمارے ایمان کو اے اللہ دُرُودِ بیچ

سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَقْوِيْ بِهَا اِيْقَانَنَا اللّٰهُمَّ

ہمارے آقا اور ہمارے نبی محمد پر ایسا دُرُودِ کہ مضبوط کرے تو اس کی برکت سے ہمارے یقین کو اے اللہ

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَغْفِرُ بِهَا ذُنُوبَنَا

دُرُودِ بَیْحِ ہمارے آقا اور ہمارے نبی محمد پر ایسا دُرُودِ کَبِیْرٍ کہ بخش دے تو اُس کی برکت سے ہمارے گناہ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَسْتُرُ بِهَا

اے اللہ دُرُودِ بَیْحِ ہمارے آقا اور ہمارے نبی محمد پر ایسا دُرُودِ کَبِیْرٍ کہ ڈھانپ لے تو اُس کی برکت سے

عُيُوبَنَا اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَحْفَظُنَا

ہمارے عیبوں کو اے اللہ دُرُودِ بَیْحِ ہمارے آقا اور ہمارے نبی محمد پر ایسا دُرُودِ کَبِیْرٍ کہ حفاظت فرمائے تو ہماری

بِهَا مِنْ الْكُتَابِ السَّيِّئَاتِ اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَ

اس کی برکت سے گناہوں کے ارتکاب سے اے اللہ دُرُودِ بَیْحِ ہمارے آقا اور

نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُوَفِّقُنَا بِهَا الْعَمَلَ الصَّالِحَ اللّٰهُمَّ

ہمارے نبی محمد پر ایسا دُرُودِ کَبِیْرٍ کہ توفیق عطا فرمائے ہمیں اُس کی برکت سے نیک کاموں کی اے اللہ

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَقْدِحُ بِهَا عَمَلَنَا

دُرُودِ بَیْحِ ہمارے آقا اور ہمارے نبی محمد پر ایسا دُرُودِ کَبِیْرٍ کہ نجات دے اُس کی برکت سے اس جہنم سے

يُرِدُّنَا اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً

جو ہلاک کر دے ہمیں اے اللہ دُرُودِ بَیْحِ ہمارے آقا اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا دُرُودِ

تَكْسِبُ بِهَا مَا يُنْجِينَا اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا

کہ نصیب کرے تو اُس کی برکت سے ہماری نجات اے اللہ دُرُودِ بَیْحِ ہمارے آقا اور ہمارے نبی

مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تَجْتَبُ بِهَا عَنَا الشَّرَّ كُلَّهُ اللَّهُمَّ صَلِّ

محمد پر ایسا دُرُود کہ دُور بنادے تو اس کی برکت سے ہم سے ہر قسم کے شر کو اے اللہ دُرُودِ یَسِج

عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تَمْنَحُنَا بِهَا الْخَيْرَ

ہمارے آقا اور ہمارے نبی محمد پر ایسا دُرُود کہ عطا فرمائے تو ہمیں اس کی برکت سے ہر قسم

كُلَّهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ

کی خیر اے اللہ دُرُودِ یَسِج ہمارے آقا اور ہمارے نبی محمد پر ایسا دُرُود

تَحْسِنُ بِهَا اخْلَاقَنَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا

کہ اچھے بنادے تو اس کی برکت سے ہمارے اخلاق اے اللہ دُرُودِ یَسِج ہمارے آقا اور ہمارے نبی

مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تُصَلِّحُ بِهَا أَحْوَالَنَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

محمد پر ایسا دُرُود کہ دُرُست کرے تو اس کی برکت سے ہمارے حالات کو اے اللہ دُرُودِ یَسِج

سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تَعْصِمُنَا بِهَا عَنِ الْمَعْصِيَةِ

ہمارے آقا اور ہمارے نبی محمد پر ایسا دُرُود کہ بچالے تو اس کی برکت سے ہمیں گناہوں اور

وَالْغَوَايَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ

گمراہی سے اے اللہ دُرُودِ یَسِج ہمارے آقا اور ہمارے نبی محمد پر ایسا دُرُود کہ

تَرْزُقُنَا بِهَا اتِّبَاعَ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

عطا فرمائے تو ہمیں اس کی برکت سے سنت و جماعت کی پیروی اے اللہ دُرُودِ یَسِج

سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُكَ تَبَعْدُنَا بِهَا مِنْ اقْتِرَانِ

ہمارے آقا اور ہمارے نبی محمد پر ایسا درود کہ دُور کر دے تو ہمیں اُس کی برکت سے آنفوں کے

الْاَفَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُكَ

نزدیک ہونے سے اے اللہ درود بھیج ہمارے آقا اور ہمارے نبی محمد پر ایسا درود کہ

تَكَلَّمْنَا بِهَا عَنِ الزَّلَّاتِ وَالْمَهْفُوتِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

خفاقت کرے تو ہماری اس کی برکت سے لغزشوں اور خطاؤں سے اے اللہ درود بھیج

سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُكَ تَحْصِلُ بِهَا أَمَانًا اللَّهُمَّ

ہمارے آقا اور ہمارے نبی محمد پر ایسا درود کہ میرے تو اُس کی برکت سے ہماری امیدیں اے اللہ

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُكَ تَخْلِصُ بِهَا لَكَ

درود بھیج ہمارے آقا اور ہمارے نبی محمد پر ایسا درود کہ خاص بنا دے تو اُس کی برکت سے اپنے

أَعْمَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُكَ

لئے ہمارے اعمال کو اے اللہ درود بھیج ہمارے آقا اور ہمارے نبی محمد پر ایسا درود

تَجْعَلُ بِهَا التَّقْوَى زَادَنَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا

کہ بنا دے تو اُس کی برکت سے تقویٰ کو ہمارا زبورہ اے اللہ درود بھیج ہمارے آقا اور ہمارے نبی

مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُكَ تَرْتَدُّ بِهَا فِي دِينِكَ اجْتِهَادَنَا اللَّهُمَّ

محمد پر ایسا درود کہ زیادہ کر دے تو اُس کی برکت سے اپنے دین میں ہماری کوشش اے اللہ

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَرْزُقُنَا بِهَا اِسْتِقَالَةً

دُرُودِ بَیْحِ ہمارے آقا اور ہمارے نبی محمد پر ایسا دُرُودِ کَرِ نَصیب کرے تو ہمیں اس کی برکت سے

فِي طَاعَتِكَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً

اِسْتِقَامَتِ اِنْبِیِّ اطاعت پر اے اللہ دُرُودِ بَیْحِ ہمارے آقا اور ہمارے نبی محمد پر ایسا دُرُودِ کَرِ

تَمْنَحُنَا بِهَا اَلْاُنْسَ بِعِبَادَتِكَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ

بَخْش دے تو ہمیں اُس کی برکت سے اِنْسِ اِنْبِیِّ عِبَادَتِ كے ساتھ اے اللہ دُرُودِ بَیْحِ ہمارے آقا اور

نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَحْسِنُ بِهَا تَيْبَتِنَا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا

ہمارے نبی محمد پر ایسا دُرُودِ کَرِ اِحْجَابِ نَادِے اس کی برکت سے ہماری نیتوں کو اے اللہ دُرُودِ بَیْحِ ہمارے

وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَحْسِنُ بِهَا اِخْلَاصَنَا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى

آقا اور ہمارے نبی محمد پر ایسا دُرُودِ کَرِ اِحْجَابِ نَادِے اس کی برکت سے ہماری اِخْلَاصِ کو اے اللہ دُرُودِ بَیْحِ

سَيِّدِنَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَمْنَحُنَا بِهَا اُمْنِيَّتِنَا اَللّٰهُمَّ

ہمارے آقا اور ہمارے نبی محمد پر ایسا دُرُودِ کَرِ نُورِي فَرَاغِے تو اس کی برکت سے ہماری اَرَزُوْ اے اللہ

صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَجِدِرُنَا بِهَا مِنْ شَرِّ الْاِنْسِ

دُرُودِ بَیْحِ ہمارے آقا اور ہمارے نبی محمد پر ایسا دُرُودِ کَرِ نَہِ اہ سے ہمیں اس کی برکت سے اِنْسِ اُنْ

وَالْجَانِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً

جَنُوں کے شَرِّے اے اللہ دُرُودِ بَیْحِ ہمارے آقا اور ہمارے نبی محمد صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً

تُعِيدُنَا بِهَا مِنْ شَرِّ النَّفْسِ وَالشَّيْطَانِ وَاللَّهُ وَصَلَ عَلَيَّ

کہ پناہ دے تو ہمیں اس کی برکت سے نفس اور شیطان کے شر سے اے اللہ دُرُودِ بَیْحِج

سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَحْفَظُنَا بِهَا مِنَ الذَّلَّةِ وَالْقَلَّةِ

ہمارے آقا اور ہمارے نبی محمد پر ایسا دُرُودِ کِحَافِظَتِ کہے تو ہماری اس کی برکت سے دولت اور قلت سے

اللَّهُ وَصَلَ عَلَيَّ سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُعِيدُنَا بِهَا

اے اللہ دُرُودِ بَیْحِجِ ہمارے آقا اور ہمارے نبی محمد پر ایسا دُرُودِ کِحَافِظَتِ دے تو ہمیں اس کی برکت سے

مِنَ الْقَسْوَةِ وَالْغَفْلَةِ اللَّهُ وَصَلَ عَلَيَّ سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ

دل کی سختی اور غفلت سے اے اللہ دُرُودِ بَیْحِجِ ہمارے آقا اور ہمارے نبی محمد پر

صَلَوةً تَحْفَظُنَا بِهَا عَمَّا يَشْغَلُنَا عَنْكَ اللَّهُ وَصَلَ عَلَيَّ

ایسا دُرُودِ کِحَافِظَتِ دے تو ہمیں اس کی برکت سے اس چیز سے جو ہمیں تجھ سے دور کرنے لے اللہ دُرُودِ بَیْحِجِ

سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُوَفِّقُنَا بِهَا لِمَا تَقْرِبُنَا مِنْكَ

ہمارے آقا اور ہمارے نبی محمد پر ایسا دُرُودِ کِحَافِظَتِ دے تو ہمیں اس کی برکت سے ان کاموں کی جو ہمیں تجھ سے

اللَّهُ وَصَلَ عَلَيَّ سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَجْعَلُ بِهَا

نزدیک کر دے لے اللہ دُرُودِ بَیْحِجِ ہمارے آقا اور ہمارے نبی محمد پر ایسا دُرُودِ کِحَافِظَتِ دے تو اس کی برکت سے

سَعِينًا مَشْكُورًا وَعَمَلِنَا مَقْبُولًا اللَّهُ وَصَلَ عَلَيَّ سَيِّدِنَا

ہماری کوشش کو مشکور اور ہمارے عمل کو مقبول لے اللہ دُرُودِ بَیْحِجِ ہمارے آقا

وَبَيْنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَمْنَحُنَا بِهَا عِزًّا وَقَبُولًا اَللّٰهُمَّ

اُور ہمارے نبی محمد پر ایسا دُرُودِ کَرِیْمُ اَفرمائیے تو ہمیں اس کی برکت سے عِزّت و قَبُولیت اے اللہ

صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا وَبَيْنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَقَطِّعُ بِهَا عَمَّنْ

دُرُودِ بَیْحِ ہمارے آقا اُور ہمارے نبی محمد پر ایسا دُرُودِ کَرِیْمُ اَفرمائیے تو اس کی برکت سے

سِوَاكَ اَحْتِیاجُنَا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا وَبَيْنَا مُحَمَّدٍ

اپنے ماسوا سے ہماری حاجتوں کو اے اللہ دُرُودِ بَیْحِ ہمارے آقا اُور ہمارے نبی محمد پر

صَلَوةً تُدِيُوْ بِهَا بِنِعْمَتِكَ اَبْتِهَاجُنَا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی

ایسا دُرُودِ کَرِیْمُ اَفرمائیے تو اس کی برکت سے اپنی نعمتوں کے ساتھ ہماری خوشی کو اے اللہ دُرُودِ بَیْحِ

سَيِّدِنَا وَبَيْنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَكُوْنُ بِهَا فِيْ جَمِيْعِ اُمُوْرِنَا

ہمارے آقا اُور ہمارے نبی محمد پر ایسا دُرُودِ کَرِیْمُ اَفرمائیے تو اس کی برکت سے ہمارے سائے کاسوں میں

وَكَیْلًا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا وَبَيْنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَكُوْنُ

وکیل اے اللہ دُرُودِ بَیْحِ ہمارے آقا اُور ہمارے نبی محمد پر ایسا دُرُودِ کَرِیْمُ اَفرمائیے تو اس

بِهَا الْقِضَاءِ حَواجِنَا كَفِيْلًا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا وَبَيْنَا

کی برکت سے ہماری حاجتوں کو پُر کرانے والا اے اللہ دُرُودِ بَیْحِ ہمارے آقا اُور ہمارے نبی

مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَعِيْدُنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ الْبَلَايَا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی

محمد پر ایسا دُرُودِ کَرِیْمُ اَفرمائیے تو ہمیں اس کی برکت سے ہر قسم کی بلاؤں سے اے اللہ دُرُودِ بَیْحِ

سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَمْنَحُنَا بِهَا جَزِيلَ الْعَطَايَا

ہمارے آقا اور ہمارے نبی محمد پر ایسا درود کہ مرحمت فرمائے تو ہمیں اس کی برکت سے بہترین عطیات

اللَّهُوَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَرْزُقُنَا بِهَا

اے اللہ درود بھیج ہمارے آقا اور ہمارے نبی محمد پر ایسا درود کہ نصیب کرے تو ہمیں اس کی

عَيْشِ الرُّغْدَاءِ اللَّهُوَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً

برکت سے خوشیوں کی زندگی اے اللہ درود بھیج ہمارے آقا اور ہمارے نبی محمد پر ایسا درود

تَمْنَحُنَا بِهَا عَيْشِ السُّعْدَاءِ اللَّهُوَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا

کہ مرحمت فرمائے تو ہمیں اس کی برکت سے سعادت مندوں کی زندگی اے اللہ درود بھیج ہمارے آقا اور ہمارے نبی

مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُسَهِّلُ بِهَا عَلَيْنَا جَمِيعَ الْأُمُورِ اللَّهُوَصَلِّ

محمد پر ایسا درود کہ تو آسان فرمائے اُس کی برکت ہم پر سارے کام اے اللہ درود بھیج

عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُدِيْعُ بِهَا بَرْدَ الْعَيْشِ

ہمارے آقا اور ہمارے نبی محمد پر ایسا درود کہ ہمیشہ قائم رکھے تو اس کی برکت سے عیش و مسرت

وَالسُّرُورِ اللَّهُوَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً

کی تھنڈک اے اللہ درود بھیج ہمارے آقا اور ہمارے نبی محمد پر ایسا درود

تُبَارِكُ بِهَا فِيمَا أَعْطَيْتَنَا اللَّهُوَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا

کہ برکت دے تو اس کی برکت سے اس چیز جس کو تو نے ہمیں عطا فرمائی اے اللہ درود بھیج ہمارے آقا اور ہمارے نبی

مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَمُنَحُنَا بِهَا الرِّضَاءَ بِمَا آتَيْتَنَا اللَّهُمَّ صَلِّ

محمد پر ایسا درود کہ عطا فرمائے تو ہمیں اس کی برکت سے انسان چیزوں کے ساتھ جو تو نے ہمیں دی ہیں اے اللہ درود

عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُزَكِّي بِهَا عَيْنَ الْهُوَى

بیچج ہمارے آقا اور ہمارے نبی محمد پر ایسا درود کہ پاک کر دے تو اس کی برکت سے خواہش سے

نَفْسُنَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُطَهِّرُ

ہمارے نفسوں کو اے اللہ درود بیچج ہمارے آقا اور ہمارے نبی محمد پر ایسا درود کہ پاک کر دے تو

بِهَاعَمَّتْ سِوَاكَ قُلُوبَنَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ

اُس کی برکت سے اپنے ماسوا سے ہمارے دلوں کو اے اللہ درود بیچج ہمارے آقا اور ہمارے نبی محمد پر

صَلَوةً تُصَغِّرُ بِهَا الدُّنْيَا فِي عِيُونِنَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

ایسا درود کہ حقیر بنا دے تو اس کی برکت سے دُنیا کو ہماری نگاہوں میں اے اللہ درود بیچج ہمارے آقا

وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُعْظِمُ بِهَا جَلَالَكَ فِي قُلُوبِنَا اللَّهُمَّ

اور ہمارے نبی محمد پر ایسا درود کہ عظیم بنا دے تو اس کی برکت سے اپنی شانِ جلال کو ہمارے دلوں میں اے اللہ

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُرَضِّينَا بِهَا بِقَضَائِكَ

درود بیچج ہمارے آقا اور ہمارے نبی محمد پر ایسا درود کہ راضی کر دے تو ہمیں اس کی برکت اپنی تمنا کے ساتھ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُوزِعُنَا بِهَا

اے اللہ درود بیچج ہمارے آقا اور ہمارے نبی محمد پر ایسا درود کہ توفیق بخشے تو ہمیں اس کی برکت

شَكَرْنَا لِعَمَّاكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَبَيْنِنَا مُحَمَّدٍ

اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی اے اللہ درود بھیج ہمارے آقا اور ہمارے نبی محمد پر

صَلَاةً تَصْحَحُ بِهَا تَوَكُّلُنَا وَاعْتِمَادُنَا عَلَيْكَ اللَّهُمَّ صَلِّ

ایسا درود کہ درست کرے تو اس کی برکت سے ہمارا توکل اور ہمارا اعتماد اپنی ذات پر اے اللہ درود بھیج

عَلَى سَيِّدِنَا وَبَيْنِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَحَقِّقُ بِهَا وَثُوقَنَا وَالتَّجَارَتَنَا

ہمارے آقا اور ہمارے نبی محمد پر ایسا درود کہ پختہ کرے تو اس کی برکت سے ہمارا اعتماد اور ہماری تجارت

لَيْكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَبَيْنِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَرْضِيكَ

اپنی طرف اے اللہ درود بھیج ہمارے آقا اور ہمارے نبی محمد پر ایسا درود جو راضی کرے تجھے

وَتَرْضِيهِ وَتَرْضَى بِهَا عَنَّا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَبَيْنِنَا

اور راضی کر دے اسے اور تو راضی ہو جائے اس کی برکت ہم سے اے اللہ درود بھیج ہمارے آقا اور ہمارے نبی

مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَجْزِيُنَا بِهَا مَافَاتِ مِنَّا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ

محمد پر ایسا درود کہ تالی کرے تو اس کی برکت سے جو فوت ہو گیا ہے ہم سے اے اللہ درود بھیج

سَيِّدِنَا وَبَيْنِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَعِيدُنَا بِهَا مِنَ الْعَجَبِ وَالرَّيْبِ

ہمارے آقا اور ہمارے نبی محمد پر ایسا درود کہ پناہ دے تو ہمیں اس کی برکت سے غور اور ریاہ سے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَبَيْنِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَحْفَظُنَا بِهَا

اے اللہ درود بھیج ہمارے آقا اور ہمارے نبی محمد پر ایسا درود کہ حفاظت کرے تو ہماری اس کی

مِنَ الْحَسَدِ وَالْكَبْرِيَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا

برکت سے حسد اور تکبر سے آئے اللہ درود بھیج ہماری آقا اور ہمارے نبی

مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَكْسِرُ بِهَا شَهْوَاتِنَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

محمد پر ایسا درود توڑے تو اس کے ساتھ ہماری نفسانی خواہشوں کو آئے اللہ درود بھیج ہمارے آقا

وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَجْزِعُ بِهَا عَادَاتِنَا اللَّهُمَّ صَلِّ

اور ہمارے نبی محمد پر ایسا درود کہ ٹھوکر دے تو اس کی برکت سے ہماری عادتوں کو آئے اللہ درود بھیج

عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَصْرِفُ بِهَا عَنِ النَّاسِ

ہمارے آقا اور ہمارے نبی محمد پر ایسا درود کہ پھیر دے تو اس کی برکت سے ہمارے لوگوں

وَلذَاتِهَا قُلُوبُنَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ

کو دنیا سے اور اس کی لذتوں سے آئے اللہ درود بھیج ہمارے آقا اور ہمارے نبی محمد پر

صَلَوةً تَجْمَعُ بِهَا فِي الْإِسْتِيقَاقِ إِلَيْكَ هُمُومُنَا اللَّهُمَّ

ایسا درود کہ جمع کر دے تو اس کی برکت سے ہماری سوچوں کو اپنے شوق کی طرف آئے اللہ

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُؤَحِّسُنَا بِهَا عَمَّنْ سِوَاكَ

درود بھیج ہمارے آقا اور ہمارے نبی محمد پر ایسا درود کہ اپنی دلکش کر دے تو اس کی برکت میں اپنے سوا

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُؤَنِّسُنَا بِهَا بِقُرْبِ رَأْسِكَ

آئے اللہ درود بھیج ہماری آقا اور ہمارے نبی محمد پر ایسا درود کہ مانوس کر دے تو ہمیں اس کی برکت سے نبی دوستی کے قرب سے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَقْرُبُهَا فِي

اے اللہ درود بھیج ہمارے آقا اور ہمارے نبی محمد پر ایسا درود کر ٹھنڈا کر دے تو اس کی برکت

مُنَاجَاتِكَ عِيُونَنَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ

ہماری آنکھوں کو اپنی مناجات میں اے اللہ درود بھیج ہمارے آقا اور ہمارے نبی محمد پر

صَلَاةً تَحْسِنُ بِهَا بِكَ طُؤُنَنَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا

ایسا درود کہ اچھا بنا دے تو اس کی برکت اپنے ساتھ ہمارے گناہوں کو اے اللہ درود بھیج ہمارے آقا اور ہمارے نبی

مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَشْرُحُ بِهَا بِمَعْرِفَتِكَ صُدُورَنَا اللَّهُمَّ صَلِّ

محمد پر ایسا درود کہ کھول دے تو اس کی برکت اپنی معرفت کے ساتھ ہمارے سینوں کو اے اللہ درود بھیج

عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَدِيْعُ بِهَا فِي ذِكْرِكَ وَ

ہمارے آقا اور ہمارے نبی محمد پر ایسا درود کہ یاد رکھنا دے تو اس کی برکت سے اپنے ذکر اور فکر میں

فِكْرِكَ سُرُورَنَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً

ہماری مسرت کو اے اللہ درود بھیج ہمارے آقا اور ہمارے نبی محمد پر ایسا درود

تَرْفَعُ بِهَا عَن قُلُوبِنَا الْحُجُبَ وَالْأَسْتَارَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

کہ اٹھی دے تو اس کی برکت سے ہمارے دلوں سے حجاب اور پردے اے اللہ درود بھیج

سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَمْنَحُنَا بِهَا شُهُودَكَ فِي

ہمارے آقا اور ہمارے نبی محمد پر ایسا درود کہ عطا فرمائے تو ہمیں اس کی برکت سے اپنا مشاہدہ

جَمِيعِ الْأَثَارِ اللَّهُ وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ

تمام آثار میں اے اللہ درود بھیج ہمارے آقا اور ہمارے نبی محمد پر ایسا درود

تَقْطَعُ بِهَا حَدِيثَ نَفْسِنَا بِأَعْلَامِكَ اللَّهُ وَصَلَّ عَلَى

کہ منقطع کر دے تو اس کی برکت سے ہمارے نفسوں کے دوسرے اپنی نشانیوں کے ساتھ اے اللہ درود بھیج

سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تَبْدُلُ بِهَا هَوَا جَسَدِ قُلُوبِنَا

ہمارے آقا اور ہمارے نبی محمد پر ایسا درود کہ تبدیل کر دے تو اس کی برکت سے ہمارے دلوں کے افکار کو

بِالْهَامِكِ اللَّهُ وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ

اپنے اہام کے ساتھ اے اللہ درود بھیج ہمارے آقا اور ہمارے نبی محمد پر ایسا درود

تَفِيضُ بِهَا عَلَيْنَا جَدِّ بَاتِكِ اللَّهُ وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا وَ

کہ ائمہ علیہ تو اس کی برکت سے ہم پر اپنی محبت کے جذبات اے اللہ درود بھیج ہمارے آقا اور

نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تَسْمَلُنَا بِهَا بِفَحَائِكِ اللَّهُ وَصَلَّ عَلَى

ہمارے نبی محمد پر ایسا درود کہ شامل کر لے تو ہمیں اس کی برکت سے اپنی خوشبودوں کے ساتھ اے اللہ درود بھیج

سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تَحُلُّنَا بِهَا مَنَازِلَ السَّارِيْنَ

ہمارے آقا اور ہمارے نبی محمد پر ایسا درود کہ آتا ہے ہمیں اس کی برکت سے ان لوگوں کی منازل جتنی ہیں

اللَّهُ وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ تَرْفَعُ بِهَا مَنَازِلَنَا

میرے ہیں اے اللہ درود بھیج ہمارے آقا اور ہمارے نبی محمد پر ایسا درود کہ بلند کر دے تو اس کی برکت سے ہمارے تہ

وَمَا كُنَّا نَدْعُكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً

اور شان کو اپنی جناب میں اے اللہ درود بھیج ہمارے آقا اور ہمارے نبی محمد پر ایسا درود

تَسْحَقُ بِهَا فِي إِرَادَتِكَ أَمَّا نَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا

کہ شادے تو اس کی برکت سے اپنے ارادہ میں ہماری آرزوؤں کو اے اللہ درود بھیج ہمارے آقا اور ہمارے نبی

مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَسْحَقُ بِهَا فِي أَعْمَالِكَ أَمَّا نَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

محمد پر ایسا درود کہ ہو کرے تو اس کی برکت سے ہمارے اعمال کو اپنے اعمال میں اے اللہ درود بھیج

سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُفْنِي بِهَا فِي صِفَاتِكَ صِفَاتِنَا

ہمارے آقا اور ہمارے نبی محمد پر ایسا درود کہ فنا کر دے تو اس کی برکت سے ہماری صفتوں کو اپنی صفتوں میں

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَمْحُو بِهَا فِي

اے اللہ درود بھیج ہمارے آقا اور ہمارے نبی محمد پر ایسا درود کہ ہو کرے تو اس کی برکت سے ہماری

ذَاتِكَ ذَوَاتِنَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً

ذاتوں کو اپنی ذات میں اے اللہ درود بھیج ہمارے آقا اور ہمارے نبی محمد پر ایسا درود کہ

تُحَقِّقُ بِهَا لِيكَ لِقَائِنَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ

یعنی بنا دے تو اس کی برکت سے اپنی طرف ہماری ملاقات کو اے اللہ درود بھیج ہمارے آقا اور ہمارے نبی محمد پر

صَلَوةً تُدِيمُ بِهَا بَتَوَاتُرِ أَنْوَارِكَ صِفَاتِنَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

ایسا درود کہ تو دائمی بنا دے اس کی برکت سے اپنے انوار کے پڑنے پر ہماری صفتوں کو اے اللہ درود بھیج

سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَسْلُكُنَا بِهَا سَلَكَ اَوْلِيَائِكَ

ہمارے آقا اور ہمارے نبی محمد پر ایسا درود کرو کہ تو کامران کرے ہمیں اس کی برکت سے اپنے اولیاء کے راستہ پر

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَرَوْنَاهَا مِنْ

اے اللہ درود بھیج ہمارے آقا اور ہمارے نبی محمد پر ایسا درود کہ سیراب کرے تو ہمیں اس کی برکت

شَرَابٍ اَصْفِيَانِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ

سے اپنے اصفیاء کی شراب سے اے اللہ درود بھیج ہمارے آقا اور ہمارے نبی محمد پر

صَلَوةً تَوْصِلُنَا بِهَا اِلَيْكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا

ایسا درود کہ پنہا دے تو ہمیں اس کی برکت سے اپنی طرف اے اللہ درود بھیج ہمارے آقا اور ہمارے نبی

مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَدْيُوبُهَا حُضُورَنَا اِلَيْكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلٰی

محمد پر ایسا درود کہ تو دائم بنائے اس کی برکت سے ہماری معاضرت اپنی جناب میں اے اللہ درود بھیج

سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَهْوِنُ بِهَا عَلَيْنَا سَكَرَاتِ

ہمارے آقا اور ہمارے نبی محمد پر ایسا درود کہ تو آسمان بنا دے اس کی برکت سے ہمارے لئے موت کی

المَوْتِ وَغَمْرَاتِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ

مہوشیاں اور سختیاں اے اللہ درود بھیج ہمارے آقا اور ہمارے نبی محمد پر

صَلَوةً تَجْعِدُنَا بِهَا مِنْ وَحْشَةِ الْقَبْرِ وَكُرْبَتِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ

ایسا درود کہ پناہ دے تو ہمیں اس کی برکت سے قبر کی وحشت اور سختی سے اے اللہ درود بھیج

عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَمْلَأُ بِهَا قُبُورَنَا يَا نَوَّارِ

ہمارے آقا اور ہمارے نبی محمد پر ایسا درود کہ بھر دے تو اس کی برکت سے ہماری قبروں کو

الرَّحْمَةَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً

رحمت کے انوار سے اے اللہ درود بھیج ہمارے آقا اور ہمارے نبی محمد پر ایسا درود

تَجْعَلُ بِهَا قُبُورَنَا رَوْضَةً مِّنْ رِّيَاضِ الْجَنَّةِ اللَّهُمَّ

کہ بنا دے تو اس کی برکت سے ہماری قبروں کو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ اے اللہ

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَحْمِسُ رِزَابَهَا مَعَ النَّبِيِّينَ

درود بھیج ہمارے آقا اور ہمارے نبی محمد پر ایسا درود کہ جمع کرے ہمیں اس کی برکت سے انبیاء

وَالصَّادِقِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً

اور صدیقین کے ساتھ اے اللہ درود بھیج ہمارے آقا اور ہمارے نبی محمد پر ایسا درود

تَبْعَتْنَا بِهَا مَعَ الشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَیْ

کہ قبروں سے اٹھائے تو ہمیں اس کی برکت سے شہداء و صالحین کی میت میں اے اللہ درود بھیج

سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَمُنِّحُنَا بِهَا قُرْبَةً وَشَفَاعَةً

ہمارے آقا اور ہمارے نبی محمد پر ایسا درود کہ عطا فرمائے تو ہمیں اس کی برکت سے اپنے جیسا کہ قریب و شفاعت

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَفِيضُ بِهَا

اے اللہ درود بھیج ہمارے آقا اور ہمارے نبی محمد پر ایسا درود کہ انڈیلے تو اس کی برکت سے

عَلَيْنَا بِرَكَاتِهِ اللَّهُ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً

ہم پر حضور کی برکتوں کو اے اللہ دُرُودِ بیچ ہمارے آقا اور ہمارے نبی محمد پر ایسا دُرُود

تَحْفَظُنَا بِهَا مِنْ كُلِّ سُوءٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللَّهُ وَصَلِّ عَلَى

کھانت کہے تو ہماری اس کی برکت سے ہر تکلیف سے قیامت کے دن اے اللہ دُرُودِ بیچ

سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَشْمَلُنَا يَوْمَ الْجَزَاءِ بِالرَّحْمَةِ وَالْكَرَامَةِ

ہمارے آقا اور ہمارے نبی محمد پر ایسا دُرُود کہ گھیرے تو ہمیں اس کی برکت سے قیامت کے دن رحمت و کرامت سے

اللَّهُ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُثَقِّلُ بِهَا مِيزَانَنَا

اے اللہ دُرُودِ بیچ ہمارے آقا اور ہمارے نبی محمد پر ایسا دُرُود کہ ہماری بنائے تو اس کی برکت سے ہماری

اللَّهُ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَبْتُ بِهَا عَلَى الصِّرَاطِ

میزان کو اے اللہ دُرُودِ بیچ ہمارے آقا اور ہمارے نبی محمد پر ایسا دُرُود کہ ہمارے تو اس کی برکت سے صراط پر

أَقْدَامَنَا اللَّهُ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَدْخِلُنَا

ہمارے قدموں کو اے اللہ دُرُودِ بیچ ہمارے آقا اور ہمارے نبی محمد پر ایسا دُرُود کہ داخل فرمائے ہمیں تو

بِهَاجَتِ النَّعْيِ بِإِحْسَابِ اللَّهُ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَ

اس کی برکت سے نعمت کی نعمتوں میں بغیر حساب لئے اے اللہ دُرُودِ بیچ ہمارے آقا اور

نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَبِيحُ لَنَا بِهَا النَّظْرَ إِلَى وَجْهِكَ الْكَرِيمِ

ہمارے نبی محمد پر ایسا دُرُود کہ مباح کر دے تو ہمارے لئے اس کی برکت سے اپنے دل پر کرم کی طرف نظر کرنا

مَعَ الْحَبَابِ اللَّهُوَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَبَيْتِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً

اجباب کی معیت میں اے اللہ درود بھیج ہمارے آقا اور ہمارے نبی محمد پر ایسا درود

تُحَلِّقُنَا بِهَا حُبَّ إِلَهِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ اللَّهُمَّ تَوَسَّلْ

کہ عطا فرمائے تو ہمیں اس کی برکت سے آپ کے آل کی اور آپ کے سب صحابہ کی محبت اے اللہ ہمیں سید پرہیز کرتے ہیں

إِلَيْكَ بِسَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَشَفِيعِ الْمُذْنِبِينَ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ

تیری طرف سید المرسلین کا ، شفیع المذنبین ، نبی رحمت ،

وَشَفِيعِ الْأُمَّةِ اللَّهُوَجُحْرَمَتِهِ عِنْدَكَ وَبِقُدْرَةِ لَدَيْكَ

شفیع امت کا اے اللہ آپ کی اس عزت کے طفیل جو تیری جناب میں ہے اس قدر و منزلت

نَسْأَلُكَ الْفَوْزَ عِنْدَ الْقَضَاءِ وَنُزُولَ الشَّهَادَةِ وَعَيْشَ

کے طفیل جو تیری بارگاہ میں ہے ہم سوال کرتے ہیں تجھ سے کامیابی کا قضا کے وقت اور سوال کرتے ہیں گواہوں کے

السُّعْدَاءِ وَالنُّصْرَ عَلَى الْأَعْدَاءِ وَمُرَافَقَةَ الْأَنْبِيَاءِ وَخَيْرَ

نزدک کا اور نیک نعمتوں کی زندگی کا اور مدد کا دشمنوں پر اور انبیاء کی ملگت کا حلال کہ

عِبَادِكَ الضَّعْفَاءَ لِأَنْعَبُدُ سِوَاكَ وَلَا نَطْلُبُ إِذَا مَسَّنَا الضَّرُّ

ہم تیرے کمزور بندے ہیں نہیں عبادت کرتے ہم تیرے سوا کی اور نہیں طلب کرتے جب پہنچتی ہے

الْآيَاتُ فَامِنْ رَوْعَاتِنَا وَأَجِبْ دَعْوَاتِنَا وَقَضِ حَاجَاتِنَا

ہیں کوئی تعجیب مگر تجھ سے ہمارے خوفوں کو امن میں بدلے اور ہماری دعاؤں کو قبول فرما اور تیری حاجتوں کو پورا فرما

فَاغْفِرْ ذُنُوبَنَا وَاسْتَزِعِ بَنِي آيَارْحِيُو يَا كَرِيمُ يَا حَلِيمُ

بخش دئے تہائے گناہوں کو اور ڈھانپ لے ہمارے عیبوں کو اے رحیم اے کریم اے حلیم

وَارْحَمْنَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَبِالْجَابَةِ جَدِيرٌ

اور رحم پر رحم فرما بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے اور دعا قبول کرنا تیری شان کے شایاں ہے

نَعُو النَّصِيرَةَ يَا عَلِيُّ يَا عَظِيمُ يَا عَلِيُّ يَا حَكِيمُ اللَّهُمَّ

تو بہترین کارساز ہے یا علی یا عظیم یا علی یا عظیم یا حکیم اے اللہ

إِنَّا عَيْدُكَ وَجُنْدُكَ مِنْ جُنُودِكَ مُتَعَلِّقُونَ بِجَنَابِ

ہم تیرے بندے ہیں اور تیرے لشکروں میں سے ایک لشکر ہیں جو تیرے نبی مكرم کی

بَيْتِكَ مُتَشَفِعُونَ إِلَيْكَ بِحَبِيبِكَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ وَ

بارگاہ سے وابستہ ہے ہم شفیع لاتے ہیں تیری جناب میں تیرے حبیب کوئے صلئے جہانوں کے پروردگار کو

يَا رَحْمَةَ الرَّاحِمِينَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَبَنِيْنَا

سب سے زیادہ رحمت کرنے والے اور درود بھیج اللہ ہمارے آقا اور ہمارے نبی

مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ وَإِمَامِ الْمُرْسَلِينَ

محمد پر جو خاتم النبیین ہیں اور امام المرسلین ہیں

وَارْضَ عَنِ إِلَهٍ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ذَسُبْحَانَ رَبِّكَ

اور راضی ہو جا آپ کی آل سے اور آپ کے تمام صحابہ سے اے صیب! تیرا رب

رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ

جو عزت والا رب ہے ان نقائص سے پاک ہے جس کو وہ بیان کرتے ہیں اور سلام ہو تمام رسولوں پر

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

اور سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے جو رب العالمین ہے



تاریخ مائے اعراس مشائخ عظام اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین

نام ماہ	ام مبارک صاحب عرس	تاریخ
محرم الحرام	۱ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ	یکم
	۲ حضرت شیخ شہاب الدین سروردی رحمۃ اللہ علیہ	یکم
	۳ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ	۲
	۴ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ	۳
	۵ حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ	۶، ۵
	۶ ربیعہ الشہداء امام حسین و شہداء کربلا رضوان اللہ علیہم اجمعین	۱۰
	۷ حضرت خواجہ محمد ضیا الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ	۱۳، ۱۲
	۸ مولانا زین الدین مکھڑی رحمۃ اللہ علیہ	۱۳
	۹ حضرت خواجہ مرشد اہلودنوری رحمۃ اللہ علیہ	۱۳
	۱۰ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ	۱۹
	۱۱ حضرت سید محمد کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ	۲۰
صفر المظفر	۱۲ حضرت غوث العالمین شیخ الاسلام بہاؤ الحق والدین ذکریا کتانی رحمۃ اللہ علیہ	۶، ۵، ۱۴
	۱۳ حضرت خواجہ محمد سلیمان قوشوی رحمۃ اللہ علیہ	۷
	۱۴ حضرت داماد گنج بخش ابوالحسن علی جویری رحمۃ اللہ علیہ	۱۹
	۱۵ حضرت محمود راجن رحمۃ اللہ علیہ	۲۲
	۱۶ حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ	۲۳، ۲۲
	۱۷ حضرت خواجہ علم الدین رحمۃ اللہ علیہ	۲۶
	۱۸ حضرت جمد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ	۲۷
	۱۹ حضرت مولانا یحییٰ مدنی رحمۃ اللہ علیہ	۲۸

۲۰۔ حضرت پیر عمر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ

۲۸۔ سید الطاهر

۲۱۔ بیچ اول

۲۲۔ حضرت امام حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ

۲

۲۳۔ حضرت خواجہ فضیل رحمۃ اللہ علیہ

۳

۲۴۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ

۱۱

۲۵۔ حضرت خواجہ قلب الدین بختیار کاکلی رحمۃ اللہ علیہ

۱۲

۲۶۔ حضرت شاہ کلیم اللہ جہاں آبادی رحمۃ اللہ علیہ

۲۲

۲۷۔ حضرت خواجہ شیخ محمد رحمۃ اللہ علیہ

۲۹

۲۸۔ حضرت غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ

۱۱

۲۹۔ حضرت ابی اسحاق کشمیری رحمۃ اللہ علیہ

۱۲

۳۰۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ

۱۸

۳۱۔ حضرت ناصر الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ

۲۶

بیچ ثانی

۳۲۔ حضرت امام محمد تقی رحمۃ اللہ علیہ

۱۱

۳۳۔ حضرت سید امیر کلال بخاری رحمۃ اللہ علیہ

۸

۳۴۔ حضرت شاہ ذکرن عالم تاتاری رحمۃ اللہ علیہ

۵

۳۵۔ حضرت مولانا سراج الدین رحمۃ اللہ علیہ

۲۱

۳۶۔ حضرت شیخ ابراہیم ادھم بعلی رحمۃ اللہ علیہ

۲۶

۳۷۔ حضرت مولانا محمد حسین مروولی رحمۃ اللہ علیہ

۲۶

۳۸۔ حضرت خواجہ اللہ بخش تونسوی رحمۃ اللہ علیہ

۲۵

بیچ ثانی

جمادی الثانی

- ۳۹ - حضرت ابی اسحق شیبانی رحمۃ اللہ علیہ
 ۴۰ - حضرت ابی محمد شیبانی رحمۃ اللہ علیہ
 ۴۱ - حضرت مولانا محمد معظم الدین مروروی رحمۃ اللہ علیہ
 ۴۲ - امیر السالکین حضرت پیر امیر شاہ صاحب بھروی رحمۃ اللہ علیہ
 ۴۳ - حضرت امام محمد تقی رحمۃ اللہ علیہ
 ۴۴ - حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
 ۴۵ - حضرت مولانا فخر الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ

۲۰
۲
۴
۱۴
۱۵
۱۵
۲۶
۲۶
۲۶
۲۶

رجب المرجب

- ۴۶ - حضرت مولانا محمد شیبانی رحمۃ اللہ علیہ
 ۴۷ - حضرت خواجہ محمد الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ
 ۴۸ - حضرت امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ
 ۴۹ - حضرت خواجہ حسین الدین اجمیری سلطان السند رحمۃ اللہ علیہ
 ۵۰ - حضرت حاجی شریف زبیدی رحمۃ اللہ علیہ
 ۵۱ - حضرت امام جعفر الصادق رحمۃ اللہ علیہ
 ۵۲ - حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ
 ۵۳ - حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ
 ۵۴ - حضرت معروف بہ میاں جی رحمۃ اللہ علیہ
 ۵۵ - حضرت خواجہ بنید رحمۃ اللہ علیہ
 ۵۶ - حضرت خواجہ محمد رحمۃ اللہ علیہ

۴
۲۷
۲۹

شعبان المعظم

- ۵۷ - شیخ ابوالفتح رحمۃ اللہ علیہ
 ۵۸ - حضرت قبلہ پیر محمد شاہ صاحب بھروی رحمۃ اللہ علیہ (تاریخ وصال)
 ۵۹ - فقیر فاضل شاہ گڑھی والے رحمۃ اللہ علیہ

۱۱

۶۰ حضرت میاں گل محمد صاحب تونسوی رحمۃ اللہ علیہ

۱۸-۱۷

۶۱ حضرت قبلہ شیخ الاسلام دامشلمین حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ

۱۸

۶۲ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ

۲۱

۶۳ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ

۲۷

۶۴ حضرت شیخ احمد سنگھ ارحمۃ اللہ علیہ

۲۹

۶۵ حضرت مولانا محمد علی مکتدی رحمۃ اللہ علیہ

۴

۶۶ حضرت قبلہ پیر محمد شاہ صاحب بھروی رحمۃ اللہ علیہ (تاریخ غرس)

۵

۶۷ حضرت خواجہ عثمان پارونی رحمۃ اللہ علیہ

۹

۶۸ حضرت امین الدین حبیبہ البصری رحمۃ اللہ علیہ

۲۵

۶۹ حضرت خواجہ سدید الدین خلیفہ عیشی رحمۃ اللہ علیہ

۱۲

۷۰ حضرت خواجہ نظام الدین اورنگ آبادی رحمۃ اللہ علیہ

۲۷

۷۱ حضرت کمال الدین علامہ رحمۃ اللہ علیہ

۲۸

۷۲ حضرت حسن محمد رحمۃ اللہ علیہ

۳

۷۳ حضرت قبلہ عالم نور محمد ہماروی رحمۃ اللہ علیہ

۱۲

۷۴ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ

۲۰

۷۵ حضرت مولانا جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ

مضامین

سوال

ذی القعدہ

ذی الحجہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهُ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی مَنْ لَا یَبْقٰی بَعْدَهُ عَلٰی اٰلِهٖ وَسَلَّمَ

اس مجموعہ وظائف میں جو وظائف، اوراد اور اذیعیہ ماثورہ درج ہیں، ان کے پڑھنے کی حسب شرائط ہر پڑھنے والے کو میں اجازت دیتا ہوں۔ نیز انہیں تاکید کرتا ہوں کہ وہ یہ وظائف اس نیت سے پڑھے کہ اُسے اللہ تعالیٰ اپنی محبت اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عشق کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اُسے اعمال خیر کی توفیق نصیب ہو اور اُس کا خاتمہ ایمان پر ہو۔

محمد کرم شاہ

فقیر و تقصیر

محمد کرم شاہ چشتی، نظامی، سیالوی

سجادہ نشین آستانہ عالیہ

امیر السالکین حضرت پیر امیر شاہ حنا رحمۃ اللہ علیہ

بھیرہ۔ ضلع سرگودھا

